

السیدہ عباس بانو
سید نزار عیسیٰ

ذریعۃ النجات

مرتبہ:

سید مرتضیٰ حسین صدیق الافضل
شیخ شوکت علی نسیم مرحوم

زید پی ایم (پرائیویٹ) لمیٹڈ

18-15 این، گلبرگ II، لاہور
فون: 5760749, 7661169

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(طبع خاص برائے ایصالِ ثواب)

گلدستہ دعا "ذریعتہ النجات" محترم و مکرم ڈاکٹر رمضان علی شاہ صاحب کا عطیہ ہے۔ یہ صدقہ جاریہ ابد العباد تک ان کیلئے ایصالِ ثواب کا حامل رہے گا۔

اس کتاب کی تصحیح کیلئے جن برگزیدہ ہستیوں نے کاوش فرمائی ان میں شیخ شوکت علی نسیم صاحب کا نام نامی روشن ہے۔ دعاؤں میں اضافہ اور تصحیح کے مدارج میں مولانا عبدالغفور صاحب، مولانا محمد شفیع صاحب اور مولانا محمد حسن جوہری بلتستانی کی مساعی جمیلہ شامل ہیں۔

پروردگار عالم ان تمام مجاہدانِ اہلبیت کے درجات دین و دنیا میں بلند فرمائے۔

ہمیں امید ہے اس کتاب سے استفادہ کرنے والے خواتین و حضرات ہمارے اور جناب شوکت علی نسیم صاحب کے خاندان کے مرحومین کیلئے فاتحہ خوانی کر کے انکی بلندی درجات کیلئے دعا فرمائیں گے۔ آمین بحکم اللہ

محتاج دعا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمین۔ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ
الانبياءِ وَخَاتَمِ المرسلینِ وَعَلٰی اهلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ
المعصومين

جناب محترم و مکرم ڈاکٹر سید رمضان علی شاہ صاحب مدظلہ اپنے بے پنا
مشاغل و مصروفیات کے باوجود صوم و صلوة کے ساتھ ساتھ دعا و مناجات
کے بھی پابند ہیں۔ حقیقت میں علم دین اور علم صحت، دو قیم علم، معرفتِ خدا
اور یقینِ توحید کے ذریعے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت نمائی اور اس ذاتِ
بیمثال کی حکمتیں، اس لاشریک و معبود کی تخلیق میں لاجواب باریکیاں
ایک ماہر بدن جس طرح دیکھتا ہے دوسرے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور
پھر جسم کے تمام اعضا میں مرکز نور و مشاہدہ ”آنکھ“ — سبحان اللہ!!
اس کی باریک جھلیاں اور رقیق پردے، ان پردوں میں لطیف آبدار مادے
پھر باریک باریک رگیں، رگوں کے جال اور ان میں مختلف مادوں اور ٹوٹول
کی روانی، تمام اجزاء کا پھیلاؤ اور ان کا سمٹاؤ، دائرہ در دائرہ اور نقطہ در نقطہ
قوتوں کا جماؤ اور ان کا نور بن کر پھیلاؤ، سب کو دیکھنا اور خود کو نہ دیکھ سکتا،

ہزار در ہزار اسرار و نکات ہیں جنہیں انسانی عقل محسوس کر سکتی ہے مگر زبان ادا نہیں کر سکتی۔ اور یہی شعور و ادراک، عاجزی اور نادانی ”اللہ وحدہ لا شریک“ کا عرفان پیدا کرنے کے لیے شاید محرک ہے۔ ڈاکٹر اور طبیب اسی عرفان سے سرشار ہو کر خدا سے مدد مانگتا اور اس کی قوتوں کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے۔ اس دعا کے اندرونی عوامل اور اس اعترافِ عاجزی کی روح کو غیر کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ خود طبیب اور ڈاکٹر بھی اپنی عقلی کیفیات اور روحانی واردات کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنا سکتا۔ یہ شرف صرف ائمہ اہل بیت کو حاصل ہے کہ انہوں نے وحی کے آب حیات اور ترجمانِ وحی حضرت رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعابِ دہن سے سیرانی حاصل کی، ان کی معرفت عرفانِ بشر کی حدِ آخر، ان کا بیان طاقتِ بشر کا اظہارِ کامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی حد اور عالمِ توفیقاتِ مزید عطا فرمائے، موصوف نے قرآن مجید، آیاتِ کریمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی تعلیم دی ہوئی دعاؤں کا ورد کیا، ان سے ذہنی و اخروی فائدے اٹھائے اور اب ان کی تمتا ہے کہ ان سے تمام اہل اسلام فائدے اٹھائیں اور یہ کتاب ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور دعاؤں کا ورد کر کے حق بندگی ادا کریں اور دعاؤں کو قبولیت سے ہمکنار کریں۔ یہ چھوٹا سا گلدستہ صحیفہ علویہ، صحیفہ کاملہ اور دوسری بڑی کتابوں سے چُن چُن کر تیار کیا گیا ہے اور ان حضرات کے لیے خاص طور پر کارآمد ہے جو وقت کم اور جذبہ زیادہ رکھتے ہیں۔

اصل کتاب فارسی اور دُعائیں عربی میں ہیں۔ میں نے جناب
 ڈاکٹر رمضان علی صاحب دام شرف کے حکم سے سادہ سا اردو ترجمہ کیا ہے۔ اس کا
 مقصد یہ ہے کہ جو کہا جائے اسے سمجھا بھی جائے اور جو سمجھا ہے اس سے درسِ معرفت
 و عرفان بھی حاصل کیا جائے کیونکہ انسانیت اور مذہب کی نوح، اللہ کی معرفت
 اور اس کی توحید کا یقین ہے۔ بندگی کی حقیقت سمجھی جائے اور اللہ سے رابطہ
 رکھا جائے، یہی مقصدِ خلقتِ جن و انسان ہے۔ رسول اللہ کی تعلیم اور
 ائمہ طہرین کے بتلائے ہوئے طریقوں سے اسے بار بار پکارا جائے، اس کا ذکر
 کیا جائے۔ قرآن میں اعلان ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔
 اور جب پریشان حال اضطراب کی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دُعا
 سنتا اور قبول کرتا ہے۔

اللہ ہماری اس حقیر خدمت کو قبول فرمائے۔

سید مرتضیٰ حسین

صدر الافضل

۱۵۔ مغلیہ روہ، لاہور

۲۸۔ جمادی الاول ۱۳۹۴ھ

عظمت و اہمیت دعا

تمام حمد و ثنا اس مالک حقیقی کو زیبا ہے جس نے انسان کو نعمت عقل سے نوازا اور اس کے کاسہ سر میں قدیل عقل روشن کر کے اس کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج سجایا۔ پھر اپنے اور بندہ کے درمیان رابطہ کے لئے دعائیں لگنے کا سلیقہ سکھایا اور اس کے ذریعہ اظہار بندگی سے جنت نعیم کا وعدہ فرمایا تاکہ ذوق عبادت و شوق دعا سے عبد اس کے ہاں قرب حاصل کرے۔

عبادات میں بہترین عبادت دعا ہے۔ دعا عبادت کی روح ہے۔ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ ”خدا کے نزدیک دعا سے مکرم کوئی چیز نہیں“ ایک اور حدیث میں ہے کہ ”دعا مومن کا اسلحہ، دین کا ستون اور زمین و آسمان کی روشنی ہے“ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس کو خداوند تعالیٰ دعا کی توفیق عطا فرمادے وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جسے خدا استغفار کی توفیق عطا فرمادے وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جسے خدا شکر کی توفیق عطا فرمادے وہ حصول نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے: دعا تجھ پر فرض ہے بلاشبہ یہ ہر مرض کی دوا ہے۔

خداوند عزوجل فرماتا ہے: تم مجھے پکارو میں تمہاری سنوں کا دوا بخدا اور بندہ کے

درمیان رابطہ ہے نماز بھی دعا ہے۔ نماز خداوند عالم کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر یہ
 ادا کرنا ہے اور شکر کے بارے میں قرآن پاک میں ہے:
 ”تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اور اگر
 تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب شدید ہے۔“

اس مقصد کے حصول کے لئے چند مستند دعاؤں کو یکجا کر کے یہ تحفہ پیش کیا
 جا رہا ہے کہ عوام و خواص اس سے مستفیذ ہوں۔ مولف کو دعائے خیر سے
 یاد فرمائیں۔

عرض اول

ذریعۃ النجات کا اردو ترجمہ موسوم بہ ہدیہ علویہ

جناب محترم ڈاکٹر سید رمضان علی شاہ صاحب مرحوم و مغفور نے شائع کیا تھا جو
 کہ اب نایاب ہے۔ اس کی افادیت اور مقبولیت کے پیش نظر اس کو دوبارہ
 شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خدائے پاک اس کو قبول فرمائے۔
 اور اس کا ثواب میرے مرحوم والدین کو پہنچے۔ (آمین)

خاکپائے مومنین

شیخ شوکت علی نسیم مرحوم

مورخہ ۱۸- اپریل ۱۹۸۹ء

فہرستِ مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۴	دعا بعد از نماز صبح	۱۵	سورۃ مبارکہ یسین
۱۲۶	مختصر دعا	۲۸	سورۃ الہم
۱۲۶	مختصر دعا	۳۲	سورۃ الکوثر
۱۲۷	نماز اول ہر ماہ	۳۳	سورۃ الملک
۱۲۹	دعا قبولیت نماز	۳۹	سورۃ الواقعہ
۱۳۰	دعا بعد از ہر نماز	۴۷	چار مثل
۱۳۱	دعاے ہزارہ	۴۹	سورۃ التکاثر
۱۳۲	دعاے استغفار	۵۰	سورۃ القدر
۱۳۷	دعا و دفع اعداء و حلال مہما	۵۱	آیت الکرسی
۱۳۹	دعاے نفع	۵۳	دعاے صد سجان
۱۴۲	دعاے تسخیر	۶۶	دعاے مجید
۱۴۲	ہر کلمہ کے آغاز کی دعا	۸۸	دُرود تاج
۱۴۵	دعاے عافیت		ہفتے کے دنوں کی دعائیں
۱۵۰	سواری کی دعا	۹۲	انوار کی دعا
۱۵۱	دعاے ہلال ہر ماہ	۹۵	پیر کی دعا
۱۵۲	دعاے قنوت نماز جمعہ	۹۹	منگل کی دعا
	اعمال ماہِ رمضان	۱۰۱	بدھ کی دعا
۱۵۵	دعاے ہلال	۱۰۲	جمعرات کی دعا
۱۵۶	ایک اور دعا	۱۰۶	جمعہ کی دعا
۱۵۶	نیت روزہ	۱۰۹	ہفتہ کی دعا
۱۵۷	دعاے افطار	۱۱۲	دعاے دفع و با و طاعون

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۳	نماز ہدیہ والدین	۱۵۷	دعا تہہ شہب
۲۰۶	نماز غنیمت	۱۵۸	دوسری دعا
۲۰۹	دعا تہہ توبہ	۱۵۹	تیسری دعا
۲۱۰	دعا تہہ بسم اللہ خیر الاسما	۱۶۲	دعا تہہ سحر
۲۱۳	دعا بوقت ہر صبح	۱۶۷	مختصر دعا تہہ سحر
۲۱۴	دعا تہہ بسم اللہ وباللہ	۱۶۹	ماہ رمضان میں نماز کے بعد کی دعا
۲۱۵	دعا تہہ حفظ از آفات	۱۷۰	اعمال شب قدر
۲۱۷	دعا تہہ طول عمر	۱۷۳	نماز عیدین
۲۱۸	دعا تہہ حاجات	۱۷۶	قنوت نماز عیدین
۲۲۰	دعا تہہ حاجات دیگر	۱۷۷	دعا تہہ قربانی
۲۲۱	دعا دارف ربیع و غم	۱۷۹	اعمال عاشورہ
۲۲۲	نماز حاجت	۱۷۹	سلامتی سال کی دعا
	تعقیبات نماز	۱۸۱	زیارت وارث
۲۲۳	تعقیب نماز فجر پہلی دعا	۱۸۹	نماز آیات
۲۲۵	دوسری دعا	۱۹۲	نماز حضور رسول کریم
۲۲۶	تیسری دعا	۱۹۵	نماز جعفر طیار (صلوۃ التبیح)
۲۲۷	ایک اور دعا	۱۹۵	سورۃ الزلزال
۲۲۹	دعا تہہ صباح امیر المؤمنین	۱۹۶	سورۃ العاديات
۲۳۹	تعقیب نماز ظہر پہلی دعا	۱۹۷	سورۃ النصر
۲۴۰	دوسری دعا	۱۹۸	نماز جناب امیر المؤمنین
۲۴۱	تیسری دعا	۲۰۰	نماز استغاثہ بحضور فاطمہ الزہراء
۲۴۳	تعقیب نماز عصر پہلی دعا	۲۰۰	نماز مغفرت
۲۴۴	دوسری دعا	۲۰۱	نماز حضرت فاطمہ الزہراء
۲۴۵	تیسری دعا	۲۰۲	نماز امام زمانہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۰۲	مشترکہ دعائیں	۲۴۸	تعمیق نماز مغرب پہلی دعا
۲۰۳	چھ مبارک آیات	۲۴۹	دوسری دعا
۲۰۳	پہلی آیت	۲۵۰	تعمیق نماز عشاء پہلی دعا
۲۰۳	دوسری آیت	۲۵۰	دوسری دعا
۲۰۴	تیسری آیت	۲۵۲	تیسری دعا
۲۰۴	چوتھی آیت	۲۵۲	نماز شب
۲۰۵	پانچویں آیت	۲۵۴	دعائے خزین
	چھٹی آیت	۲۶۰	دعائے قنوت وتر
۲۰۶	چھ مزید آیات شریفہ	۲۶۱	دعا بعد نماز شفع
۲۰۶	پہلی آیت	۲۶۳	دعائے حضرت علیؑ
۲۰۶	دوسری آیت	۲۶۴	دعائے مشلول
۲۰۶	تیسری آیت	۲۸۱	دعائے جوشن کبیر
۲۰۶	چوتھی آیت	۳۲۲	دعائے وسعت رزق
۲۰۸	پانچویں آیت	۳۲۳	دعائے توسل
۲۰۹	چھٹی آیت	۳۵۲	دعائے عدلیہ
۲۱۱	دعائے حرز	۳۶۱	دعائے یا من تحمل
	مناجات	۳۶۴	ہر ریشائی و مشکل میں پڑھنے کی دعا
۲۱۷	دعائے معراج		متفرق دعائیں
۲۲۵	دعائے امام زمانؑ	۳۶۵	دعائے کبیل
۲۲۶	حالِ غم	۳۸۹	حدیث کسار
		۴۰۱	امتن عجیب کا عمل

زکوٰۃ دیتے رہو

(اے ایمان والو) نماز پابندی سے ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنی عاقبت کے لئے کما کر آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے ۰

(سورہ بقرہ 2.... ترجمہ آیت 110)

مذمت دنیا

دنیا کو ایک سرائے سمجھو جس میں کچھ دیر قیام کرنا ہے۔ یا دنیا ایک وہ دولت ہے جو خواب میں ملی ہے جب آنکھ کھلی تو پھر کچھ بھی نہیں (اور آنکھ جب کھلتی ہے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں)

ابو زر نے فرمایا۔ اے علم و عقل کو حاصل کرنے والو! اولاد اور مال سے دل نہ لگاؤ کیونکہ ان سے جدا ہونا ہے اس خانہ دنیا میں تم مسمان ہو۔ آج یہاں ہو اور کل منزل دوسری ہوگی۔

امیر المومنینؑ نے ارشاد فرمایا۔ زیادہ مال و دولت کی آرزو نہ کرو اس لیے کہ افزودنی مال افزودنی گناہ کا باعث ہے۔

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ دنیا ایک عمیق دریا ہے جس میں ہزاروں غرق ہو چکے ہیں لہذا نجات

کی فکر کر۔ تقویٰ کی کشتی بنا اور اعمال صالحہ سے کشتی کو بھر لے تو کل کا بادبان بنا۔
عقل کو ناخدا بنا، علم کو معلم اور صبر کو لشکر بنا۔

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ”یہ دنیا ایک عمارت ہے جس کی چھت نہایت پست ہے۔ اگر سر بلند کرے گا سر زخمی ہو گا اور سر جھکا کر چلے گا بہ آرام گزر جائے گا۔“

رسول خدا نے فرمایا ”یہ دنیا ایک وہ لذیذ غذا ہے جو زیادہ کھائی جائے تو درد شکم کا باعث بنتی ہے۔“

رسول خدا نے فرمایا ”دنیا دار کی مثال اس مسافر کی جیسی ہے جو پانی میں چل رہا ہو اور چاہے کہ پیر نہ بھیگیں۔“

دنیا کا مال و دولت، جاہ و نعمت ایک سیڑھی ہے جس سے انسان اوپر بھی جاسکتا ہے اور نیچے بھی آسکتا ہے اس لئے مال و دولت بھی جس طرح بہشت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے اسی طرح دوزخ تک پہنچنے کا بھی ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم کا ارشاد ہے ”خدا نے تم کو جو مال عطا کیا ہے اس سے آخرت طلب کرو اور دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مال دنیا سے تمہارا فائدہ وہی ہے جو تم نے راہ خدا میں صرف کیا ہے اور نہ کہ وہ مال جو تم نے ہوس و خواہش نفس میں خرچ کیا ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔“

سزا اور جزا

جو شخص ہمارے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں ہے، آپ ﷺ ایسے شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیجئے

○ ان لوگوں کے علم کی رسائی کی حد بھی بس یہی کچھ ہے، بے شک آپ ﷺ کا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھگ گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے ○ اور زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، انجام کاریہ ہے کہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے گا اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے گا جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے ○

(سورہ نجم 53..... ترجمہ آیات 29 تا 31)

اللہ کی راہ میں خرچہ کرو

وہی (اللہ تعالیٰ) رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ دل کی باتوں کو خوب جانتا ہے ○ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر ایمان لاؤ اور جس مال میں تم کو اس (اللہ) نے دوسروں کا جانشین بنایا ہے اس میں سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو، جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور (ایمان لا کر اللہ کی راہ میں) مال خرچ کریں گے، انہیں بڑا اجر (اور ثواب) ہوگا ○ (سورہ الحديد 57..... ترجمہ آیات 6 تا 7)

صدقات بر باد نہ کرو

اے ایمان والو! اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ پہنچا کر بر باد نہ کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر خرچ کرتا ہے اور وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے مال کی مثال اس چٹان کی مانند ہے جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہو۔ اس پر جب زور کی بارش برسی تو ساری مٹی بہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کھاتے ہیں اور اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا۔ اور اللہ ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ○

(سورۃ بقرہ 2..... ترجمہ آیت 264)

گمان اور غیبت نہ کرو

اے ایمان والو! بہت گمان (یعنی شک و شبہ) کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ دیکھو، اس سے تو تم خود نفرت کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے بڑا رحم والا ہے ○

(سورہ الحجرات 49..... ترجمہ آیت 12)

سُورَةُ يَسٍ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے

یَس ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیْمِ ۝ اِنَّكَ لَیْسَ الْمُرْسَلِیْنَ ۝

یس قسم ہے قرآن حکیم کی بیشک آپ رسولوں میں سے ہیں

عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝ تَنْزِیْلِ الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ ۝

سیدھی راہ پر ہیں جو بڑے غالب و مہربان خدا کا نازل کیا ہوا ہے

لِتَنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اَبَآءَهُمْ فَهُمْ

تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تو وہ

غٰفِلُوْنَ ۝ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ

بے خبر ہیں ثابت ہو چکی ہے بات ان میں سے اکثر لوگوں پر پھر بھی وہ

لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلَالًا

ایمان نہیں لائیں گے ہم نے ان کی گردنوں میں لوہے کے طوق ڈالے ہیں

فَهِیَ اِلٰی الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ۝

جو ان کی ٹھڈیوں تک پہنچے ہوئے ہیں لہذا وہ سر اٹھاتے ہوئے ہیں (جھکا نہیں سکتے)

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

اور ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے دیوار بنا دی

فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝ وَسَاءَ عَلَيْهِمْ

پھرا وہ سب ڈھانک دیا تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے اور ان کے لیے برابر ہے

أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

خواہ تم انھیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ

تم تو اسی کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت پر عمل کرے اور رحمن (خدا) کا خوف

بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ۝

رکھے بن دیکھے تو اس شخص کو معافی اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دو

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا

ہم ہی یقیناً مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں جو کچھ وہ کر چکے

وَأَشَارَهُمْ ۖ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ

اور جو نشان انکے پیچھے رہ گئے اور ہر چیز کو ہم نے ایک صریح درویش پیشوا میں

مُبِينٍ ۖ وَأَضْرِبْ لَهُم مِّثْلًا مِّنَ الْقَرْيَةِ

گھیر دیا ہے اور انھیں ایک مثل بتاؤ گاؤں والوں کی

إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۖ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم

جب وہاں پیامبر آئے جب ہم نے ان کی طرف

وقف غفران
وقف

اَشْنٰیۙ فَكَذَّبُوهُمَاۙ فَكَرَّرْنَا

دو آدمیوں کو بھیجا اُن لوگوں نے دونوں کو جھٹلادیا تب ہم نے تیسرے شخص کے

بِشَاۤلِیۙ فَقَالُوۡا اِنَّا اِلَیْكُمْ مُّرْسَلُوۡنَ ۝

ذریعے اٹھیں قوت پہنچائی ان (تینوں) نے کہا ہم تمہارے پاس خدا کے بھیجے ہوئے آئے ہیں

قَالُوۡا مَاۤ اَنْتُمْۙ اِلَّاۤ اَبۡشَرٌۭ مِّثْلَنَاۙ وَمَاۤ اَنْزَلَ الرَّحۡمٰنُ

قوم نے کہا تم لوگ تو ہمارے جیسے بشر ہو اور رحمن (خدا) نے کچھ بھی اتارا

مِنْ شَیْءٍ ؕ اِنْ اَنْتُمْۙ اِلَّاۤ اَتٰكُذِبُوۡنَ ۝ قَالُوۡا سَرٰہُنَا

نہیں ہے تم تو صرف جھوٹ بولتے ہو انھوں نے کہا ہمارا رب

یَعۡلَمُۙ اِنَّا اِلَیْكُمْ لَمُرْسَلُوۡنَ ۝ وَمَا عَلَیۡنَا

جاننا ہے کہ ہم یقیناً اسی کے بھیجے ہوئے تمہاری طرف آئے ہیں اور ہم پر تو

اِلَّاۤ اَلۡبَلٰغُ الْمُبِیۡنِ ۝ قَالُوۡا اِنَّا تَطۡیَّرِنَاۙ بِكُمْ ؕ

صرف کھلی ہوئی تبلیغ فرض ہے قوم نے کہا ہم نے تم کو نامبارک پایا

لَیۡنٌ لَّمۡ تَذٰنٰہُوۡاۙ اَلۡنَرۡجَمَۤسۡکُمْۙ وَلَیۡمَسَّۤسۡکُمْ مِّنَّا

اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کریں گے اور تم کو یقینی طور پر ہماری

عَذَابٌۭ اَلِیۡمٌ ۝ قَالُوۡا طٰۤاۤیۡرُكُمْ مَّعَكُمْ ؕ ط

تکلیف دہ سزا پہنچے گی انھوں نے کہا تمہاری بڈنگوں نے تمہارے ساتھ ہے

اَیۡنُ ذِکۡرِکُمْ ؕ ط بَلۡ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوۡنَ ۝

کیا یہی بات ہے کہ تم کو سمجھایا گیا ہے دراصل تم لوگ حد سے آگے بڑھ چکے ہو

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ

اور شہر کے دُور کناڑے سے دوڑتا ہوا ایک آدمی آیا اس نے کہا

يَقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۚ اتَّبِعُوا مَنْ لَا

لوگو! پیغمبروں کی پیروی کرو اس کی پیروی کرو جو

يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ لَا يَسْأَلُونَكُمْ وَمَا لَكُمْ

تم سے بدلہ نہیں چاہتا اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں اور مجھ کو کیا ہوا

لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۚ

کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم کو رجوع کرنا ہے

أَتَأْخُذُ مِنْ دُونِ آلِهَةٍ إِنْ يَرُدُّنَ الرَّحْمَنُ

کیا میں اسے چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا لوں کہ اگر رحمن (اللہ) مجھے

بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنْقِذُونِ ۚ

تکلیف دینا چاہے تو نہ ان کی سفارش میرے کچھ کا آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں

إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ

اس وقت میں یقیناً صاف صاف گمراہی میں ہوں گا میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہی چکا

فَأَسْمَعُونَ ۚ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۗ قَالَ يَا لَيْتَ

تو میری سنو حکم ہوا کہ جنت میں چلا جا اس نے کہا کاشکے

قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۚ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي

میری قوم کے لوگ جان لیتے کہ میرے رب نے مجھے کیونکر بخشا اور مجھے

مِنَ الْمُكْرَمِينَ ۝ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ

معزین میں شامل کیا اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد نہ

بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ۝

آسمان سے فوج اتاری نہ ہم آئندہ اتارنے والے ہیں

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ۝

وہ تو صرف ایک چیخ تھی بس وہ لوگ ٹھنڈے ہو گئے

يَحْسِرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَا تُيْهِمُ مِّن رَّسُولٍ

حسرت و افسوس ہے ان بندوں پر کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول

إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝ الْمُرِئُواكُمْ

مگر یہ کہ وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے کیا انھوں نے غور نہیں کیا

أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ ۝ أَنَّهُمْ

ہم نے اس سے پہلے کس قدر صدیوں (قوموں) کو تباہ کیا وہ لوگ

إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ وَإِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ

ان کی طرف پلٹ کر نہ آئیں گے اور البتہ سب کے سب جمع ہو کر

لَدَيْنَا مَحْضَرُونَ ۝ وَأَيُّ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمِيْتَةُ ۚ

ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے اور ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین سے

أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۝

جسے ہم نے زندہ کیا اور ہم نے اس سے دانے پیدا کیے اسی کو وہ لوگ کھاتے ہیں

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَ

اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کئے اور

فَجَزْنَا فِيهَا مِنَ الْعْيُونِ ۝ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ لَا

اس میں چشمے رواں کیے تاکہ اس کے پھل کھائیں

وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝

اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا پھر وہ شکر کیوں نہیں کرتے

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَنْزَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ

پاک ذات ہے وہ جس نے سب کے جوڑے بنائے جو کچھ زمین سے

الْأَرْضُ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝

اُگتے ہیں اور خود ان میں بھی اور ان میں بھی جنہیں وہ نہیں جانتے

وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ ۝ نَسُخُ مِنْهُ النَّهَارَ

اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو کھینچ کر نکالتے ہیں

فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ۝ وَالشَّمْسُ تَجْرِي

پھر وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج، اپنے ٹھکانے پر

لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۝ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝

چل رہا ہے وہ عزیز و علیم (اللہ) کا متعین کردہ ہے

وَالْقَمَرُ قَدَرُنْهٖ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ

اور چاند، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دیں یہاں تک کہ وہ پلٹتا ہے

وَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا

جیسے کھجور کی پرانی شاخ نہ سورج کے لیے یہ ہے

أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ

کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے

وَكُلٌّ فِي فُلْكِ يَسْبَحُونَ ۝ وَآيَةٌ لَهُمْ

اور سب اپنے اپنے آسمان میں تیر رہے ہیں اور ان کے لیے نشانی ہے

أَنْتَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِ الْمَشْحُونِ ۝

ہم نے بٹھادیا ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ۝

اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں پیدا کیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں

وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ

اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دیں پھر نہ ان کا کوئی فریاد رس ہو اور نہ وہ

يُنْقَدُونَ ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝

بچائے جاسکیں صرف ہماری رحمت اور ایک وقت معین تک چین کرنا

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا

اور جب ان سے کہا گیا کہ اس سے ڈرو جو تمہارے سامنے اور

خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ وَمَا تَأْتِيهِمْ

تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ان کے پاس نہیں آتی

مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا

ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی مگر یہ کہ وہ لوگ اس سے

مُعْرِضِينَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ

ردگرداں ہی رہے اور جب ان سے کہا گیا خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تم

اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ

کو دیا کہا ان لوگوں نے جو کافر تھے اُن لوگوں سے جو مومن تھے کیا ہم اس شخص کو

مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ۗ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي

کھلائیں جسے اگر کھلانا چاہتا تو خود اللہ کھلانا تم لوگ تو بس صاف

ضَلَلٍ مُّبِينٍ ۝ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ

صاف گمراہی میں ہو اور کہتے ہیں کہ اس وعدے کا وقت کب آئے گا

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً

اگر تم سچے ہو یہ لوگ تو صرف ایک زبردست دھماکے کے

وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهَمُّ يَخِصِّمُونَ ۝ فَلَا

منتظر ہیں جو انھیں آدبائے گا اور یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے پھر نہ تو

يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝

وصیت کر سکیں گے اور نہ یہ لوگ اپنے بال بچوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاذْهَبْ مِنَ الْأَجْدَاثِ

اور پھونکا جائے گا صور تو اسی وقت قبروں سے نکل کر

إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۝ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَدَّلَ

اپنے پروردگار کی طرف روانہ ہو جائیں گے کہیں گے ہائے افسوس! کس نے

بَعَثَنَا مِنْ مَّرْجَدٍ نَّاغِبْتَهُ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ

ہمیں ہماری آرا مگاہوں سے اٹھادیا یہ ہے جس کا رحمن (اللہ) نے وعدہ کیا

وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۝ إِن كَانَتْ إِلَّا صِيْحَةً

اور رسول جو سچی بات کہتے تھے بس ایک زبردست آواز ہوگی

وَإِحْدَاةٍ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝

پھر وہ سب ہمارے حضور میں حاضر کیے جائیں گے

فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا

پس آج کسی پر کچھ ذرا سا بھی ظلم نہ کیا جاسکے گا اور صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي

جو تم عمل کرتے تھے بے شک جنت کے لوگ آج کے دن

شُغْلٍ فَكِهِونَ ۝ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ

مشغلیں خوش ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں خوشگوار سائے میں

عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَكِعُونَ ۝ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ

تکیے لگائے تختوں پر ہوں گے ان کے لیے جنت میں میوے ہیں

وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ۝ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ

اور جو مانگیں گے ان کے لیے موجود ہوگا سلام رب رحیم کی طرف سے

رَحِيمٍ ۝ وَامْتَاذُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ ۝

پیغمبر ہو گا اور تم آج الگ ہو جاؤ اے گناہ گارو!

الْمُاعْهَدِ الْيَوْمَ لِبَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا

کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے اولادِ آدم؟ کہ تم پہ بوجہ نہ کرنا

الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝ وَإِنَّ

شیطان کی وہ یقینی طور سے تمہارا کھلا دشمن ہے اور کہ

اعْبُدُونِي ۝ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝ وَلَقَدْ أَضَلَّ

میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے اور اس نے تمہیں

مِنْكُمْ جِبَلًا كَثِيرًا ۝ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۝

سے بہت زیادہ خلقت کو گمراہ کیا کیا تم یہ بھی نہ سمجھتے تھے

هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ اِصْلَوْهَا

یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا چونکہ تم

الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ الْيَوْمَ نَخْتِمُ

کفر کرتے تھے اس لیے آج اسی میں جاؤ آج ہم مہر لگا دیں گے

عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ

اُن کے لبوں پر اور ان کے ہاتھ ہمیں بتائیں گے اور ان کے پاؤں گواہی

أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا

دیں گے جو کچھ بھی وہ کرتوت کر چکے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں

عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ۝

اُن کی آنکھیں پھر دڑتے پھر سیدھی راہ کی طرف اب کہاں دیکھ سکیں گے

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا

اور اگر ہم چاہیں تو ان کے ٹھکانوں ہی میں ان کو مسخ کر دیں پھر ان کے آگے جانے کا

مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ۝ وَمَنْ نَعَسِرَ

امکان ہے اور نہ واپس آسکیں اور جس شخص کو ہم زیادہ عسر دیتے ہیں

نُنْكِسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا عَلَّمْنَاهُ

اسے خلقت میں پلٹ دیتے ہیں تو کیا وہ لوگ سمجھتے نہیں اور ہم نے نہ اُن کو

الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ

شعری تعلیم دی اور نہ وہ انکے شایاں ہے یہ تو صرف نصیحت ہے اور صاف

مُبِينٌ ۗ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ

صاف قرآن تاکہ ڈرائیں اسے جو جان دار ہو اور کافروں پر بات

عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ۗ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ

ثابت ہو جائے کیا ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم نے ان کے لیے

مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۝

اپنے ہاتھوں (قدرت سے) چوپائے پیدا کیے پھر وہ ان کے مالک بنے

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ

اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے لیے مطیع کیا اب ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں

وَمِنْهَا يَأْكُفُونَ ۝ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ ۝

اور کچھ کو وہ کھاتے ہیں اور ان چوبایوں میں ان کے فائدے اور مشروب ہیں

أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۝ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً

کیا اب بھی وہ شکر نہ کریں گے اور ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا رکھے ہیں

لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ ۝ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ

تاکہ وہ ان کی مدد کریں وہ (فرضی خدا) ان کی مدد نہیں کر سکتے

وَهُمْ لَهُمْ جُنُودٌ مُّحَضَّرُونَ ۝ فَلَا

اور وہ کافران بتوں کے لشکر ہیں جو اللہ کے حضور میں حاضر کیے جاتیں گے تو ان کی

يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا

بات تمہیں غمگین نہ کرے ہم سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ وہ لوگ چھپاتے ہیں اور جو

يُعْلِنُونَ ۝ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ

کچھ ظاہر کرتے ہیں کیا انسان نے غور نہیں کیا ہم نے اسے لطف سے

مِنْ تُطْفَاةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝ وَضَرَبَ

پیدا کیا پھر وہ کھلم کھلا جھگڑا لو بن گیا اور ہمارے

لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۝ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

لیے مثل لانے لگا اور اپنی خلقت کو بھول گیا، کہنے لگا بھوسا ہڈیوں کو کون

وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ

زندہ کرے گا کہہ دو ان (ہڈیوں) کو وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی

مَرَّةً ۞ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝ الَّذِي

مرتبہ بنایا اور وہی ہر مخلوق سے پوری طرح باخبر ہے جس نے

جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ

تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ پیدا کی جھی تو تم

صِنُهُ تُوقِدُونَ ۝ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ

اس سے آگ سلگاتے ہو کیا وہ جس نے آسمانوں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ

اور زمین کو پیدا کیا اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ ان جیسا دوبارہ

مِثْلَهُمْ بَلَىٰ ۚ وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝

پیدا کر دے ہاں اور وہی اصل بنانے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ

اس کا حکم یہی ہے کہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے تو کہے

كُنْ فَيَكُونُ ۝ فَسُبْحَانَ الَّذِي

”ہو جا“ وہ اسی وقت ہو جاتی ہے تو پاک ذات ہے وہ

بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَإِلَيْهِ

جس کے قبضہ میں ہر ایک چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف

تُرْجَعُونَ ۚ

تم لوٹ کر جاؤ گے

سُوْرَةُ الذَّهْرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے

هَلْ آتَىٰ عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الذَّهْرِ لَمْ يَكُنْ

کیا انسان پر وہ وقت بھی گزرا ہے جب وہ

شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ۝ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ

قابل ذکر چیز نہ تھا بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا

نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۝ تَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا

رہی جلی بوند سے ہم اس کو آزماتے ہیں (اسی لیے) تو ہم نے اسے سننے

بَصِيْرًا ۝ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ

دیکھنے والا بنایا ہم نے اسے راستہ بتایا اب خواہ وہ شکر گزار ہو

اِمَّا كَفُوْرًا ۝ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَلَیْلًا

خواہ ناشکر ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں کافروں کے لیے زنجیریں

وَ اَخْلَآ وَّ سَعِيْرًا ۝ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَشَرُّوْنَ

اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ بیشک نیک اشخاص میراب ہوں گے

مَنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ○ عَيْنًا يَشْرَبُ

ان پیالوں سے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی ایک چشمہ ہے جس سے

بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ○ يُوفُونَ

اللہ کے بندے نہیں گئے اسی سے نہریں بہائیں گے وہ (لوگ جو)

بِالتَّذْرِيرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ○

تذریں پوری کرتے اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوگی

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا

اور اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں محتاج کو اور یتیم کو

وَآسِيرًا ○ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ

اور قیدی کو (اور کہتے ہیں) ہم تو فقط اللہ کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلے کے

مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ○ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا

خواہشمند ہیں نہ شکرگزاری کے ہم تو اپنے رب سے اس دن کے

يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ○ فَوْقَهُمْ اللَّهُ

لیے ڈرتے ہیں (جب) منہ بگڑے اور صورتیں اداس ہوں گی اللہ نے بھی انہیں

شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهْمُ نَصْرَةً وَسُرُورًا ○

اس دن کے نقصان پہنچالیا اور انہیں تازگی اور خوشی عطا کی

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ○ مُتَّكِينَ

اور ان کے صبر کے بدلے جنت اور لباس ریشم عطا کیا تیجے لگائے

فِيهَا عَلَى الْأَسْرَائِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا

وہ جنت میں تخت پر بیٹھے ہوں گے وہاں نہ دھوپ محسوس کریں گے نہ ہی

زَمَهْرِيرًا ۝ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذَلَّلَتْ

شدت کی سوزی اور گھنے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور میووں کے گچھے

قُطُوفُهَا تَذَلُّلًا ۝ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَّةٍ

ان کے بہت قریب طرح ان کے اختیار میں ہوں گے اور ان کے سامنے چاندی کے ساغر

مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابُ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝ قَوَارِيرًا

اور بتور کے پیالے گردش کرتے ہوں گے بتور بھی (کاغج

مِّنْ فِضَّةٍ قَدَرُوهَا تَقْدِيرًا ۝ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا

کے نہیں) چاندی کے جھین ٹھیک انراے سے بنایا گیا ہے اور وہ لوگ جنت میں

كَأَسَاكِينٍ مِّنْ مَّزَاجِهَا زَنْجَبِيلًا ۝ عَيْنًا فِيهَا

ایسے پیالے ہیں گے جن میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی وہاں ایک چشمہ ہے

تُسَبِّحُ سَلْسَبِيلًا ۝ وَيُطَوَّفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ

جس کا نام سلسبیل ہے اور ان کے سامنے ہمیشہ (ویسے ہی) رہنے والے لڑکے

مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنشُورًا ۝

چکر لگاتے ہوں گے تم انہیں دیکھو تو سمجھو گے موتی بکھرے ہوئے ہیں

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمْرًا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا ۝

اور جب تم دیکھو گے تو ہر طرح کی نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے

عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ذ

ان کے اوپر سبز ریشم اور اطلس کے لباس ہوں گے

وَحُلُوتًا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمُ رِبِّهِمْ

اور انھیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انھیں ان کا پروردگار

شَرَابًا طَهُورًا ۝ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً

نہایت پاکیزہ مشروب پلائے گا (ارشاد ہوگا) یقیناً یہ تمہارے لیے جزا ہے

وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا ۝ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ

اور تمہاری کوشش (عمل خیر) کامیاب تھی (لے حبیب) ہم نے تم پر قرآن کو

الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۝ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا

رفتہ رفتہ نازل کیا تو اپنے رب کے انتظارِ حکم میں صبر کرو اور

تُطِعْ مِنْهُمْ آيَةً أَوْ كَفُورًا ۝ وَادْكُرْ اسْمَ

اور ان میں سے کسی گنہ گار یا ناشکرے کا کہنا نہ سنا اور اپنے رب کا نام

رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ

سبحا کرو صبح کو اور شام کو اور کچھ رات گئے اس کو سجدہ کرو

وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ

اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کرو یقیناً یہ لوگ پسند کرتے ہیں

الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۝

(فوری آرام) دنیا کو اور ایک بھاری دن کو انھوں نے پس پشت ڈال دیا ہے

نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا

ہم نے انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ مضبوط کئے اور ہم جب چاہیں

بَدَلْنَاهُمْ أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ۝ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۚ

ان جیسوں کو ان کی جگہ بدل کر لے آئیں یقیناً یہ تو نصیحت ہے

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝ وَمَا

اب جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے اور

تَشَاءُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے بے شک اللہ

عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ

علیم و حکیم ہے جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے

وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

اور ظالموں کے واسطے دردناک عذاب تیار ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

اللہ رحمن و رحیم کے نام سے

سُورَةُ الْكُؤُثِرِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُؤُثِرَ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ

یقیناً ہم نے آپ کو کؤثر (خیر کثیر) عطا کیا پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے

وَأَنْحَرُ ۗ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۚ

اور قربانی کرتے رہیے بیشک آپ کا دشمن ہی بے اولاد ہے گا

سُورَةُ الْمَلِكِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے

تَبْرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

بڑی برکت والا ہے وہ (خدا) جسکے قبضہ میں (سارے جہان کی) بادشاہت ہے اور وہ ہر

شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ

چیز پرت در ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا

لِيَبْلُوَكُمْ اَيْسَكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۖ وَهُوَ الْعَزِیْزُ

تا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کام میں سے (چھا کون ہے اور وہ غالب (اور)

الْغَفُوْرُ ۝ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوٰتٍ طِبَاقًا ط

بڑا بخشنے والا ہے جس نے سات آسمان اُپر تلے بنا ڈالے

مَا تَرٰی فِیْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَوُّتٍ ط فَاَرْجِعْ

بھلا تجھے خدا کی آفرینش میں کوئی کسر نظر آتی ہے تو پھر آنکھ اٹھا کر

الْبَصْرَ ۗ هَلْ تَرٰی مِنْ فُطُوْرٍ ۝ ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصْرَ

دیکھ بھلا تجھے کوئی شکاف نظر آتا ہے پھر دوباراً آنکھ اٹھا کر دیکھ تو

كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِعًا وَهُوَ

(ہر بار تیری) نظر ناکام اور تھک کر تیری طرف پلٹ آئے گی

حَسِيرٌ ۝ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ

اور ہم نے نیچے والے (پہلے) آسمان کو (تاروں کے) چراغوں سے زینت دی

وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ

اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے

عَذَابَ السَّعِيرِ ۝ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ

دیجی ہوئی آگ کا عذاب اور جو لوگ اپنے پروردگار کے منکر ہیں ان کیلئے

عَذَابٌ جَهَنَّمَ ط وَبئْسَ الْمَصِيرُ ۝ إِذَا أُلْقُوا

جہنم کا عذاب ہے اور وہ (بہت) بُرا ٹھکانا ہے جب لوگ اس میں ڈالے

فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورٌ ۝ تَكَادُ

جاتیں گے تو اس کی بڑی پیچ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی بلکہ گویا

تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ط كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ

مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں (ان کا) کوئی گروہ ڈالا جائے گا

سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝

تو ان سے داروغہ جہنم پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا (پیغمبر) نہیں آیا تھا

قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ ۝ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا

وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا تو ضرور آیا تھا مگر ہم نے اس کو جھٹلادیا اور کہا کہ

مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ إِنَّا أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

خدا نے تو کچھ نازل نہیں کیا تم تو بڑی (گہری) گمراہی میں

كَبِيرٍ ۚ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا

(پرستے) ہو اور (یہ بھی) کہیں گے کہ اگر (ان کی بات) سنتے یا سمجھتے تب تو (آج)

فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۚ فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ

ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے غرض وہ اپنے گناہ کا اقرار کر لیں گے

فَسِحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ

تو دوزخیوں کو خدا کی رحمت سے دوری ہے بیشک جو لوگ ڈرتے ہیں

رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۚ

اپنے پروردگار سے بے دیکھے جہاں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا بھاری اجر ہے

وَأَسْرُوقَوْلِكُمْ وَأَوْجُوهٌ رَّاوَابَهُ إِنَّهُ عَلَيْهِم

اور تم لوگ اپنی بات چھپا کر کہو یا کھلم کھلا وہ تو دل کے بھیدوں

بِذَاتِ الصُّدُورِ ۚ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ

تک سے خوب واقف ہے بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے؟ اور وہ تو

اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ۚ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ

بڑا باریک بین اور واقف کار ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے

الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا

زمین کو نرم (ہموار) کر دیا تو اس کے اطراف و جوانب میں چلو پھرو اور اسکی

مِنْ سِرَازِقِهِ ط وَالْيَهُ النَّشُورُ ۝ ءَأَمِنْتُمْ مَّنْ

(دی ہوئی) رزق کھاؤ اور پھر اسی کی طرف قبر سے اٹھ کر جانا ہے کیا تم اس بات سے بیخوف ہو

فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ

کہ وہ جو آسمان میں (حکومت کرتا) ہے تم کو زمین میں دھنسا دے پھر وہ یکبارگی اُلٹ

تَمُورُ ۝ أَمْ أَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ

پلٹ کرنے لگے کیا تم اس بات سے بیخوف ہو کہ جو آسمان میں (سلطنت کرتا) ہے تم پر

عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ط فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۝

پتھر بھری آندھی چلائے تو تمہیں غنقریب ہی معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرنا کیسا ہے

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَيْفَ كَانَ

اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تھا تو (دیکھو) کہ کیسی تھی

نَكِيرِ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَيْتَ

میری ناخوشی کیا انہوں نے اپنے سرور پر چڑیوں کو اڑتے نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے ہوتی

وَيَقْبِضْنَ ط مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ

ہیں اور سمیٹ لیتی ہیں کہ خدائے رحمن کے سوا انہیں کوئی روکے نہیں رہ سکتا بیشک وہ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَابِصِيرٌ ۝ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ

ہر چیز کو دیکھ رہا ہے بھلا ایسا کون ہے جو تمہاری

جُنْدًا لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ ط إِنَّ

فوج بن کر تمہاری مدد کرے سوائے خدائے رحمن کے

الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُوبٍ ۚ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي

کافر لوگ تو دھوکے ہی (دھوکے) میں ہیں بھلا خدا اگر اپنی (دی ہوئی)

يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۗ بَلْ لَّجَّوْا فِي عُتُوِّ

رکے تو کون ایسا ہے جو تمہیں رزق دے مگر یہ کفار تو سرکشی اور نفرت رکے

وَنُفُورٍ ۚ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ

کھنڈوسا میں پھنسے ہوئے ہیں بھلا جو شخص اذہا اپنے منہ کے بل چلے

أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۚ

وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہو گا یا وہ شخص جو سیدھا برابر راہ راست پر چل رہا ہو

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

(اے رسول) آپ فرمائیجئے کہ خدا تو وہی ہے جس نے تم کو نیت نیا پیدا کیا اور تمہارے واسطے کان

وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۚ

اور آنکھیں اور دل بنائے (مگر) تم تو بہت کم شکر ادا کرتے ہو

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ

(اے حبیب) کہہ دیجئے کہ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کے سامنے

تُحْشَرُونَ ۚ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ

تم جمع کئے جاؤ گے اور کفار کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو (آخر) یہ وعدہ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ

کب پہنچا ہو گا (اے رسول) آپ کہہ دیجئے کہ (اسکا) علم تو بس

اللَّهُ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ فَلَمَّا رَأَوْهُ

خدا کہے اور میں تو صرف صاف صاف (خدا کی) ڈیسائی والا ہوں تو جب یہ لوگ اسے

زُلْفَةً سَيِّئَةً وَجْوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاوقيل هذا

قریب دیکھ لیں گے تو (خوف کے ملنے) کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائیگا یہ وہی ہے

الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ ۝ قُلْ أَسَاءَ لِمُؤ

جس کے تم خواست گار تھے (اے رسول) آپ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو

إِن أهلكني الله وَمَنْ مَعِيَ أوسر حمننا لا

اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے

فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝

تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أمتابه وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا

فرمائیجئے کہ وہی (خدا) بڑا رحم کرنے والا ہے جس پر ہم ایمان لائے اور ہم نے تو اسی پر بھروسہ کر لیا ہے

فستعلمون مَنْ هُوَ فِي ضلّل مُبِينٍ ۝

تو عنقریب ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون صریح گمراہی میں پڑا ہے

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ

(اے حبیب) کہہ دیجئے کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی زمین کے اندر چلا جائے تو کون ایسا ہے

يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ۝

جو تمہارے لیے پانی کا چشمہ بہا لائے

سُورَةُ الْوَاقِعَةِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ رحمن و رحیم کے نام سے

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۚ لَيْسَ لِقَوْمِهَا كَافِرَةٌ ۝

جب واقع ہو جائے وال واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کوئی بھوت نہیں

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۚ إِذَا رَجَّتِ الْأَرْضُ

وہ پست کر نیوالی (بھی) ہے اور بلند کر نیوالی (بھی) جبکہ زمین ہلائی جائے گی

رَجًّا ۚ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۚ فَكَانَتْ

بلا یا جانا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے ریزہ ریزہ کرنا پھر وہ

هَبَاءً مُنْبَثًّا ۚ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝

پھیلا ہوا غبار ہو جائیں گے اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے

فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۚ لَا مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝

پس دائیں ہاتھ والے کیا (اچھا نصیب) دائیں ہاتھ والوں کا

وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۚ لَا مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝

اور بائیں ہاتھ والے کیا (برا نصیب) بائیں ہاتھ والوں کا

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۝ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۝ ج

اور اگے بڑھنے والے ہی سب سے آگے ہوں گے وہی (اللہ تعالیٰ کے) مقرب ہوں گے

فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۝ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأُولَىٰ ۝ ۱

وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے پہلوں میں سے ایک انہوں کو شیر ہوگا

وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۝ عَلَىٰ سُرُرٍ

اور کچھ لوگوں میں سے تھوڑے وہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے

مَوْضُوعَةٍ ۝ مُتَّكِنِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ ۝

جڑاؤ تختوں پر ہوں گے ان پر (بیٹھے) آمنے سامنے تکیہ لگانے والے ہوں گے

يَطُوفُونَ عَلَيْهِمْ وُلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۝ ۲

اُن پر (خدمت کے لیے) ہمیشہ رہنے والے لڑکے

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ ۝ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ۝ ۳

آبخوردوں اور آفتابوں اور ایسی صاف شراب کے جام لیے ہوئے گردش کریں گے

لَا يَصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفُونَ ۝ ۴

جس سے انھیں نہ تو سردرد ہوگا اور نہ وہ بہکیں گے

وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۝ وَلَحْمِ طَيْرٍ

اور میوے جنھیں وہ پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت

مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۝ وَحُورٍ عِينٍ ۝ ۵

جس کی وہ خواہش کریں گے اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی

كَأَمْثَالِ الْوَلُوءِ الْمَكْنُونِ ۚ جَزَاءً بِمَا

جیسے کہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی یہ بدلہ ہوگا ان اعمال کا جو

كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا

وہ کیا کرتے تھے وہ اس (جنت) میں نہ بیوردہ گوئی سنیں گے

وَلَا تَأْثِيمًا ۚ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ۝

اور نہ گناہ کی بات سوائے سلام اور سلام کہنے کے

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ۗ هَٰ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ۚ

اور دائیں ہاتھ والے کیا (اچھا نصیب) دائیں ہاتھ والوں کا

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ۚ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۚ

وہ بغیر کانٹوں کی جھکی ہوئی پیروں میں ہوں گے اور تہ بہ تہ لگے ہوئے کیلے

وَوَظِلٍّ مَّمْدُودٍ ۚ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ۚ

اور پھیلے ہوئے سائے اور ہسایا ہوا پانی

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۚ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۚ

اور کثرت سے میوہ نہ کاٹا گیا اور نہ سدکا گیا

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۚ إِنَّا أَنشَأْنَهُمْ إِنِشَاءً ۚ

اور بلند کئے گئے فرش یقیناً ہم نے ان (روحوں) کو پیدا کیا پیدا کرنا

فَجَعَلْنَاهُمْ أَبْكَارًا ۚ عُرْبًا أَتْرَابًا ۚ

پس ہم نے ان کو کنواری بنایا شوہروں کی جمجھولائیں (اور اعلیٰ) جمجھولیاں

لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ۚ شَلَّةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ ۚ

دائیں ہاتھ والوں کے لیے پہلوں میں سے انہو کثیر ہوگا

وَشَلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ۚ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ ۗ

اور پچھلوں میں سے بھی انہو کثیر ہوگا اور بائیں ہاتھ والے

مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ۚ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ۚ

کیا (بڑا نصیب) ہوگا بائیں ہاتھ والوں کا وہ زہری گرم ہوا اور کھولتے پانی

وَوَظِلٌّ مِّنْ يَّحْمُومٍ ۚ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۚ

اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ باعزت

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۚ

یقیناً وہ اس سے پہلے دولت مند تھے

وَكَانُوا يُصْرُونَ عَلَى الْجَنَّةِ الْعَظِيمِ ۚ وَكَانُوا

اور وہ بہت بڑے گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے اور وہ

يَقُولُونَ ۗ أَرَعَدْنَا لَكُمْ آثْرًا وَعِظَامًا

کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے

ءَاتَا لِمَبْعُوثُونَ ۚ أَوْ آبَاؤُنَا الْأُولَىٰ ۚ

تو کیا ہم ضرور (زندہ رکھے) اٹھائے جائیں گے کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی

قُلْ إِنَّ الْأُولَىٰ وَالْآخِرِينَ ۚ لَجَمُوعُونَ ۗ

(اے رسول) کہہ دو کہ (یقیناً پہلے اور پچھلے (لوگ) سب اکٹھے کئے جائیں گے

إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝ ثُمَّ لَكُمْ أَيُّهَا

ایک جانے ہوئے دن کے مقررہ وقت پر پھر یقیناً تم لے

الضَّالُّونَ الْمَكْذِبُونَ ۙ لَا يَكُونُ مِنْ

گمراہ ہو! جھٹلانے والو!

شَجَرٍ مِنْ سِقْوِهِ ۙ فَمَا كُنْتُمْ مِنَ الْبَاطِلُونَ ۙ

تھوہر کے درخت میں سے کھانے والے پھر اسی میں سے بیٹیوں کو بھرنے والے ہو گے

فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ۙ فَشَرِبُونَ

پھر تم اسی کے اوپر سے کھوتا ہوا پانی پینے والے ہو گے پس تم پیلے سے اونٹوں

شَرِبَ الْهَيْمِ ۙ هَذَا نَزَلْنَاهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ۙ

کے پینے کی طرح پینے والے ہو گے جزا و سزا کے دن یہ ان کی مہمانی ہوگی

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ۙ أَفَرَأَيْتُمْ

ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے پھر کیا تم نے غور کیا

مَا تَسْمُونَ ۙ ؕ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ

کہ جو منی تم (رجم میں) ڈالتے ہو کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم

الْخَالِقُونَ ۙ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ

پیدا کرنے والے ہیں ہم نے تمہارے درمیان موت کو معتد رکھا

وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ۙ عَلَىٰ أَنْ تَبْدِلَ أَمْثَالَكُمْ

اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہارے ایسے لوگ بدل ڈالیں

وَنُنشِئُكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ

اور اس ہیئت میں پیدا کریں جسے تم جانتے نہیں ہو اور یقیناً تم نے پہلی پیدائش کو

الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ۝ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۝

جان لیا پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے پھر کیا تم نے اس پر غور کیا جو تم بوٹے ہو

ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۝ لَوْ نَشَاءُ

کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں اگر ہم چاہتے

لَجَعَلْنَاهُ حُطًا مَّا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ۝ إِنَّمَا

تو البتہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتے پھر تم باتیں ہی بنا لے رہ جاتے کہ یقیناً ہم

لَمَعْرَمُونَ ۝ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝ أَفَرَأَيْتُمْ

تاوان ڈالے گئے ہیں بلکہ ہم محروم (لوگ) ہیں پھر کیا تم نے

الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۝ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنْ

پانی پر غور نہیں کیا جسے تم پیتے ہو کیا تم نے اسے مزہ سے نازل کیا

الْمَزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ۝ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ

یا ہم نازل کرنے والے ہیں اگر ہم چاہتے تو اسے

أَجَابًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ

کھاری بنا دیتے پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے پھر کیا تم نے آگ پر غور کیا

الَّتِي تُورُونَ ۝ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ

جسے تم سگلاتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا

نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ۝ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً

ہم پیدا کرنے والے ہیں ہم نے ہی ان (درختوں) کو موجب عبرت

وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

اور سربایہ دولت بنا یا ہے مقویں کے لیے پس تو تسبیح کیے جا اپنے عظمت والے پروردگار

الْعَظِيمِ ۝ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ۝ وَإِنَّهُ

کے نام کی پس میں ستاروں کے گزرنے کی قسم کھاتا ہوں اور

لَقَسْمٍ لَّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٍ ۝ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝

اگر تم جانتے ہو تو وہ قسم بہت عظمت والی ہے یقیناً وہ عظمت والا قرآن ہے

فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۝ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا

جو پریشیدہ کتاب میں ہے اسے کوئی نہیں چھوتا سوائے (ان کے)

الْمُطَهَّرُونَ ۝ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

جو پاک کر دیے گئے ہیں (اس کا) اتارا جاتا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے

أَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ۝ وَتَجْعَلُونَ

پھر کیا تم اس کلام سے مستی کرنے والے ہو اور

رِزْقَكُمْ إِن كُمْ تَكْذِبُونَ ۝ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ

اپنا حصہ ہی لیتے ہو کہ تم بھٹلاتے ہو پھر تم کیوں نہیں (رُح کو ایمان کی طرف پلٹا

الْحُلُقُومَ ۝ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ۝ وَنَحْنُ

ہیں جبکہ وہ گنگے تک پہنچے اور تم اس وقت دیکھتے ہو اور ہم

أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ۝ فَلَوْلَا إِنْ

تم سے اس کی طرف زیادہ نزدیک ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں پھر اگر

كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۝ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ

تم کسی کے علاوہ نہیں ہو تو تم کیوں نہیں اسے لوٹا دیتے اگر تم

صَادِقِينَ ۝ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ ۝

سچے ہو پس اگر وہ (مرنے والا) مقربوں میں سے تھا

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ۝ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ۝ وَأَمَّا إِنْ

تو (اسکے لیے) راحت اور پاکیزہ روزی اور نعمتوں والی جنت ہوگی اور اگر

كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝ فَسَلَّمَ لَكَ مِنْ

وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا تو (اسے کہا جائے گا کہ) تجھ پر

أَصْحَابِ الْيَمِينِ ۝ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ

دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلا ہے اور اگر وہ جھٹلانے والے

الضَّالِّينَ ۝ فَذُلٌّ مِّنْ حَمِيمٍ ۝ وَتَصْلِيَةٌ

گمراہوں میں سے تھا تو کھولتے ہوئے پانی سے مہمانی ہوگی اور دوزخ کی

بِحَمِيمٍ ۝ إِنَّ هَذَا هُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ ۝

آگ میں جلنا یقیناً یہ ضرور یقینی سچ ہے

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

پس تو اپنے عظمت والے پروردگار کے نام کی تسبیح کئے جا

پہارِ قتل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ رحمن و رحیم کے نام سے

قُلْ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ کَفَرُوْا ۙ لَاۤ اَعْبُدُ مَا

(اے رسول!) کہہ دیجئے اے کافرو! میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو

تَعْبُدُوْنَ ۙ وَلَا اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۚ

تم پوجتے ہو اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں

وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَاۤ اَعْبَدُ شُرَکَآءِیْ ۙ وَلَا اَنْتُمْ

اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے پوجا کی اور نہ تم

عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۚ لَكُمْ دِیْنُکُمْ

اسکی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہارا دین تمہارے لیے ہے

وَلِیْ دِیْنِیْ ۚ

اور میرا دین میرے لیے ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ رحمن و رحیم کے نام سے

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ

(اے رسول!) کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے

لَمْ يَلِدْهُ ۙ وَلَمْ يُولَدْ ۙ وَلَمْ يَكُن لَّهُ

نہ اس نے (کسی کو) جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ کوئی اس کا

كُفُوًا أَحَدٌ ۙ

ہم سے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ رحمن و رحیم کے نام سے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ مِنْ شَرِّ

(اے رسول!) کہہ دیجئے کہ میں صبح کے پُروردگار کی پناہ لیتا ہوں ہر چیز کے شر سے

مَا خَلَقَ ۙ وَمِنْ شَرِّ خَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۙ

جسے اس نے پیدا کیا اور اندھیری رات کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۙ وَمِنْ

اور رگڑوں میں پھونکیں ملانے والیوں کے شر سے اور

شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۙ

حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ رحمن و رحیم کے نام سے

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكٍ

(اے رسول!) فرما دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے پُروردگار کی لوگوں کے

النَّاسِ ۝ إِلَهَ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَاسِ

بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی (وسو ڈال کر پیچھے ہٹ جائے تو اے شیطان)

الْخَنَازِرِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ

خناس کے دوسروں کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں دوسوہ ڈالتا

النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

رہتا ہے جنوں اور آدمیوں میں سے

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ رحمن در رحیم کے نام سے

الْهُكُمْ التَّكْوِيْنِ ۝ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝

تمہیں (مال دولت کی کثرت نے غافل بنائے رکھا یہ حال تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کی

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

ہرگز نہیں تم عنقریب جان لو گے پھر ہرگز نہیں تم عنقریب جان لو گے

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ لَتَرَوْنَّ

ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو (تو غافل نہ رہو) البتہ تم ضرور دیکھو گے

الْجَبِيْمِ ۝ ثُمَّ لَتَرَوْنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝ ثُمَّ

دوزخ کو پھر البتہ تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے پھر

لَتَسْعَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

البتہ تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور باز پرس ہوگی

سُورَةُ الْقَدْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ رحمن و رحیم کے نام سے

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ

یقیناً ہم نے اسے (قرآن) کو شبِ قدر میں نازل کیا اور آپ کو کس چیز نے بتلایا

مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ

کہ شبِ قدر کیا چیز ہے شبِ قدر بہتر ہے

أَلْفِ شَهْرٍ ۚ تَنْزِيلُ الْمَلِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا

ہزار ہینوں سے اس میں فرشتے اور روح

بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ نَّسَأَلُهُ

اپنے پروردگار کے اذن سے ہر معاملہ لے کر آتے ہیں یہ ارات سلامتی ہی سلامتی

هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۚ

ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے

نماز میں جلدی کرو قبل اس کے کہ قضا ہو جائے

توبہ میں جلدی کرو قبل اس کے کہ موت آجائے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

آیت الکرسی

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝

اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہمیشہ زندہ ہے سب کو قائم رکھنے والا

لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا

اسے نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ

فِي الْأَرْضِ ۝ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۝

زمین میں ہے کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرے مگر اس کے اذن سے

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۝ وَلَا

وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ

يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۝

کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم میں سے مگر جو وہ چاہے

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ۝ وَلَا يَئُودُهُ

اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور اسے تھکاتی نہیں

حِفْظُهُمَا ۝ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ لَا إِكْرَاهَ

ان کی حفاظت اور وہ اونچی شان اور عظمت والا ہے کوئی زبردستی نہیں

فِي الدِّينِ ۝ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۝ فَمَنْ

دین میں ہدایت گمراہی سے ظاہر (واضح) ہو چکی پس جو

يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان رکھے تو اس نے پکڑ لی

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ

مضبوط دستاویز یہ ٹوٹ نہیں سکتی اور اللہ سب کچھ سننے والا

عَلِيمٌ ۝ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ

جاننے والا ہے اللہ ایمان والوں کا سرپرست ہے انھیں نکالتا ہے

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمْ

اندھیروں سے روشنی کی طرف اور جو کافر ہیں ان کے سرپرست

الطَّاغُوتِ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

شیطان ہیں انھیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف

أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

یہی لوگ دوزخی ہیں وہی اس میں ہمیشہ رہیں (جلیں) گے

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے

اسنادِ آیت الکرسی کہ جو کوئی ان آیات کو پڑھے گا خدا تعالیٰ اس کے دل

میں حکمت، ایمان، خلوص، توکل اور وقار کو داخل کرے گا اور آبِ باران یا آبِ زمزم سے لکھ کر

پئے تو جسم سے ہر بیماری دور ہوگی۔ تعویذ بنا کر پہنے تو جانور، ان وحشی اور حشرات الارض سے او

سحو بیماری سے محفوظ رہے گا اور ہر دلعزیز ہوگا، اور جو اس کو پڑھے خدا اس پر کبھی عذاب نہ کرے گا

اور نظرِ رحمت سے اسے دیکھے گا اور اسے تو نگر کر دے گا، گلے میں پہننے سے درد و مرگی و فقر دور ہوئے

دُعَاۃٓ صَدُجْحَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے

سُبْحٰنَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِہٖ

ہر نقص و عیب سے پاک ہے اللہ جو عظیم ہے (اور میں) اس کی حمد (کرتا ہوں)

سُبْحٰنَہٗ مِنْ اِلٰہِ مَا اَقْدَرُہٗ

پاک ہے وہ معبود کیسا قادر ہے!

وَسُبْحٰنَہٗ مِنْ قَدِیْرٍ مَّا اَعْظَمَہٗ

اور پاک ہے وہ صاحبِ قدرت کیسا بزرگ ہے!

وَسُبْحٰنَہٗ مِنْ عَظِیْمٍ مَّا اَجَلَّہٗ

اور پاک ہے وہ بزرگ کیسا صاحبِ جلال ہے!

وَسُبْحٰنَہٗ مِنْ جَلِیْلِ مَّا اَمَجَدَہٗ

اور پاک ہے وہ صاحبِ جلال کیسا بزرگ ہے وہ!

وَسُبْحٰنَہٗ مِنْ مَّاجِدٍ مَّا اَسْرَافَہٗ

اور پاک ہے وہ صاحبِ مجد کیسا مہربان ہے وہ!

وَسُبْحٰنَہٗ مِنْ سَرَّوْفٍ مَّا اَعَزَّہٗ

اور پاک ہے وہ مہربانی کرنے والا کیسا عزت والا ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ عَزِيْزٍ مَّا اَكْبَرُهُ

اور پاک ہے وہ عزت والا کیا ہی بڑا ہے وہ !

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ كَبِيْرٍ مَّا اَقْدَمَهُ

اور پاک ہے وہ کبریائی والا کیا ہی تیز ہے وہ !

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ قَدِيْمٍ مَّا اَعْلَاهُ

اور پاک ہے وہ قدیم (ہمیشہ رہنے والا) کیا ہی برتر ہے وہ !

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ عَلِيٍّ مَّا اَسْنَاهُ

اور پاک ہے وہ برتر کیا ہی پائیدار ہے وہ !

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ سَنِوٍ مَّا اَبْهَاهُ

اور پاک ہے وہ پائیدار کیا ہی روشن ہے وہ !

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ بَهِيٍّ مَّا اَنُوْرَهُ

اور پاک ہے وہ روشن کیا ہی سراپا نور ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ مُنِيْرٍ مَّا اَظْهَرَهُ

اور پاک وہ سراپا نور کیا ہی ظاہر ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ ظٰهِرٍ مَّا اَخْفَاهُ

اور پاک ہے وہ ظاہر کیا ہی پوشیدہ ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ خَفِيٍّ مَّا اَعْلَمَهُ

اور پاک ہے وہ پوشیدہ کیا ہی صاحب علم ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ عَلِيْمًا اَخْبِرُهُ

اور پاک ہے وہ صاحبِ علم کیا ہی خبر ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ خَيْرٍ مَّا اَكْرَمَهُ

اور پاک ہے وہ خیر کیا ہی بزرگ ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ كَرِيْمًا اَلْطَفَهُ

اور پاک ہے وہ بزرگ کیا ہی پاکیزہ ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ لَطِيْفٍ مَّا اَبْصَرَهُ

اور پاک ہے وہ پاکیزہ کیا ہی بینا ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ بَصِيْرٍ مَّا اَسْمَعَهُ

اور پاک ہے وہ بینا کیا ہی سننے والا ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ سَمِيْعٍ مَّا اَحْفَظَهُ

اور پاک ہے وہ سننے والا کیا ہی نگہبان ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ حَفِيْظٍ مَّا اَمْلَأَهُ

اور پاک ہے وہ نگہبان کیا ہی داد و دہش کرنے والا ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ مَلِيٍّ مَّا اَوْفَاهُ

اور پاک ہے وہ صاحبِ داد و دہش کیا ہی ایٹنے و وعدہ کرنے والا ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ وَرْفٍ مَّا اَغْنَاهُ

اور پاک ہے وہ وعدہ وفا کرنے والا کیا ہی غنی ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ غِنِيٍّ مَّا اَعْطَاهُ

اور پاک ہے وہ غنی کیا ہی عطا کرنے والا ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ مُعْطٍ مَّا اَوْسَعَهُ

اور پاک ہے وہ عطا کرنے والا کیا ہی کثاثر کار ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ وَاَسِعٍ مَّا اَجُوَدَهُ

اور پاک ہے وہ کثاثر دینے والا کیا ہی سخی ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ جَوَادٍ مَّا اَفْضَلَهُ

اور پاک ہے وہ سخاوت شعار کیا ہی بزرگ ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ مُفْضَلٍ مَّا اَنْعَمَهُ

اور پاک ہے وہ بزرگ دہتر کیا ہی صاحب نعمت ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ مُنْعِمٍ مَّا اَسْعَدَاهُ

اور پاک ہے وہ انعام کار کیا ہی صاحب سعادت ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ سَعِيدٍ مَّا اَرْحَمَهُ

اور پاک ہے وہ صاحبین سعادت کیا ہی رحم افزا ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ رَحِيْمٍ مَّا اَشَدَّهُ

اور پاک ہے وہ رحم افزا کیا ہی سخت ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ شَدِيْدٍ مَّا اَقْوَمَهُ

اور پاک ہے وہ سخت کیا ہی طاقت ور ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ قُوٰی مَآ اَحْمَدَهُ

اور پاک ہے وہ طاقت ور کیا ہی قابل ستائش ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ حَمِيْدٍ مَّآ اَحْكَمَهُ

اور پاک ہے وہ قابل ستائش کیا ہی صاحبِ حکمت ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ حَكِيْمٍ مَّآ اَبْطَشَهُ

اور پاک ہے وہ صاحبِ حکمت کیا ہی سخت گیر ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ بَاطِشٍ مَّآ اَقَوْمَهُ

اور پاک ہے وہ سخت گیر کیا ہی قائم ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ قِيَوْمٍ مَّآ اَدْوَمَهُ

اور پاک ہے وہ قائم کیا ہی صاحبِ دوام ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ دَائِمٍ مَّآ اَبْقَاهُ

اور پاک ہے وہ صاحبِ دوام کیا ہی باقی ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ بَاقٍ مَّآ اَفْرَدَهُ

اور پاک ہے وہ صاحبِ بقاء کیا ہی یکتا ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ فَرْدٍ مَّآ اَوْحَدَهُ

اور پاک ہے وہ یکتا کیا ہی واحد ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ وَّاحِدٍ مَّآ اَصْمَدَهُ

اور پاک ہے وہ ذاتِ واحد کیا ہی بے نیاز ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ صَدِيْمًا اَمْلٰكُهُ

اور پاک ہے وہ بے نیاز کیا ہی مالک ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ مَّالِكٍ مَّا اَوْلٰهُ

اور پاک ہے وہ مالک کیا ہی بہتر ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ وَّلِيٍّ مَّا اَعْظَمَهُ

اور پاک ہے وہ بہتر کیا ہی صاحبِ عظمت ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ عَظِيْمٍ مَّا اَكْمَلَهُ

اور پاک ہے وہ صاحبِ عظمت کیا ہی کامل ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ كَامِلٍ مَّا اَتَمَّهُ

اور پاک ہے وہ صاحبِ کمال کیا ہی تمام ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ تَاَمٍّ مَّا اَعْجَبَهُ

اور پاک ہے وہ صاحبِ تمام کیا ہی عجیب ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ عَجِيْبٍ مَّا اَفْخَرَهُ

اور پاک ہے وہ صاحبِ عجیب کیا ہی فخر ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ فَاخِرٍ مَّا اَبْعَدَهُ

اور پاک ہے وہ صاحبِ فخر کیا ہی دور ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ بَعِيْدٍ مَّا اَقْرَبَهُ

اور پاک ہے صاحبِ بُدُنْ کیا ہی قریب ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ قَرِيْبٍ مَّا اَمْنَعُهُ

اور پاک ہے وہ صاحبِ قرب کیا ہی مانع ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ مَّانِعٍ مَّا اَغْلِبَهُ

اور پاک ہے وہ مانع کیا ہی غالب ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ غَالِبٍ مَّا اَعْفَاهُ

اور پاک ہے وہ غالب کیا ہی صاحبِ عفو ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ عَفُوْمًا اَحْسَنَهُ

اور پاک ہے وہ صاحبِ عفو کیا ہی محسن ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ مَّحْسِنٍ مَّا اَجْمَلَهُ

اور پاک ہے وہ صاحبِ احسان کیا ہی خوب تر ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ مُجْمِلٍ مَّا اَقْبَلَهُ

اور پاک ہے وہ خوب تر کیا ہی قابل ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ قَابِلٍ مَّا اَشْكُرُهُ

اور پاک ہے وہ قابل کیا ہی شاکر ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ شَكُوْرًا مَّا اَغْفَرُهُ

اور پاک ہے وہ شاکر کیا ہی غفور ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ غَافِرٍ مَّا اَصْبَرُهُ

اور پاک ہے وہ بخش دینے والا کیا ہی صابر ہے وہ

وَسُبْحَانَهُ مِنْ صَبُورٍ مَّا أَجْبَرَهُ

اور پاک ہے وہ صابر کیا ہی زبردست ہے وہ

وَسُبْحَانَهُ مِنْ جَبَّارٍ مَّا أَدِينَهُ

پاک ہے وہ از روئے بزرگی کے اس چیز سے کہ جزا دے اس کو

وَسُبْحَانَهُ مِنْ دَيَّانٍ مَّا أَقْضَاهُ

پاک ہے وہ از روئے جزا کے اس چیز سے کہ حکم کرنے والی ہو اس سے

وَسُبْحَانَهُ مِنْ قَاضٍ مَّا أَمْضَاهُ

اور پاک ہے وہ صاحبِ قضا کیا ہی جاری ہے وہ

وَسُبْحَانَهُ مِنْ مَّاضٍ مَّا أَنْفَذَهُ

اور پاک ہے وہ جاری کیا ہی جاری کرنے والا ہے وہ

وَسُبْحَانَهُ مِنْ نَافِذٍ مَّا أَحْلَمَهُ

اور پاک ہے وہ صاحبِ نفاذ کیا ہی بردبار ہے وہ

وَسُبْحَانَهُ مِنْ حَلِيمٍ مَّا أَخْلَقَهُ

اور پاک ہے وہ بردبار کیا ہی تخلیق کار ہے وہ

وَسُبْحَانَهُ مِنْ خَالِقٍ مَّا أَرْزَقَهُ

اور پاک ہے وہ تخلیق کار کیا ہی روزی رسال ہے وہ

وَسُبْحَانَهُ مِنْ سَرَّازٍ مَّا أَقْهَرَهُ

اور پاک ہے وہ روزی رسال کیا ہی زور والا ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ قَاهِرَمَّا اَنْشَاَهُ

اور پاک ہے وہ زور والا کیا ہی پیدا کنیوالا ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ مُنْشِئِ مَا اَمْلَاكَهُ

اور پاک ہے وہ پیدا کنیوالا کیا ہی مالک ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ مَّالِكٍ مَا اَوْلَاهُ

اور پاک ہے وہ مالک کیا ہی وارث ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ وَاٰلٍ مَا اَرْفَعَهُ

اور پاک ہے وہ وارث کیا ہی بلند مرتبہ ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ سَرَفِيعٍ مَا اشْرَفَهُ

اور پاک ہے وہ بلند مرتبہ کیا ہی صاحب شرف ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ شَرِيفٍ مَا ابْسَطَهُ

اور پاک ہے وہ صاحب شرف کیا ہی کشائش کار ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ بَاسِطٍ مَا اَقْبَضَهُ

اور پاک ہے وہ کشائش کار کیا ہی قابض ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ قَابِضٍ مَا اَبْدَاَهُ

اور پاک ہے وہ صاحب قبضہ کیا ہی ابتدا کنیوالا ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ بَادٍ مَا اَقْدَسَهُ

اور پاک ہے وہ ابتدا کنیوالا کیا ہی پاکیزہ ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ قُدُوْسٍ مَّا اَطْهَرَهُ

اور پاک ہے صاحبِ قدس کیا ہی نفیس ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ طٰهِيْرٍ مَّا اَزْكٰهُ

اور پاک ہے وہ نفیس کیا ہی منزہ ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ شَرِكٍ مَّا اَهْدٰهُ

اور پاک ہے منزہ کیا ہی ہادی ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ هَادٍ مَّا اَصْدَقَهُ

اور پاک ہے وہ ہادی کیا ہی صادق ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ صَادِقٍ مَّا اَعُوْدَهُ

اور پاک ہے وہ صاحبِ صدق کیا ہی پھیرنے والا ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ عَوَادٍ مَّا اَفْطَرَهُ

اور پاک ہے وہ پھیرنے والا کیا ہی جھڑکار ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ فَاطِرٍ مَّا اَرْعٰهُ

اور پاک ہے وہ جھڑکار کیا ہی رعایت کار ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ سَرَّاعٍ مَّا اَعَوْنَهُ

اور پاک ہے وہ رعایت کار کیا ہی مددگار ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ مُعِيْنٍ مَّا اَوْهَبَهُ

اور پاک ہے وہ مددگار کیا ہی عنایت کار ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ وَهَابٍ مَّا اَتُوْبَهُ

اور پاک ہے وہ عنایت کار کیا ہی توبہ قبول کرئیوالا ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ تَوَابٍ مَّا اَسْخُهُ

اور پاک ہے وہ توبہ قبول کرئیوالا کیا ہی سخی ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ سَخِيٍّ مَّا اَنْصَرَهُ

اور پاک ہے وہ سخی کیا ہی نصرت والا ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ تَصِيْرٍ مَّا اَسْلَمَهُ

اور پاک ہے وہ نصرت والا کیا ہی سلامتی والا ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ سَلَامٍ مَّا اَشْفَاهُ

اور پاک ہے وہ سلامتی والا کیا ہی شفا بخش ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ شَافٍ مَّا اَنْجَاهُ

اور پاک ہے وہ شفا بخش کیا ہی نجات دینے والا ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ مُنْجٍ مَّا اَبْرَاهُ

اور پاک ہے وہ نجات دہندہ کیا ہی احسان کرئیوالا ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ بَاطِلٍ مَّا اَطْلَبَهُ

اور پاک ہے وہ احسان شعار کیا ہی طالب ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ طَالِبٍ مَّا اَدْرَكَهُ

اور پاک ہے وہ طالب کیا ہی صاحبِ اوراک ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ مُدْرِكٍ مَّا اُرْسَدَهُ

اور پاک ہے وہ صاحبِ ادراک کیا ہی نیک راہ بتانے والا ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ شَرِّشَيْدٍ مَّا اَعْطَفَهُ

اور پاک ہے وہ نیک راہ بتانے والا کیا ہی مہربان ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ مُتَعَطِفٍ مَّا اَعْدَلَهُ

اور پاک ہے وہ مہربان کیا ہی عدل گتر ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ عَادِلٍ مَّا اتَّقَنَهُ

اور پاک ہے وہ از روئے الصاف کے اس چیز سے کہ یقین تر ہو اس سے

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ مُتَّقِنٍ مَّا اَحْكَمَهُ

اور پاک ہے وہ از روئے یقین کے اس چیز سے کہ حکیم تر ہو اس سے

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ حَكِيْمٍ مَّا اَكْفَلَهُ

اور پاک ہے وہ صاحبِ حکمت کیا ہی کفیل ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ كَفِيْلٍ مَّا اَشْهَدَهُ

اور پاک ہے وہ کفیل کیا ہی گواہ ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ مِنْ شَهِيدٍ مَّا اَحْمَدَهُ

اور پاک ہے وہ گواہ کیا ہی لائقِ تعریف ہے وہ

وَسُبْحٰنَهُ هُوَ اللهُ الْعَظِيْمُ وَبِحَمْدِهِ

اور پاک ہے وہ وہی اللہ ہے صاحبِ عظمت اپنی حمد کے ساتھ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بزرگ تر ہے

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

اور نہیں ہے طاقت و قوت مگر اللہ برتر و بزرگ کے واسطے

دَافِعِ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

دفع کرنے والا ہر بلا کا اور وہ کافی ہے مجھ کو اور بہتر نگہبان ہے

اسنادِ دُعائے صدیحجان

سید ابن طاووس نے کتاب ”مع الدعوات“ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دُعا کے بہت فضائل و خواص روایت کئے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی مدتِ عمر میں ایک بار اس دُعا کو پڑھے اللہ تعالیٰ حج و عمرہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں تحریر فرمائے اور اس کو جو ابرِ غیبیہ و حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام میں جگہ عطا کرے اور اگر جو شخص یہ دُعا بیس مرتبہ پڑھے حق تعالیٰ اس کو ہرگز عذاب نہ کرے گا ہر چند کہ اس کے گناہ بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں اور آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں اور اس کو ستر آفاتِ دنیا اور آفاتِ آخرت سے نجات دے اور اگر بندہ آزادی کے ارادے سے پڑھے آزاد ہو۔ اور اگر حاجت مند پڑھے حاجت روا ہو، علیٰ ہذا القیاس اس دُعا کے فضائل بیشمار ہیں۔ بسببِ طوالت اسی پر اکتفا کیا گیا۔

دعاۓ مجیر

یہ ایک عظیم الشان دُعا ہے۔ پیغمبر اسلام سے روایت ہے کہ یہ دُعا جبریل امین آنحضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لے کر آئے اور کفعمی نے بلد الاہین اور مصباح میں اس دُعا کو رقم کیا ہے اور اسکے حاشیہ پر اس دُعا کی فضیلت کے بارے میں اشارہ کیا ہے۔ من جملہ فضیلتوں میں سے ایک فضیلت پیش قاتین ہے۔ ایام بیض سے مراد تیرہویں، چودھویں اور پندرہویں ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی ان تاریخوں میں جو یہ دُعا پڑھے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ گناہوں کی تعداد بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں اور ایک صحرا کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو۔ نیز یہ دُعا بڑے شفاۓ مریضیاں اور ادائے قرضہ جات اور حصول ثروت مندی اور رفع ہم و عم پڑھی جاتی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُبْحٰنَكَ يَاَ اللّٰهُ تَعَالَيْتَ يَاَ رَحْمٰنُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے خدا تو برتر و اعلیٰ ہے اے بخشنده

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَاَ مُجِیْرُ

ہم کو آتش جہنم سے پناہ دیجئے اے پناہ دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا رَحِيْمٌ تَعَالَيْتَ يَا كَرِيْمٌ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے مہربان تو برتر و اعلیٰ ہے اے کرم فرماتے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرٌ

ہم کو جہنم کی آگ سے نجات دیکھنے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا مَلِكٌ تَعَالَيْتَ يَا مَالِكٌ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے بادشاہِ حق تو برتر و اعلیٰ ہے اے مالکِ حقیقی

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرٌ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیکھنے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا قُدُّوْسٌ تَعَالَيْتَ يَا سَلَامٌ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے عیبِ منزہ ذات تو برتر و اعلیٰ ہے اے سلام

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرٌ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیکھنے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا مُؤْمِنٌ تَعَالَيْتَ يَا مُهَيْمِنٌ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے تصدیق کرنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے کفیل مخلوقات

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرٌ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیکھنے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا عَزِيْزٌ تَعَالَيْتَ يَا جَبَّارٌ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے ہرکارا پر غالب تو برتر و اعلیٰ ہے اے ذی سطوت

أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا مُتَكَبِّرُ تَعَالَيْتَ يَا مُتَجَبِّرُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے بلند مرتبہ تو برتر و اعلیٰ ہے اے نقصان کی تلافی کرنے والے

أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا خَالِقُ تَعَالَيْتَ يَا بَارِئُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے پیدا کرنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے

أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا مُصَوِّرُ تَعَالَيْتَ يَا مُقَدِّرُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے صورتگری کرنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے تدبیر کرنے والے

أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا هَادِي تَعَالَيْتَ يَا بَاقِي

تیری تسبیح کرتا ہوں اے ہدایت دینے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے ہمیشہ باقی رہنے والے

أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا وَهَّابُ تَعَالَيْتَ يَا تَوَّابُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے بہت دینے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے بہت جمع کرنے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیکھے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا فَتَّاحُ تَعَالَيْتَ يَا مُرْتَّاحُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے بہت کھٹائش کرنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیکھے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا سَيِّدِي تَعَالَيْتَ يَا مَوْلَايُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے میرے سردار تو برتر و اعلیٰ ہے اے میرے مولا

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیکھے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا قَرِيبُ تَعَالَيْتَ يَا سَرِيقِبُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے (شکر گت بھی) قریب تو برتر و اعلیٰ ہے اے گھمانی کرنے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیکھے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا مُبْدِي تَعَالَيْتَ يَا مُعِيدُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے (کسی بھی کام کا) آغاز کرنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے ماہر

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا حَمِيدُ تَعَالَيْتَ يَا مَجِيدُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے لائقِ ستائش تو برتر و اعلیٰ ہے اے بخشنے والے غالب

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا قَدِيمُ تَعَالَيْتَ يَا عَظِيمُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے قدیم تو برتر و اعلیٰ ہے اے عظیم

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا غَفُورُ تَعَالَيْتَ يَا شَكُورُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے بہت بخشنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے بہت شکر گزار

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا شَهِيدُ تَعَالَيْتَ يَا شَهِيدُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے معائنہ کرنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے تیرے علم سے کچھ مخفی نہیں

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا حَنَّانُ تَعَالَيْتَ يَا مَنَّانُ

تیری تسبیح کرتا ہوں لے بہت مہربان تو برتر و اعلیٰ ہے لے بہت احسان کرنے والے

اِحْرٰنَا مِنْ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے لے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا بَاعِثُ تَعَالَيْتَ يَا وَارِثُ

تیری تسبیح کرتا ہوں لے خواب غفلت سے جگانے والے تو برتر و اعلیٰ ہے لے وارث

اِحْرٰنَا مِنْ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے لے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا مُحْيِي تَعَالَيْتَ يَا مُمِيتُ

تیری تسبیح کرتا ہوں لے موت و حیات کا اختیار رکھنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے

اِحْرٰنَا مِنْ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے لے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا شَفِيقُ تَعَالَيْتَ يَا رَفِيقُ

تیری تسبیح کرتا ہوں لے (بند و برباد) شفقت کرنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے لے بندوں کا رفیق

اِحْرٰنَا مِنْ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے لے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا اَنْيسُ تَعَالَيْتَ يَا مُونِسُ

تیری تسبیح کرتا ہوں لے اپنی مخلوق سے انس رکھنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے لے بندوں کے غمگسار

اِحْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیکھنے کے لیے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا جَلِيلُ تَعَالَيْتَ يَا جَمِيلُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے بڑی شان والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے صاحب جمال

اِحْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیکھنے کے لیے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا خَبِيرُ تَعَالَيْتَ يَا بَصِيرُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے باخبر تو برتر و اعلیٰ ہے اے صاحب بصارت

اِحْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیکھنے کے لیے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا خَفِيُّ تَعَالَيْتَ يَا مَلِيُّ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے بہت عزت دینے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے عمدہ اور مکر کے والے

اِحْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیکھنے کے لیے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا مَعْبُودُ تَعَالَيْتَ يَا مَوْجُودُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے لائق عبادت تو برتر و اعلیٰ ہے اے موجود

اِحْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیکھنے کے لیے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا غَفَّارُ تَعَالَيْتَ يَا قَهَّارُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے بہت بخشنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے بہت غالب

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیکھنے کے لیے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا مَذْكُورُ تَعَالَيْتَ يَا مَشْكُورُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے ذکر کے لائق تو برتر و اعلیٰ ہے اے شکر کے لائق

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیکھنے کے لیے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا جَوَادُ تَعَالَيْتَ يَا مَعَادُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے سراپا سخاوت تو برتر و اعلیٰ ہے تیری ہی طرف سب کو پلٹنا ہے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیکھنے کے لیے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا جَمَالُ تَعَالَيْتَ يَا جَلالُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے جمال تو برتر و اعلیٰ ہے اے جلال

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیکھنے کے لیے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا سَابِقُ تَعَالَيْتَ يَا رَازِقُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے سب سے پہلے موجود تو برتر و اعلیٰ ہے اے روزی رسال

أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیکھنے کے لیے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا صَادِقُ تَعَالَيْتَ يَا فَالِقُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے سچے وعدہ والے تو برتر و اعلا ہے اے پیدا کرنے والے

أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیکھنے کے لیے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا سَمِيعُ تَعَالَيْتَ يَا سَرِيعُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے سُننے والے تو برتر و اعلا ہے اے جلد سرا انجام دینے والے

أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیکھنے کے لیے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا رَفِيعُ تَعَالَيْتَ يَا بَدِيعُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے عظیم الشان تو برتر و اعلا ہے اے نوالے تخلیق کار

أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیکھنے کے لیے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا فَعَّالُ تَعَالَيْتَ يَا مُتَعَالُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے نظام عالم کو برقرار رکھنے والے تو برتر و اعلا ہے اے عالی مرتبہ

أَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیکھنے کے لیے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا قَاضِيُ تَعَالَيْتَ يَا رَاضِيُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے عفو فیصلہ کرنے والے تو برتر و اعلا ہے اے جلد راضی ہو جانے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا قَاهِرُ تَعَالَيْتَ يَا طَاهِرُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے غالب تو برتر و اعلا ہے اے پاک و پاکیزہ

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا عَالِمُ تَعَالَيْتَ يَا حَاكِمُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے جاننے والے تو برتر و اعلا ہے اے حاکم حقیقی

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا دَاعِمُ تَعَالَيْتَ يَا قَائِمُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے سرمدی تو برتر و اعلا ہے اے قائم

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا عَاصِمُ تَعَالَيْتَ يَا قَاسِمُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے محروم ہونے سے بچانے والے تو برتر و اعلا ہے اے بانٹنے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا غَنِيُّ تَعَالَيْتَ يَا مُغْنِيُّ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے بے نیاز تو برتر و اعلیٰ ہے اے بے نیاز کرنے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا وَفِيُّ تَعَالَيْتَ يَا قَوِيُّ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے ایقانے عہد والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے سب سے قوی

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا كَافِيُّ تَعَالَيْتَ يَا شَافِيُّ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے کہ تو تنہا کافی ہے تو برتر و اعلیٰ ہے اے شفا دینے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا مُقَدِّمُ تَعَالَيْتَ يَا مُؤَخِّرُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے اولیت بخشنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے کسی کو آخر کرنے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا اَوَّلُ تَعَالَيْتَ يَا اٰخِرُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے سب سے پہلے تو برتر و اعلیٰ ہے اے سب سے بعد

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیکھنے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا ظَاهِرُ تَعَالَيْتَ يَا بَاطِنُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے ظاہر و عیاں تو برتر و اعلیٰ ہے اے پوشیدہ

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیکھنے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا رَجَاءُ تَعَالَيْتَ يَا مَرْجُو

تیری تسبیح کرتا ہوں اے امیدواروں کی امید تو برتر و اعلیٰ ہے اے تمام آرزوں کے مرجع

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیکھنے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا ذَا الْمَنِّ تَعَالَيْتَ يَا ذَا الطَّلْوَلِ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے صاحبِ احسان تو برتر و اعلیٰ ہے اے صاحبِ عطا

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیکھنے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا حَيُّ تَعَالَيْتَ يَا قَيُّوْمُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے وہ ذات کہ خود جیتا ہے اور دوسرے تیرے سہارا جیتے ہیں تو برتر ہے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا وَاحِدُ تَعَالَيْتَ يَا اَحَدُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے یکتا و یگانہ تو برتر و اعلیٰ ہے اے تنہا

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا سَيِّدُ تَعَالَيْتَ يَا صَدُّ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے میرے سردار تو برتر و اعلیٰ ہے اے احتیاج سے بے نیاز

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا قَدِيْرُ تَعَالَيْتَ يَا كَبِيْرُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے کمال قدرت والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے صاحب کبریا

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا وَاوِلُّ تَعَالَيْتَ يَا مُتَعَالِي

تیری تسبیح کرتا ہوں اے سلطانِ مطلق تو برتر و اعلیٰ ہے اے عالی مرتبہ

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا عَلِيُّ تَعَالَيْتَ يَا اَعْلٰی

تیری تسبیح کرتا ہوں اے سب سے عالی جہاں تو برتر و اعلیٰ ہے اے سب سے مانوق

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِیْرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا وِلٰی تَعَالَيْتَ يَا مَوْلٰی

تیری تسبیح کرتا ہوں اے مددگار تو برتر و اعلیٰ ہے اے گل کے مددگار

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِیْرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا ذٰرِیْءُ تَعَالَيْتَ يَا بَارِیْءُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے پناہ دینے والے تو برتر و اعلیٰ ہے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِیْرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا خَافِضُ تَعَالَيْتَ يَا سٰرِفِعُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے ذلیل پست کرنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے بلند عطا کرنے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِیْرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا مُقْسِطُ تَعَالَيْتَ يَا جَامِعُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے عدل انصاف فراہم کرنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے جمع کرنے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا مُعِزُّ تَعَالَيْتَ يَا مُزِلُّ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے عزت بخشنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے ذلت دینے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا حَافِظُ تَعَالَيْتَ يَا حَفِیْظُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے حفاظت فرمانے والے تو برتر و اعلیٰ ہے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا قَادِرُ تَعَالَيْتَ يَا مُقْتَدِرُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے قادر مطلق تو برتر و اعلیٰ ہے اے صاحب اقتدار

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا عَلِيْمُ تَعَالَيْتَ يَا حَلِيْمُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے ہر چیز سے باخبر تو برتر و اعلیٰ ہے اے بردبار

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا حَكِيْمٌ تَعَالَيْتَ يَا حَكِيْمٌ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے محنتِ رُکُل تو برتر و اعلیٰ ہے اے مصالحت میں

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرٌ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیکھنے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا مُعْطٰی تَعَالَيْتَ يَا مَانِعٌ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے (نعمتیں) عطا کرنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے (نعمت) اردو کرنے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرٌ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیکھنے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا ضَاہِرٌ تَعَالَيْتَ يَا نَافِعٌ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے ضرر پہنچانے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے نفع پہنچانے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرٌ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیکھنے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا مُجِيْبٌ تَعَالَيْتَ يَا حَسِيْبٌ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے پیکار سن لینے والے تو برتر و اعلیٰ ہے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرٌ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیکھنے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا عَادِلٌ تَعَالَيْتَ يَا فَاضِلٌ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے عدل گستر تو برتر و اعلیٰ ہے اے فضل کرنے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا لَطِيفُ تَعَالَيْتَ يَا شَرِيفُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے سراپا لطف و کرم تو برتر و اعلیٰ ہے اے ذی شرف

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا رَافِعُ تَعَالَيْتَ يَا حَافِعُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے پروردگار تو برتر و اعلیٰ ہے اے حق

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا مَاجِدُ تَعَالَيْتَ يَا وَاجِدُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے بزرگی والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے یگانہ و یکتا

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا عَفُوُّ تَعَالَيْتَ يَا مُنْتَقِمُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے بہت درگزر کرنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے انتقام لینے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا وَاَسِعُ تَعَالَيْتَ يَا مُوسِعُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے بہت رحمت کرنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے مجد فراخی بخشنے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا رءُوفٌ تَعَالَيْتَ يَا عَطُوفٌ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے راحت مہربانی کرنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے نرمی و مہربانی والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا فَرْدٌ تَعَالَيْتَ يَا وِثْرٌ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے منفرد و یکتا تو برتر و اعلیٰ ہے اے کیلے و بے ہمتا

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا مُقِيْتُ تَعَالَيْتَ يَا مُحِيْطٌ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے قوت دینے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے احاطہ کرنے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا وَكِيْلٌ تَعَالَيْتَ يَا عَدْلٌ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے بندوں کے امور کے وکیل تو برتر و اعلیٰ ہے اے عدل کرنے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا مُبِينُ تَعَالَيْتَ يَا مَتِينُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے واضح و آشکارا تو برتر و اعلیٰ ہے اے عمدہ و پختہ

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا بَرُّ تَعَالَيْتَ يَا وَدُودُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے حسن سلوک کرنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے بہت محبت کرنے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا رَشِيدُ تَعَالَيْتَ يَا مُرْشِدُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے سرچشمہ ہدایت تو برتر و اعلیٰ ہے اے ہدایت دینے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا نُوْرُ تَعَالَيْتَ يَا مُنُوْرُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے مرکز نور تو برتر و اعلیٰ ہے اے نور پانٹنے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيبُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا نَصِيْرُ تَعَالَيْتَ يَا نَاصِرُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے مرکزِ امداد تو برتر و اعلیٰ ہے اے مدد کرنے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیکھنے والے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا صَبُوْرُ تَعَالَيْتَ يَا صَابِرُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے صبر دینے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے صبر کرنے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیکھنے والے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا مُحْصِيْ تَعَالَيْتَ يَا مُنْشِيْ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے شمار کرنے پر قادر تو برتر و اعلیٰ ہے اے نشوونما کرنے والے

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیکھنے والے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا سُبْحٰنُ تَعَالَيْتَ يَا دِيْاَنُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے پاک و منزہ ذات تو برتر و اعلیٰ ہے اے عطا ہی عطا

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيْرُ

ہم کو آتشِ جہنم سے نجات دیکھنے والے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا مُغِيْثُ تَعَالَيْتَ يَا غِيَاثُ

تیری تسبیح کرتا ہوں اے مدد کو پہنچنے والے تو برتر و اعلیٰ ہے اے مرکزِ رُبوبیت

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا فَاطِرُ تَعَالَيْتَ يَا حَاضِرُ

تیری شایع کرتا ہوں اے خالق کائنات تو برتر و اعلیٰ ہے اے ہر جگہ موجود

اَجْرُنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

ہم کو آتش جہنم سے نجات دیجئے اے نجات دینے والے

سُبْحٰنَكَ يَا ذَا الْعِزِّ وَالْجَمَالِ تَبَارَكَتْ

منزہ و پاک ہے تو اے صاحب عزت و جمال تو سرچشمہ برکات ہے

يَا ذَا الْجَبْرُوتِ وَالْجَلَالِ سُبْحٰنَكَ يَا لَا إِلَهَ

اے صاحب عظمت و جبروت منزہ و پاک ہے تو اے کہ معبود نہیں

إِلَّا أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِيَّا كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

کوئی سوائے تیرے منزہ و پاک ہے تو بیشک میں ظالموں میں سے ہوں

فَاسْتَجِبْ نَالَهٖ وَنَجِّنَهٗ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ

ہم نے اس کی فریاد قبول کر لی اور اس کو غم سے نجات دے دی اسی طرح

نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا

ہم مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں درود و سلام ہو (اے اللہ) ہمارے سید

مُحَمَّدٍ وَآلِهٖ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ

آقا محمد مصطفیٰ اور ان کی ساری آل پر اور ساری ستائش اللہ کے لیے ہے جو

الْعَالَمِينَ ط حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ط

عالمین کا پالنے والا ہے دی پروردگار ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین و کمیل ہے

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ط

دینیکی (کی طاقت اور (شتر سے بچنے کی) قوت نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بزرگ و اعلیٰ ہے

دعائے حضرت سلیمان

دعائے حضرت سلیمان علیہ السلام برائے حل مشکلات روزانہ پڑھیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

اللَّهُمَّ بِنُورِكَ اهْتَدَيْتُمْ وَبِفَضْلِكَ اسْتَعِينْتُ ط

اے اللہ میں تیرے نور کے ذریعے ہدایت یافتہ ہوا اور تیرے فضل سے فریادی ہوا

وَبِنِعْمَتِكَ أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ هَذِهِ ذُنُوبِي ط

اور تیری نعمت کے ساتھ میں نے صبح و شام کی یہ میرے گناہ

بَيْنَ يَدَيْكَ اسْتَغْفِرُكَ مِنْهَا وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ط

تیرے سامنے موجود ہیں ان کی میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری ہی طرف توبہ کرتا ہوں

يَا رَبِّ ط

اے پروردگار!

دَرُودُ تَاجِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اے اللہ (اے رب کریم) درود بھیج ہمارے آقا و مولا

مُحَمَّدٍ صَاحِبِ السَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ

(حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) پر جو (تیری عظیم مکتبے) تاجدار ہیں اور معراج (یعنی قرعین)

وَالْبُرَاةِ وَالْعَلَمِ

سے سفرِ ازیں براق جن کی سواری (بنی) اور جو (تیری) اہیت اور تیری شانِ محمد کے) علمبردار ہیں

دَافِعِ الْبَلَاءِ وَالْوَبَاءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْأَكْوَابِ

(میں سے جو رحمتیں ہیں تیری ان پر جو) بلائیں، وبائیں، قحط اور جملہ دکھ درد و دور کو نبولے ہیں

رَأْسِهِ مَكْتُوبٌ مَّرْفُوعٌ

اور آپ کا نام نامی تو (عرشِ عظیم پر) لکھا گیا، بلند کیا گیا ہے (کہ آپ کے اہم پاک کی لغت آپ کے)

مَشْفُوعٌ مَّنْقُوشٌ فِي اللُّوحِ وَالْقَلَمِ

مقبول شفاعت (یعنی پر شاہد ہے اور پھر یہ رسم مبارک تو) تیری لوح محفوظ اور تیری قلم درت کے درت کے درت کے

سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ۝ جَسْمُهُ

(بلاشبہ سرور کائنات ہی) عرب و عجم (یعنی کل انسانیت) کے سرور ہیں۔ آپ کے جسم مقدس کی

مُقَدَّسٌ مُعْطَرٌ مُطَهَّرٌ مَنُوسٌ فِي

پاکیزگی، خوشبو سے عالم ہرک ہے) اور آپ کی تجلیاتِ ہدایت کے نور و انوار سے

الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ ○ شَمْسِ

(خود) کعبہ اور حرم پاک منور ہیں۔ اور (ایسا کیوں ہو کہ) آپ وہ آفتاب ہدایت ہیں جو اپنے خروج

الضُّحَى بَدْرِ الدُّجَى

کی طرف اترتے ہیں اور وہ ماہتاب (نور) ہیں جو ہم غفلت (گمراہی اور گمراہیوں) کو دور کرنے والے ہیں

صَدْرِ الْعُلَى نُورِ الْهُدَى كَهْفِ

(میرے) بطن پر اپنے بطن پر درود بھیج جو (فحشوں کے صدر نشیں راہ ہدایت کے نور) مخلوق کی

الْوَرَى مُصْبِحِ الظُّلَمِ ○ جَمِيلِ الشَّيَمِ ○

جلنے پناہ، اندھیریوں کے چراغ خلقِ عظیم کے حائل

شَفِيْعِ الْأَمْرِ ○ صَاحِبِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ ○

جملہ امتوں کو بخشوانے والے اور انتہائی عطا و بخشش سے موصوف ہیں

وَاللَّهُ عَاصِدُهُ ○ وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ ○

اور اللہ تعالیٰ ہی انکا نگہبان (کارساز) ہے جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں

وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهُ ○ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهُ ○

اور براق آپ کی سواری معراج آپ کا سفر

سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى مَقَامُهُ ○ وَقَابِ قَوْسَيْنِ

سدرۃ المنتہیٰ آپ کا مقام اور (قربِ خلافت میں) قابِ قوسین کا مرتبہ

مَطْلُوبُهُ ○ وَالْمَطْلُوبُ مَقْصُودُهُ ○ وَالْمَقْصُودُ

آپ کا مطلوب ہے اور آپ کا مطلوب ہی آپ کا مقصود ہے اور آپ کا مطلوب

مَوْجُودَةٌ ○ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ○

آپ کو حاصل ہے (یعنی یہی حضور کا وہ مقام خاص ہے جہاں قرب الہی سے سرفرازی آتی ہے) اور

خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ○ شَفِيعِ الْمُذْنِبِينَ ○ اَنْبِيَّسِ ○

اب آپ ہی نبوتوں کو ختم کرنے والے، گنہگاروں کو بخشوانے والے، (راہِ سلوک کے)

الْغُرَابِيِّينَ ○ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ○ رَاحَةِ ○

مسافروں کے غم خوار، دنیا جہان کے لیے رحمت، (عاشقوں کے غمزدہ قلوب)

الْعَاشِقِينَ ○ مُرَادِ الْمُشْتَاقِينَ ○ شَمْسِ ○

کے لیے راحت، مشتاق نگاہوں (اور دیدہ بینا) کیلئے نظر حق، خدا شناسوں

الْعَارِفِينَ ○ سِرَاجِ السَّالِكِينَ ○ مُصْبِحِ الْمُقَرَّبِينَ ○

کے لیے آفتاب، راہ حق کے متلاشیوں کیلئے چراغ ہدایت، مقربوں کے لیے رہنما

مُحِبِّ الْفُقَرَاءِ وَالْغُرَبَاءِ ○ وَالْمَسْكِينِ ○ سَيِّدِ ○

غریبوں، فقیروں اور مسکینوں سے محبت فرماتے والے

الثَّقَلَيْنِ ○ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ ○ اِمَامِ ○

جن و انس کے سردار، دونوں حرموں (یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ) کے نبی، دونوں قبلوں

الْقِبْلَتَيْنِ ○ وَسَيِّدَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ ○

(یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ) کے امام اور دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے وسیلہ نجات ہیں

صَاحِبِ قَابِ قَوْسَيْنِ ○ مَحْبُوبِ رَاسِ ○

اور (خود شرف کا تینا) مرتبہ قاب قوسین پر فائز ہیں۔ آپ دونوں مشرقوں اور مغربوں کے

المَشْرِقِينَ وَالْمَغْرِبِينَ ۝ جَدِّ الْحَسَنِ

کے محبوب (دونوں جہان کے رب کے رسول اور نبی برحق ہیں) آپ (شہیدانِ راہِ حق سیدنا امامِ حسنؑ

وَالْحُسَيْنِ ۝ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ ۝

اور سیدنا امامِ حسینؑ کے جدِ امجد ہیں آپ ہی ہمارے اور تمام جن و انس کے آقا ہیں

أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ نُورٍ مِّنْ

آپ (حقیر) قاسم کے والد، عبد اللہ کے بیٹے اور اللہ کے نور کا ظہور ہیں

نُورِ اللَّهِ ۝ يَا أَيُّهَا الْمَشْتَاقُونَ بِنُورِ جَمَالِهِ

(جس سے حمد کا ظہور ہوا ہے)۔ اے نورِ جمالِ محمدی کے مشتاقو! (اؤ تم بھی اپنے مطلوبِ مقصود کو

صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ

پاجاد) آپ پر آپ کی آل پر خوب خوب درود بھیجو

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ

يَا مُدَبِّرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

يَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَالْأَحْوَالِ

حَوْلٌ حَالَتْنَا إِلَى أَحْسَنِ الْحَالِ

ہفتے کے تمام دنوں کی دعائیں

(صحیفہ کاملہ سے)

اتوار کی دعا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا اَسْجُوْا اِلَّا فَضْلَهُ

اللہ کے نام سے کہ میں صرف اسی کے فضل کا امیدوار ہوں

وَلَا اَخْشٰی اِلَّا عَدْلَهُ وَلَا اَعْتَمِدُ اِلَّا قَوْلَهُ

میں صرف اسی کے عدل سے ڈرتا ہوں اور صرف اسی کے وعدہ پر بھروسہ کرتا ہوں

وَلَا اُمْسِكُ اِلَّا بِحَبْلِهِ - بِكَ اَسْتَجِیْرُ

اور صرف اسی کے رشتہ سے وابستہ ہوں میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں

يَا ذَا الْعَفْوِ وَالرِّضْوَانِ مِنَ الظُّلْمِ وَالْعُدُوَانِ وَمَنْ

اے معافی و غوشنودی کے مالک! ظلم و سرکشی سے دنیا کی

غَیْرِ الزُّمَانِ وَتَوَاتُرِ الْاَحْزَانِ وَطَوَارِقِ الْاَحْدَاثِ

نیرنگیوں سے لگاتار غموں سے اور نازل ہونے والے حادثوں سے

وَمِنْ اِنْقِضَاءِ الْمُدَّةِ قَبْلَ التَّاهِبِ وَالْعُدَّةِ

اور اس بات سے کہ تیار اور کمر بستہ ہونے سے پہلے مدت (زندگی) ختم ہو جائے

وَأَيَّاكَ أَسْتَرْشِدُ لِمَا فِيهِ الصَّلَاحُ وَالْإِصْلَاحُ

اور میں صرف تجھ ہی سے ان باتوں میں رہنمائی چاہتا ہوں جن میں بھلائی اور اصلاح احوال ہو

وَبِكَ أَسْتَعِينُ فِيمَا يَقْتَرِنُ بِهِ النَّجَاحُ وَالْإِنْجَاحُ

اور تجھ سے ان چیزوں میں مدد چاہتا ہوں جن کی بدولت نجات اور کامیابی ہو

وَأَيَّاكَ أَرْغَبُ فِي لِبَاسِ الْعَافِيَةِ وَتَمَامِهَا

اور صرف تجھ سے خواہش کرتا ہوں کہ عافیت کا لباس اور اس کی تکمیل

وَشُمُولِ السَّلَامَةِ وَدَوَامِهَا - أَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ

اور سلامتی شامل حال اور اس کا دوام عطا ہو اے پروردگار! میں

مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَحْتَرِضُ بِسُلْطَانِكَ

شیطان کے دوسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور تیسے اقتدار کی مدد سے

مِنْ جُورِ السَّلَاطِينِ فَتَقَبَّلْ مَا كَانَ مِنْ

بادشاہوں کے جور سے بچنا چاہتا ہوں میری نماز اور میرا روزہ

صَلَوَاتِي وَصَوْمِي وَاجْعَلْ غَدِي وَمَا بَعْدَهُ

جیسا بھی ہے قبول فرما اور میرا آنے والا دن اور مستقبل

أَفْضَلَ مِنْ سَاعَتِي وَيَوْمِي وَأَعِزَّنِي فِي

میرے اس لمحے اور اس دن سے بہتر بنائے اور مجھے میری قوم

عَشِيرَتِي وَقَوْمِي وَاحْفَظْنِي فِي يَقْظَتِي وَنَوْمِي

اور قبیلے میں معزز قرار دے اور مجھے سوتے جاگتے میں محفوظ رکھ

فَإِنَّ اللَّهَ خَيْرُ حَافِظًا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ

اس لیے کہے اللہ تو بہترین حفاظت کرنے والا اور تو ہی سب سے مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے

اللَّهُمَّ ارِنِي أBRَأُ إِلَيْكَ فِي يَوْمِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ

یا اللہ میں تیرے حضور آج کے دن اور آج کے بعد آنے والی

مِنَ الْأَحَادِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْإِلْحَادِ

اتواروں میں شکر اور الحاد (بے دینی) سے لا تعلق کا اظہار کرتا ہوں

وَأَخْلِصُ لَكَ دُعَائِي تَعَرُّضًا لِلْإِجَابَةِ

اور اپنی دعا کو فقط تیرے لیے مخصوص کرتا ہوں قبول ہونے کے لیے

وَأَقِيمُ عَلَى طَاعَتِكَ رَجَاءً لِلْإِثَابَةِ

اور تیری اطاعت پر ثبات قدم ہوتا ہوں ثواب کی امید میں

فَصَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِكَ الدَّاعِي إِلَى حَقِّكَ

محمد مصطفیٰ پر رحمت نازل فرما کہ آپ تیری مخلوق میں سب سے بہتر اور تیرے حق (سلام) کے داعی ہیں

وَأَعِزَّنِي بِعِزِّكَ الَّذِي لَا يُضَامُ وَأَحْفَظْنِي

اور مجھے اپنی ایسی عزت سے معزز فرما جسے ذلت سے بدلانا نہیں جاسکتا اور میری حفاظت فرما

بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَأَخْتِمْ بِالْإِنْقِطَاعِ

اپنی اس نگاہِ کرم کے ذریعے جسے غفلت نہیں ہوتی اور میرے معاملات اپنے

إِلَيْكَ أَمْرِي وَبِالْمَغْفِرَةِ عُمْرِي

حضور میں مکمل وابستگی پر اور میری زندگی مغفرت پر تمام کر

إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

یقیناً تو بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن ورحیم اللہ کے نام سے

پیر کی دُعا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُشْهَدْ أَحَدًا حِينَ فَطَرَ

ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمینیں تخلیق کرتے وقت

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا اتَّخَذَ مَعِينًا حِينَ

کسی کو گواہ نہیں بنایا اور نہ کسی کو مددگار بنایا جس وقت

بَرَأَ السَّمَاوَاتِ لَمْ يُشَارِكْ فِي الْإِلَهِيَّةِ

جہاندار پیدا کیے نہ الوہیت میں اس کا کوئی شریک

وَلَمْ يُظَاهَرْ فِي الْوَحْدَانِيَّةِ كَلَّتِ الْأَلْسُنُ

نہ وحدانیت میں کوئی پشت پناہ زبانیں اس کی

عَنْ غَايَةِ صِفَتِهِ وَالْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِهِ

صفتوں کے بیان کرنے سے اور عقولیں اس کی حقیقت معرفت پانے سے عاجز ہیں

وَتَوَاضَعَتِ الْجَبَابِرَةُ لِهَيْبَتِهِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ

اور اس کی ہیبت کے سامنے بڑے بڑے سرکش سرنگوں اور چہرے اس کے خوف سے

لِخَشْيَتِهِ وَأَنْقَادَ كُلِّ عَظِيمٍ لِعَظَمَتِهِ

بھکے ہوئے ہیں اور اس کی عظمت کی وجہ سے ہر بڑے سے بڑا فرماں بردار ہے

فَلَهُ الْحَمْدُ مُتَوَاتِرًا مُتَّسِقًا وَمُتَوَالِيًا مُسْتَوْثِقًا

پس اسی کے لیے یکے بعد دیگرے مسلسل اور لگاتار حمد ہے

وَصَلَوْتُهُ عَلَى رَسُولِهِ أَبَدًا وَسَلَامُهُ دَائِمًا سَرْمَدًا

اور اللہ کی رحمت ہو اسکے رسول پر ہمیشہ اور ہمیشہ سلام ہو آپ پر

اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ يَوْمِي هَذَا صَلاَحًا وَأَوْسَطَهُ

یا اللہ! میرے دن کا آغاز درستی اور درمیانی حصہ ناسیانی

فَلَاحًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمٍ

اور آخری حصہ رستگاری بنائے اور میں ایسے دن سے تیری پناہ طلب کرتا

أَوَّلُهُ فَزَعٌ وَأَوْسَطُهُ جَزَعٌ وَآخِرُهُ وَجَعٌ

ہوں جس کا آغاز غم درمیانی حصہ بے چینی اور آخری حصہ دکھ درد ہو

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ نَذْرٍ نَذَرْتَهُ

یا اللہ! میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں ہرمانی ہوئی نذر کے بارے میں

وَكُلِّ وَعْدٍ وَعَدْتَهُ، وَكُلِّ عَهْدٍ عَاهَدْتَهُ

اور ہر کیے ہوئے وعدے کے سلسلے میں اور ہر کیے ہوئے معاہدے کے لیے جسے

تَسَلَّمَ أَرْفَ بِهِ، وَأَسْأَلُكَ فِي مَظَالِمِ عِبَادِكَ

میں پلوراندہ کر سکا اور میں تجھ سے (معافی کا) سوال کرتا ہوں تیرے بندوں کے

عِنْدِي فَأَيُّمَا عَبْدٍ مِّنْ عِبِيدِكَ أَوْ أَمَةٍ

ساتھ جو ناروا سلوک مجھ سے ہوئے۔ تو تیرے بندوں میں سے جس بندے اور تیری کینزوں

مِنْ إِمَائِكَ كَانَتْ لَهُ قِبَلِي مَظْلَمَةٌ ظَلَمْتُهَا

میں سے جس گنیز پر میری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہو

إِيَّاهُ فِي نَفْسِهِ أَوْ فِي عَرْضِهِ أَوْ فِي مَالِهِ أَوْ فِي

اس پر یا اس کی آبرو پر یا اس کے مال پر یا

أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ أَوْ غَيْبَةً اِغْتَبْتَهُ بِهَا

اس کے گھر والوں یا اس کی اولاد پر یا میں نے اس کی غیبت کی ہو

أَوْ تَحَامُلٌ عَلَيْهِ بِمَيْلٍ أَوْ هَوًى أَوْ أَنْفَةً

یا کسی جذبے سے اس پر زبردستی کوئی الزام لگایا ہو یا غلط خواہش یا اپنی برتری

أَوْ حَمِيَّةٍ أَوْ رِيَاءٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ غَائِبًا كَانَ

یا اپنی شان یا ظاہر داری یا تعصب برتا ہو وہ غیر حاضر ہو

أَوْ شَاهِدًا وَحَيًّا كَانَ أَوْ مَيِّتًا فَقَصُرَتْ يَدِي

یا موجود ، زندہ ہو یا مردہ اب میرے ہاتھوں نے کوتاہی

وَضَاقَ وَسْعِي عَنْ رَدِّهَا إِلَيْهِ وَالتَّحَلُّلُ مِنْهُ

کی اور میری ہمت تنگی کی کہ اس کا حق اسے پس کرتا اور اس سے حق معاف کرالیتا

فَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ يَمْلِكُ الْحَاجَاتِ وَهِيَ

پس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے حاجتوں کے مختار! حاجتیں

مُسْتَجِيبَةٌ لِمَشِيَّتِهِ وَمُسْرِعَةٌ إِلَى إِرَادَتِهِ

تیری مشیت سے قبول ہوتی اور تیرے اشارے کے بعد فوراً برآتی ہیں

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) و آل محمد پر رحمت نازل فرما

وَأَنْ تُرْضِيَهُ عَنِّي بِمَا شِئْتِ

اور اس شخص کو مجھ سے رضی کرنے (جس کا حق مجھ سے ضائع ہوا ہے) جیسے تیری رضا ہو

وَتَهَبْ لِي مِنْ عِنْدِكَ رَحْمَةً لَسْتُ

اور مجھے اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما بے شک

لَا تَنْقُصُكَ الْمَغْفِرَةُ وَلَا تَضُرُّكَ الْمَوْهَبَةُ

مغفرت تیرے لیے کسی کمی اور بخشش تیرے لیے کسی نقصان کا باعث نہیں

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ - اللَّهُمَّ أَوْلِيَّيْ

اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے یا اللہ! مجھے

فِي كُلِّ يَوْمٍ اثْنَيْنِ نِعْمَتَيْنِ مِنْكَ

ہر دو شنبہ (پیر) کے دن اپنی طرف سے دو نعمتیں عطا

ثَنَتَيْنِ سَعَادَةٍ فِي أَوَّلِهِ بِطَاعَتِكَ

فرما آغاز روز میں اطاعت و عبادت کی سعادت ملے

وَنِعْمَةٍ فِي آخِرِهِ بِمَغْفِرَتِكَ يَا مَرُّ

اور آخر روز میں تیری مغفرت کا انعام اے وہ ذات

هُوَ إِلَهُهُ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ سِوَاهُ

جو اللہ ہے اور جس کے سوا گناہ کوئی نہیں بخشتا

منگل کی دُعا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ حَقُّهُ كَمَا يَسْتَحِقُّهُ

حمد صرف اللہ کے لیے ہے اور حمد اللہ کا حق ہے اس طرح کی حمد بے حساب

حَمْدًا كَثِيرًا وَّاعُوْذُ بِهِ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ

جس کا وہ حقدار ہے اور اللہ سے اپنے نفس کے شر کے بائے میں پناہ مانگتا ہوں

اِنَّ النَّفْسَ لَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ اَلَا مَا رَحِمَ رَبِّيْ

یقیناً نفس بدی پر زیادہ آمادہ کرنے والا ہے سوائے اسکے کہ میرا پروردگار رحم کھے

وَاَعُوْذُ بِهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

اور اسی کی پناہ مانگتا ہوں اس شیطان کے شر سے جو

يَزِيْدُنِيْ ذَنْبًا اِلَى ذَنْبِيْ وَاَحْتَرُّ رُبِّيْهِ مِنْ

میرے گناہ میں مجھ سے اضافہ کراتا ہے اور میں اللہ کی مدد سے بچوں گا

كُلِّ جَبَّارٍ فَاجِرٍ وَّسُلْطٰنٍ جَابِرٍ وَّعَدُوِّ قٰهِرٍ

ہر سرکش بدکار اور ظالم سلطان اور زبردست دشمن سے

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ جُنْدِكَ فَاِنَّ جُنْدَكَ هُمُ

یا اللہ! مجھے اپنے لشکر میں شمار کر کیونکہ تیرا لشکر ہی

الْغٰلِبُوْنَ وَاَجْعَلْنِيْ مِنْ حِزْبِكَ فَاِنَّ حِزْبَكَ

غالب ہے اور مجھے اپنی جماعت میں شمار کر کہ تیری جماعت ہی

هُمُ الْمَفْلِحُونَ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَايَكَ

فلاح پائے گی اور مجھے اپنے دوستوں میں شمار فرما

فَإِنَّ أَوْلِيَاكَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

کو تیرے ہی دوست وہ ہیں جنہیں نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي فَإِنَّهُ عِصْمَةٌ أَمْرِي

یا اللہ! میرے لیے میرے دین کو درست رکھنا کیونکہ وہی میری (زندگی کے عمل) محنت کا

وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي فَإِنَّهَا دَارُ مَقَرِّي

ذمہ ہے اور میری آخرت کو میرے لیے سنوار دے کہ وہ میری قیامت گاہ ہے

وَالْيَهُامِنْ مَّجَاوِرَةِ الدَّعَامِ مَفْرِي

اور ذلیلوں کی ہم نشینی (اور پڑوس) سے بھاگ کر وہیں جانا ہے

وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ

اور میری زندگی کو نیکیوں میں اضافہ کا ذریعہ

وَالْوَفَاةَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

اور موت کو ہر برائی سے بچنے کا وسیلہ بنا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَتَمَامِ

یا اللہ! آخری نبی اور تعدادِ مرسلین کو مکمل کرنے والے

عِدَّةِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور آپ کی پاک و پاکیزہ آل پر

وَأَصْحَابِهِ الْمُنْتَجِبِينَ وَهَبْ لِي فِي

اور آپ کے منتخب صحابہ پر رحمت نازل فرما اور مجھے منگل (سہ شنبہ) کے دن

الثَّلَاثَاءِ ثَلَاثًا لَا تَدْعُرُنِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ

تین انعام مرحمت فرما میرا کوئی گناہ بے مغفرت نہ چھوڑ

وَلَا غَمًّا إِلَّا أَذْهَبْتَهُ وَلَا عَدُوًّا إِلَّا دَفَعْتَهُ

اور کوئی غم ایسا نہ ہو جسے تو نے دور نہ کر دیا ہو اور کوئی دشمن ایسا نہ ہو جسے دفع نہ کر دیا ہو

بِسْمِ اللَّهِ خَيْرَ الْأَسْمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ

اس بسم اللہ کی برکت ہے جو تمام اسماء حسنیٰ میں اچھانا ہے، اس اللہ کے نام سے جو

الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ أَسْتَدْفِعُ كُلَّ مَكْرُوهٍ

زمین آسمان کا پروردگار ہے میں تجھ سے ہر اس بُرائی کو دور کر دیتی ہوں جو مجھے

أَوْلَى سَخَطُهُ وَأَسْتَجِيبُ كُلَّ مَحْبُوبٍ أَوْلَى رِضَاةٍ

آغاز میں تیرا غضب ہو اور میں ہر اس پسند بات کو حاصل کرنا چاہتا ہوں جس کے آغاز میں تیری رضا ہو

فَاخْتِمْ لِي مِنْكَ بِالْغُفْرَانِ يَا وَليَّ الْإِحْسَانِ

اپنی بارگاہ سے میرا خاتمہ بخشش سے فرما لے احسان کے والی!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

بدھ کی دُعا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْيَلَّ لِبَاسًا وَالسُّومَ

اللہ کی کاہل و محمل محمد جس نے رات کو ڈھانپنے اور نیند کو

سُبَاتًا وَجَعَلَ الْيَوْمَ نَشُورًا لَكَ الْحَمْدُ أَنْ

آرام دینے والا بنایا اور دن اُٹھنے اور چلنے پھرنے کے لیے۔ تیری حمد کہ

بَعَثْتَنِي مِنْ مَّرْقَدِيْ وَلَوْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ سَرْمَدًا

تو نے مجھے خوابگاہ سے اُٹھایا اور اگر تو چاہتا تو اس جگہ کو میرے لیے دائمی بنا دیتا

حَمْدًا اَدْوَمًا لَا يَنْقُطُ اَبَدًا وَلَا يُحْصَى لَهُ

ایسی دائمی حمد جو ابد تک ختم نہ ہو اور مخلوقات اس کی

الْخَلَائِقُ عَدَدًا اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْ خَلَقْتَ

تعداد کا شمار نہ کر کے یا اللہ! تیری حمد تو نے خلق کیا

فَسَوَّيْتَ وَقَدَّرْتَ وَقَضَيْتَ وَاَمَّتَ وَاَحْيَيْتَ

اور معتدل اندازہ فرمایا اور آخری فیصلہ کیا، موت بخشی، زندگی دی،

وَاَمْرَضْتَ وَشَفَيْتَ وَعَافَيْتَ وَاَبْلَيْتَ

بیماری اور شفا دی تندرست بھی رکھا اور مبتلا بھی کیا

وَعَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَيْتَ وَعَلَى الْمَلِكِ اِحْتَوَيْتَ

تو عرش پر غالب اور مُلک کا مالک ہے

اَدْعُوْكَ دُعَاءً مِنْ ضَعْفٍ وَسَيْلَةٍ وَاَنْقَطَعَتْ

میں تجھے اس شخص کی طرح پکار رہا ہوں جس کا سہارا کمزور، تدبیر

حِيلَتُهُ وَاَقْتَرَبَ اَجَلُهُ وَتَدَلَّانِي فِي الدُّنْيَا اَمَلُهُ

منقطع موت قریب اور دنیا میں امیدیں ختم ہو رہی ہوں

وَأَشْتَدَّتْ إِلَى رَحْمَتِكَ فَاقْتَهُ وَعَظُمَتْ

اور تیری رحمت کی ضرورت شدت سے محسوس کر رہا ہو اور اس کی غفلتوں کی

لِتَفْرِيطِهِ حَسْرَتُهُ وَكَثُرَتْ زَلَّتُهُ وَعَثْرَتُهُ

بنا پد حسرت بڑھ گئی ہو اور لغزشیں اور ٹھوکریں بڑھ گئی ہوں

وَخَلَصْتُ لِرُجُوعِهِ تَوْبَتُهُ فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

اور اس نے پورے خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ میں توبہ پیش کی اور رحمت نازل فرما محمد مصطفیٰ

خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ

خاتم النبیین (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ان کے معصوم و پاک اہل بیت پر

الطَّاهِرِينَ وَأَرْسُقْنِي شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ

اور مجھے شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

عَلَيْهِ وَالِهِ وَلَا تَحْرِمْنِي صُحْبَتَهُ إِنَّكَ أَنْتَ

نصیب فرما اور مجھے ان کی صحبت سے محروم نہ رکھنا یقیناً تو

أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ - اللَّهُمَّ اقْضِ لِي

سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے یا اللہ! بُدھ (چہار شنبہ) کے روز

فِي الْأَمْرِ بَعَاءً أَرْبَعًا اجْعَلْ قُوَّتِي فِي طَاعَتِكَ

میری چار تمنائیں پوری فرمائے تیری فرماں برداری کے لیے قوت دے

وَنَشَاطِي فِي عِبَادَتِكَ وَسَرَّ غَيْبَتِي فِي ثَوَابِكَ

تیری عبادت کے لیے اُمنگ اور (حصول) ثواب کے لیے شوق

وَزُهْدِي فِيمَا يُوجِبُ لِي الْيَمْرَ عَقَابِكَ

اور جن چیزوں سے تیرے دردناک عذاب کا سزاوار قرار پاؤں مجھے ان سے دور رکھ

إِنَّكَ لَطِيفٌ لِّمَا تَشَاءُ

یقیناً جس پر تو چاہے لطف کر سکتا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

جمرات کی دُعا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ اللَّيْلَ مُظْلِمًا بِقُدْرَتِهِ

تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اپنی قدرت سے رات کو اس کی تاریکیوں سمیت ہٹا دیا

وَجَاءَ بِالنَّهَارِ مُبْصِرًا بِرَحْمَتِهِ وَكَسَانِي ضِيَاءَهُ

اور اپنی رحمت سے نور پھیلانے والا دن لایا اور دن کی روشنی مجھ پر چھانی

وَأَتَانِي نِعْمَتُهُ اللَّهُمَّ فَكَمَا أَبْقَيْتَنِي لَهُ

اور اس کی نعمتیں مجھے دیں یا اللہ! جیسے اس دن کے لیے مجھے زندہ رکھا اسی طرح

فَأَبْقَيْتَنِي لِأَمْتَالِهِ وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ

اور دنوں کے لیے بھی مجھے برقرار رکھ اور رحمت نازل فرما نبی (برحق) محمدؐ

وَأَلِهِ وَلَا تَفْجَعْنِي فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ

اور ان کی آل پر اور مجھے اس دن اور اس کے علاوہ دوسرے شب و روز

مِنَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ بِإِسْرَتِكَ الْبِطَانِ

میں مبتلائے غم نہ کرنا کہ میں حرام اعمال کا ارتکاب کروں

وَاکْتَسَابَ الْمَآثِرِ وَأَرْزُقْنِي خَيْرَهُ وَخَيْرِمَا

اور گناہ سمیٹوں اور مجھے اس دن اور جو کچھ آج کل ہونے

فِيهِ وَخَيْرِمَا بَعْدَهُ وَأَصْرِفْ عَنِّي شَرَّهُ

والا ہے اسکی خوبیاں نصیب فرما اور آج اور آج کے بعد

وَشَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ ارِنِي

ہر شر (بُرَّانِي) سے محفوظ رکھ یا اللہ! میں تیری بارگاہ

بِذِمَّةِ الْإِسْلَامِ اتَّوَسَّلُ إِلَيْكَ وَبِحُرْمَةِ

کے لیے عہد اسلام کے وسیلہ اور حرمت قرآن

الْقُرْآنِ اعْتَمِدُ عَلَيْكَ وَبِمُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى

کے ذریعہ اعتماد اور حضرت محمد مصطفیٰ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَسْتَشْفِعُ لَدَيْكَ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تیری بارگاہ میں شفا فرما چاہتا ہوں

فَاعْرِفِ اللَّهُمَّ ذِمَّتِي الَّتِي رَجَوْتُ بِهَا قَضَاءَ

یا اللہ! میری اس ضمانت و عہد کو دیکھ لے جن کے وسیلے سے میں اپنی تمنائیں

حَاجَتِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ - اللَّهُمَّ اقْضِ لِي

پوری کرنے کی آرزو رکھتا ہوں اے ارحم الراحمین یا اللہ! جمعرات (پنجشنبہ)

فِي الْخَمِيسِ خَمْسًا لَا يَتَّسَعُ لَهَا إِلَّا كَرَمُكَ

میں میری پانچ ایسی خواہشیں پوری کر دے جو تیرے کرم کے سوا کسی کے بس کی نہیں

وَلَا يُطِيقُهَا إِلَّا نِعْمُكَ سَلَامَةً

اور تیری نعمتوں کے علاوہ انھیں کوئی برداشت نہیں کر سکتا (وہ پاؤں تمنا میں یہ ہیں)

أَقْوَىٰ بِهَا عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَعِبَادَتِكَ

صحیح و سلامتی جسکے سہارے تیری فرمانبرداری میں تقویت حاصل کروں اور عبادت

أَسْتَحِقُّ بِهَا جَزِيلَ مَثُوبَتِكَ وَسَعَةً فِي الْحَالِ

جس کی بنا پر تیرے تو اسببے حساب کا مستحق ہوں اور حلال روزی عطا کر

مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ وَأَنْ تُؤْمِنِي فِي

کے مجھے خوش حال کرنے اور مجھے اپنے امن خاص سے خوف کے

مَوَاقِفِ الْخَوْفِ بِأَمْنِكَ وَتَجْعَلَنِي مِنْ طَوَارِقِ

مقامات میں امن و سکون عطا فرما اور رنج و غم کے حملوں

الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ فِي حِصْنِكَ وَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

میں مجھے اپنے قلعہ (و پناہ) میں رکھنا اور محمد و آل محمد پر

وَأَلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ تَوْسُلِي بِهِ شَافِعًا يَوْمَ

رحمت نازل فرما اور حضور سے میرے توسل کو قیامت کے روز شفاعت

الْقِيَامَةِ نَافِعًا إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

کرنے والا بننا بے شک تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

جمعرات کی دعا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الْإِنشَاءِ وَالْإِحْيَاءِ

اس اللہ کی حمد و ثنا جو پیدا کرنے اور زندگی عطا کرنے سے پہلے

وَالْآخِرِ بَعْدَ فَنَاءِ الْأَشْيَاءِ الْعَلِيمِ الَّذِي

اور تمام چیزوں کے فنا ہونے کے بعد رہنے والا ہے وہ علیم جو

لَا يَنْسَى مِنْ ذِكْرَهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ شُكْرَاهُ

اپنے یاد رکھنے والوں کو نظر انداز اور اپنے شکر گزاروں کو (نعمتیں دینے میں) کمی نہیں کرتا

وَلَا يُخَيِّبُ مَنْ دَعَاهُ وَلَا يَقْطَعُ رَجَاءَ مَنْ

جو اسے پکارتے ہے وہ ناکام نہیں رہتا اور جو اس سے آس لگائے وہ اسے مایوس

رَجَاهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا

نہیں کرتا یا اللہ! میں تجھے گواہ کرتا ہوں اور تیرا گواہ ہونا ہی کافی ہے

وَأَشْهَدُ جَمِيعَ مَلَائِكَتِكَ وَسُكَّانِ سَمَوَاتِكَ

اور تیرے تمام ملائکہ کو اور آسمانوں کے مکینوں

وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَنْ بَعَثْتَ مِنْ أَنْبِيَائِكَ

اور حاملین عرش اور تیرے بھیجے ہوئے نبیوں

وَرُسُلِكَ وَأَنْشَأْتَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِكَ

اور رسولوں اور تیری طرح طرح کی مخلوق کو گواہ بناتا ہوں

إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ

اور گواہی دیتا ہوں کہ بلاشبہ فقط تو ہی "اللہ" ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو کیسا ہے

لَا شَرِيكَ لَكَ وَلَا عَدِيلَ وَلَا خُلْفَ لِقَوْلِكَ

تیرا کوئی شریک و جواب نہیں تیرا قول سُننے اور

وَلَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتِكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ

تیرے کلمات بدلنے والے نہیں اور بلاشبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ

عَلَيْهِ وَالْإِلَهَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدَى مَا حَمَلْتَهُ

وَسَلَّمَ تیرے بندہ خاص اور رسول ہیں جو (پیغام) تو نے بندوں کے لیے

إِلَى الْعِبَادِ وَجَاهِدَ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

ان کے حوالے کیا تھا وہ انھوں نے پہنچا دیا اور اللہ عز و جل کی راہ میں پوری

حَقَّ الْجِهَادِ وَأَنَّ بَشَرًا هُوَ حَقٌّ مِنَ الثَّوَابِ

پوری کوشش کی جو واقعی ثواب تھا اس کی بشارت دی

وَأَنْذَرَ بِمَا هُوَ صِدْقٌ مِنَ الْعِقَابِ

اور جو واقعی عذاب ہے اس سے آپ نے ڈرایا

اللَّهُمَّ شَيْئَتْنِي عَلَى دِينِكَ مَا أَحْيَيْتَنِي

پروردگارا! مجھے اپنے دین پر ثبات، استقلال، عطا فرما جب تک مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے،

وَلَا تَزِعْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي

میرے دل کو اپنی رہنمائی کے بعد گمراہ نہ ہونے دے اور مجھے اپنے

مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

خزانے سے رحمت عطا فرما بلاشبہ تو سب سے زیادہ انعام دینے والا ہے

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ

محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور آل محمد پر رحمت فرما اور مجھے آنحضرت

أَشْيَاعِهِ وَشَيْعَتِهِ وَأَحْشَرُنِي فِي زُمْرَتِهِ

کے پیروکاروں اور شیعوں میں شمار فرما اور مجھے ان کے حلقہ میں محشور فرما

وَوَفِّقْنِي لِإِدَاءِ فَرَضِ الْجُمُعَاتِ وَمَا أُوجِبَتْ

مجھے جمعہ کے فرائض اور اس دن کی واجب کردہ اطاعتوں

عَلَيَّ فِيهَا مِنَ الطَّاعَاتِ وَقَسَمْتَ لِأَهْلِهَا

کو انعام دینے اور اہل اطاعت کے لیے جو انعامات تو روزِ جزا کو

مِنَ الْعَطَاءِ فِي يَوْمِ الْجَزَاءِ إِنَّكَ أَنْتَ

تقسیم فرمائے گا انھیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما بلاشبک و شبہ تو

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

با اقتدار اور صاحبِ حکمت ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

ہفتہ کی دُعا

بِسْمِ اللَّهِ كَلِمَةَ الْمُعْتَمِدِينَ وَمَقَالَةَ الْمُتَحَرِّزِينَ

بِسْمِ اللَّهِ جو حفاظت چاہنے والوں کا تکیہ کلام اور حفاظت کے خواہشمندوں کا قول ہے

وَأَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ جَوْرِ الْجَائِرِينَ

میں اللہ کے ذریعہ پناہ مانگتا ہوں ظالموں کے ظلم،

وَكَيْدِ الْحَاسِدِينَ وَبَغْيِ الظَّالِمِينَ

حاسدوں کے مکر اور ستمگروں کی سرکشی سے

وَأَحْمَدُهُ فَوْقَ حَمْدِ الْحَامِدِينَ

میں اس معبود کی حمد کرتا ہوں (ایسی حمد) جو حمد کرنے والوں کی حمد سے بڑھ چڑھ کر ہو

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْوَاحِدُ بِلَا شَرِيكَ وَالْمَلِكُ

بارِ الْهَالِكِ تَوْحِيدًا وَلَا شَرِيكَ هِيَ تُوْحَسِي كَمَا مَالِكُ بِنَايَ

بِلَا تَمْلِيكَ لَا تُضَادُّ فِي حُكْمِكَ وَلَا تُنَازِعُ

بغير مالک ہے نہ تیرے فرمان کی مخالفت ہو سکتی ہے اور نہ تیرے مُلک

فِي مُلْكِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ

میں کوئی تیرا حریف فریق ہو سکتا ہے میں دعا کرتا ہوں تو اپنے خاص بندے اور رسول

مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَأَنْ تُؤَيِّزَ عَنِّي مِنْ

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر رحمت نازل فرما اور مجھ اپنی نعمتوں کے شکر سے

شُكْرِنَعْمَاكَ مَا تَبْلُغُ بِي غَايَةَ رِضَاكَ

میں وہ رحمت عطا فرما جو مجھے تیری انتہائے خوشنودی تک پہنچا دے

وَأَنْ تُعِينَنِي عَلَى طَاعَتِكَ وَلِزُومِ عِبَادَتِكَ

اور تیرے لطف و عنایت سے مجھے تیری اطاعت اور عبادت کا پابند

وَأَسْتَحِقُّكَ مَثُوبَتِكَ بِلُطْفِ عِنَايَتِكَ وَتَرْحَمَنِي

اور ثواب کا مستحق بنانے میں میری مدد کرے ، تو مجھ پر رحم فرما

بَصَدِّي عَنْ مَعَاصِيكَ مَا أَحْيَيْتَنِي

اور جب تک زندہ رکھنا چاہے اس وقت تک مجھے اپنی نافرمانیوں سے باز کر

وَتَوَفَّقَنِي لِمَا يَنْفَعُنِي مَا أَبْقَيْتَنِي

اور جب تک مجھے باقی رکھنا منظور ہو اس وقت تک انہی کاموں کی توفیق دے جو نفع بخش ہوں

وَأَنْ تَشْرَحَ بِكِتَابِكَ صَدْرِي وَتَحْطَبَ بِتِلَاوَتِهِ

اور اپنی کتاب کے ذریعے میرا سینہ کھول دے اور اس کی تلاوت کے ذریعے

وِنُورِي وَتَمُنِّحَنِي السَّلَامَةَ فِي دِينِي

میرے گناہوں کا بوجھ ہلکا فرمائے مجھے دین اور جان کی سلامتی مرحمت فرما

وَنَفْسِي وَلَا تَوَحِّشْ بِي أَهْلَ النَّسِي

مجھ سے محبت رکھنے والوں کو میرے اعمال کی بدولت پریشان نہ فرما

وَتَتِمَّ احْسَانُكَ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي

اور میری باقی زندگی میں تو اسی طرح اپنے احسانوں کی تکمیل فرما

كَمَا أَحْسَنْتَ فِيمَا مَضَى مِنْهُ يَا أَرْحَمَ

جیسے میری گزشتہ زندگی میں تو نے احسانات جاری رکھے اے رحم کرنے والوں میں

الرَّاحِمِينَ ط

سب سے زیادہ رحم کرنے والے!

اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے

دُعَاۃ دافع وِبا وِطَاعُون

جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص وِبا اور طاعون میں مبتلا نہ ہونا چاہے وہ روزانہ ایک مرتبہ یہ دُعا پڑھے یا اپنے ساتھ رکھے یا سات مرتبہ پڑھ کر بکری کے مُنہ میں دُم کر کے اُسے ذبح کرے اور اس کا گوشت پکا کر کھاتے یا سالن پیتے وِبا اس پر اثر نہ کرے گی اور اگر بیمار ہوگا تو اس دُعا کی برکت سے بجز خدا تندرست ہو جائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاسْمَائِكَ

یا اللہ! میں تیرے اسماءِ حسنیٰ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں

یَا مُؤْمِنُ یَا عَزِیْزُ یَا مَهِیْمُنُ یَا قَرِیْبُ

اے امان و ایمان دینے والے اے قوت کے مالک اے نگہبان اے نزدیک

خَلِّصْنَا مِنْ الْوَبَاءِ وَالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ

ہمیں وِبا اور ہلاکت اور طاعون سے نجات دے دے

یَا اللّٰهُ یَا اللّٰهُ یَا اللّٰهُ الْاِمَانُ الْاِمَانُ الْاِمَانُ

یا اللہ یا اللہ یا اللہ امان امان امان

يَا ذَا النِّعْمَةِ الْبَالِغَةِ يَا ذَا الْكِرَامَةِ الظَّاهِرَةِ

اے وسیع نعمتوں والے اے ظاہر کرامتوں والے

يَا ذَا الْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ الْقَاطِعَةِ خَلِّصْنَا مِنَ الْوَبَاءِ

اے بلیغ اور مضبوط حجت والے ہمیں وبا سے نجات دے

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ

یا اللہ یا اللہ یا اللہ امان امان امان

يَا مَلِيكَ لَا يُضَامُ يَا قِيَوْمًا لَا يُرَامُ

اے بادشاہ جسے مغلوب نہیں کیا جاسکتا اے قائم بالذات جس کے مقابل نہیں ہوا جاسکتا

يَا عَزِيزًا لَا يَنَامُ خَلِّصْنَا مِنَ الْوَبَاءِ

اے صاحب قوت جسے نیند نہیں چھو سکتی ہمیں وبا سے نجات دے

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ

یا اللہ یا اللہ یا اللہ امان امان امان

يَا دَائِمًا لَا يَزَالُ وَلَا يَزُولُ يَا عَالِمًا لَا

اے صاحب دوام جسے نہ زوال ہے نہ فنا اے صاحب علم جس سے

يَنْسَى يَا بَاقِيًا لَا يَفْنَى خَلِّصْنَا مِنَ الْوَبَاءِ

بھول نہیں ہو سکتی اے صاحب بقا جسے فنا نہیں ہمیں وبا سے نجات دے

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ

یا اللہ یا اللہ یا اللہ امان امان امان

يَا حَيًّا لَا يَمُوتُ يَا صَدًّا لَا يَطْعَمُ

اے زندہ جسے موت نہیں اے بے نیاز جو محتاج غذا نہیں

يَا غَنِيًّا لَا يَفْتَقِرُ خَلِّصْنَا مِنَ الْوَبَاءِ

اے غنی جو ضرورت مند نہیں ہمیں وبا سے نجات دے

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ

یا اللہ یا اللہ یا اللہ امان امان امان

يَا أَرْحَمَ مِنْ كُلِّ رَحِيمٍ وَيَا أَعْلَمَ مِنْ كُلِّ عَلِيمٍ

اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ مہربان اے جاننے والوں میں سب سے زیادہ عالم

وَيَا أَحْكَمَ مِنْ كُلِّ حَكِيمٍ وَيَا أَقْدَمَ مِنْ كُلِّ

اے حکمت والوں میں سب سے زیادہ دانا اے قدیم ذاتوں میں سب سے

قَدِيمٍ وَيَا أَعْظَمَ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ

قدیم اے عظمت والوں میں سب سے زیادہ عظیم

وَيَا أَكْرَمَ مِنْ كُلِّ كَرِيمٍ خَلِّصْنَا مِنَ الْوَبَاءِ

اے کرم کرنے والوں میں سب سے زیادہ کریم ہمیں وبا سے نجات دے

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ

یا اللہ یا اللہ یا اللہ امان امان امان

يَا مَنْ هُوَ فِي سُلْطَانِهِ قَوِيٌّ

اے وہ جو اپنی بادشاہی میں با اقتدار ہے

يَا مَنْ هُوَ فِي ذَاتِهِ قَدِيمٌ

لے وہ جس کی ذات قدیم ہے

يَا مَنْ هُوَ فِي عِلْمِهِ مُحِيطٌ

لے وہ جس کا علم محیط ہے

يَا مَنْ هُوَ فِي عِزَّتِهِ لَطِيفٌ

لے وہ جس کی عزت لطیف ہے

يَا مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ شَرِيفٌ يَا مَنْ هُوَ

لے وہ جس کا لطف و کرم ذی شرف ہے لے وہ

فِي مُلْكِهِ غَنِيٌّ خَلِصْنَا مِنَ الْوَبَاءِ

جو اپنی شاہی میں بے نیاز ہے ہمیں وبا سے نجات لے

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ

یا اللہ یا اللہ یا اللہ امان امان امان

يَا مَنْ هُوَ يَرْهَبُ مِنْهُ الْعَاصُونَ

لے وہ جس سے نافرمانی کرنے والے ڈرتے ہیں

يَا مَنْ هُوَ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

لے وہ جس پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں

يَا مَنْ هُوَ يَرْغَبُ إِلَيْهِ الزَّاهِدُونَ

لے وہ جس سے اہل زہد و تقویٰ رغبت کرتے ہیں

يَا مَنْ هُوَ إِلَيْهِ يَلْجَأُ الْمُضْطَّرُّونَ يَا مَنْ

لے وہ جس کی طرف مجبور پناہ ڈھونڈتے ہیں لے وہ

هُوَ إِلَيْهِ يَفْزَعُ الْمَذْنُبُونَ خَلَّصْنَا مِنَ الْوَبَاءِ

جس سے خطاکار فریاد کرتے ہیں ہمیں وبا سے نجات دے

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ

یا اللہ یا اللہ یا اللہ امان امان امان

أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا عَاصِمُ يَا قَائِمُ يَا دَائِمُ

میں تیرے نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں اے پختہ والے اے قائم اے ہمیشہ رہنے والے

يَا حَاكِمُ يَا عَفُوُّ يَا غَفُورُ يَا شَكُورُ

اے حکم دینے والے اے بخشنے والے اے مغفرت کرنے والے اے شکر کے مالک

يَا صَبُورُ يَا وَدُودُ يَا رَءُوفُ يَا عَطُوفُ

اے برداشت کرنے والے اے محبت کرنے والے اے مہربان اے توجہ دینے والے

يَا قَدُّوسُ يَا حَمِيْدُ يَا قَيُّوْمُ يَا سَمِيْعُ

اے پاک پاکیزہ اے زندگی کے مالک اے سب کے قائم رکھنے والے اے سب کچھ سننے والے

يَا بَصِيْرُ يَا سَرِيْعُ يَا رَفِيْعُ يَا شَفِيْعُ

اے سب کچھ دیکھنے والے اے بہت جلد (حاصل لینے والے) اے بلند اے بخشنے والے

يَا بَدِيْعُ يَا وَاسِعُ يَا حَفِيْظُ يَا مُغِيْثُ

اے خالق ہیشال اے وسعتوں کے مالک اے (ہر طرح سے) محفوظ اے فریاد رس

يَا مُجِيبِي يَا مُهِمَّتِي يَا خَالِقَ النُّورِ يَا نُورًا

اے زندگی دینے والے اے موت دینے والے اے نور کے خالق اے ہر نور

قَبْلَ كُلِّ نُورٍ يَا نُورًا بَعْدَ كُلِّ نُورٍ

سے پہلے موجود نور اے ہر نور کے بعد موجود نور

يَا نُورًا مَعَ كُلِّ نُورٍ خَلِّصْنَا مِنَ الْوَبَاءِ

اے ہر نور کے ساتھ موجود نور ہمیں وبا سے نجات دے

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ

یا اللہ یا اللہ یا اللہ امان امان امان

يَا مَنْ هُوَ قَوْلُهُ فَصْلٌ يَا مَنْ هُوَ ذِكْرُهُ حُلُوٌّ

اے وہ جس کا قول حقیقی اے وہ جس کا ذکر شیریں

يَا مَنْ هُوَ اسْمُهُ لَذِيذٌ يَا مَنْ هُوَ فِي مَلِكِهِ

اے وہ جس کا نام لذت والا اے وہ جو اقتدار میں

قَدِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِعْلُهُ لَطِيفٌ

قدیم اے وہ جس کا ہر کام لطیف

يَا مَنْ هُوَ عَطَاءُهُ شَرِيفٌ يَا مَنْ هُوَ فِي أَمْرِهِ حَكِيمٌ

اے وہ جس کی ہر عطا ذی شرف اے وہ جو اپنی ہر بات میں دانا

يَا مَنْ هُوَ عَذَابُهُ عَدْلٌ خَلِّصْنَا مِنَ الْوَبَاءِ

اے وہ جس کا عذاب عین عدل ہے ہمیں وبا سے نجات دے

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ

یا اللہ یا اللہ یا اللہ امان امان امان

يَا مَنْ هُوَ فِي الْقِيَمَةِ حَكَمَتُهُ

اے وہ کہ قیامت میں اس کی حکمت

يَا مَنْ هُوَ فِي الْعُقُوبَةِ عَدْلُهُ

اے وہ کہ سزا میں اس کا عدل

يَا مَنْ هُوَ فِي السَّارِعِ عَذَابُهُ يَا مَنْ هُوَ

اے وہ کہ جہنم میں اس کا عذاب اے وہ کہ

فِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ خَلِّصْنَا مِنَ الْوَبَاءِ

جنت میں اس کی رحمت ہے ہمیں وبا سے نجات دے

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ الْأَمَانُ

یا اللہ یا اللہ یا اللہ امان امان امان

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ

یا اللہ میری تجھ سے دعا ہے اے پہلے سے پہلے

وَيَا آخِرَ الْآخِرِينَ وَيَا مَنْ هُوَ أَرْحَمُ

اے ہر آخر سے آخر اے وہ کہ ہر رحم کرنے والے سے

الرَّاحِمِينَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ

بڑا رحم کرنے والا ہے میں تجھ سے ان ناموں (کی برکت اور ان) کے وسیلے سے مانگا ہوں

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور آل محمد پر رحمت فرما

يَا مَنْ هُوَ أَنْتَ الَّذِي نَجَّيْتَ إِبْرَاهِيمَ

لے وہ ذات کہ تو نے ہی ابراہیم علیہ السلام کو

مِنْ نَارِ نَمْرُودَ وَجَعَلْتَهَا بَرْدًا وَسَلَامًا

نارِ نمرود سے بچایا اور اس آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا

يَا مَنْ هُوَ أَنْتَ الَّذِي كَشَفْتَ الضَّرْعَ عَنْ أَيُّوبَ

لے وہ ذات کہ تو نے ہی ایوب علیہ السلام سے ہر ڈھک دور کر دیا

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ

اور ہم (خدا) نے انھیں (ایوب) کو گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور دیے

رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَى لِلْعَابِدِينَ

یہ ہماری طرف سے رحمت تھی اور عبادت گزاروں کے لیے یاد دہانی

يَا مَنْ هُوَ أَنْتَ الَّذِي نَجَّيْتَ يُونُسَ فِي

لے وہ ذات کہ تو نے ہی یونس علیہ السلام کو پھسلی کے پیٹ

بَطْنِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى رَبَّهُ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ

سے نجات دی جب انھوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ

تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری ذات پاک ہے میں ہی

مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ

ظالموں میں سے تھا ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے

مِنَ الغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۝

نجات دی اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں

يَا مَنْ هُوَ أَنْتَ الَّذِي سَمِعْتَ نِدَاءَ زَكَرِيَّا

اے وہ کہ تو نے ہی زکریا علیہ السلام کی صدا سنی

وَوَهَبْتَ لَهُ فِي الْكِبَرِ غُلَامًا زَكِيًّا

اور انھیں بڑھاپے میں پاک فرزند عطا کیا

يَا مَنْ هُوَ أَنْتَ الَّذِي مَنَنْتَ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ

اے وہ کہ تو نے ہی موسیٰ و ہارون علیہما السلام پر احسان فرمایا

وَنَجَّاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ

اور ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑے کرب سے نجات دی

يَا مَنْ هُوَ أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ يُوسُفَ مِنَ الْجُبِّ

اے وہ کہ تو نے ہی یوسف علیہ السلام کو اٹھ کنوئیں اور قید

وَالسِّجْنِ يَا مَنْ هُوَ أَنْتَ الَّذِي رَدَدْتَّ يَعْقُوبَ بِصَرَّةٍ

سے نجات دی اے وہ کہ تو نے ہی یعقوب علیہ السلام کو دوبارہ بینائی عطا کی

بَعْدَ أَنْ ابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ

جب کہ ان کی آنکھیں (گھری غم سے) بے نور ہو گئی تھیں اور وہ بڑے صابر تھے

يَا مَنْ هُوَ أَنْتَ الَّذِي تُنَجِّينَا مِنَ الْوَبَاءِ وَالطَّاعُونِ

لے وہ کہ تو ہی ہمیں نجات دینے والا ہے وبا ، طاعون

وَإِفَاتِ الدُّنْيَا وَتُجِيرُنَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

اور دنیا کی آفتوں سے اور ہمیں عذابِ قبر سے بچانے والا ہے

وَتُنْقِذُنَا مِنْ هَوْلِ الْقِيَامَةِ

اور ہمیں قیامت کے خوف سے چھٹکارا

وَتُسَلِّمُنَا مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَتُدْخِلُنَا الْجَنَّةَ

اور جہنم کے عذاب سے بچاؤ دینے والا ہے اور ہمیں جنت میں داخل کرنے والا ہے

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْقَادِرُ وَأَنَا الْمَقْدُورُ

یا اللہ! تو صاحبِ قدرت ہے اور میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں

وَأَنْتَ الْقَوِيُّ وَأَنَا الضَّعِيفُ وَأَنْتَ الْغَنِيُّ

تو قوی ہے اور میں ناتواں تو غنی ہے

وَأَنَا الْفَقِيرُ وَأَنْتَ الْغَفُورُ وَأَنَا الْخَاطِئُ

اور میں فقیر تو بخشنے والا ہے اور میں خطا کار

وَأَنْتَ الْمُعْطِيُّ وَأَنَا السَّائِلُ وَأَنْتَ الْبَاعِثُ

تو عطا کرنے والا ہے اور میں مانگنے والا ، تو اٹھانے والا ہے

وَأَنَا الْمَبْعُوثُ وَأَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

اور میں اٹھنے والا تو وہ زندہ ہے جسے موت چھو نہیں سکتی

وَأَنَا عَبْدٌ سَوْفَ أَمُوتُ أَجْرُنِي مِنَ التَّارِ

اور میں وہ بندہ ہوں کہ بہت جلد مر جاؤں گا مجھے جہنم سے پناہ دے

وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اور جنت میں داخل کر تجھے اپنی رحمت کا واسطہ لے ارحم الراحمین

اللَّهُمَّ اسْرِزُقْنِي النَّظَرَ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ

یا اللہ! قیامت کے دن مجھے اپنی قدرت نمائی کے دیکھنے کی توفیق دے

فِي الْآخِرَةِ بِكَرَمِكَ وَأَصْرِفْ عَنَّا الْوَبَاءَ

تجھے اپنے کرم کا صدقہ اور ہم سب سے دنیا میں وبا اور

وَالطَّاعُونَ فِي الدُّنْيَا بِفَضْلِكَ وَأَغْفِرْ لَنَا

اچانک موت اور طاعون کو دور کر دے تجھے اپنے فضل کا صدقہ ہمیں بخش دے

وَالْأَبَائِنَا وَالْأُمَّهَاتِنَا وَالْأَوْلَادِنَا وَالْأَزْوَاجِنَا

ہماری آباؤ اجداد اور ہماری بزرگوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری بیویوں کو

وَذُرِّيَّاتِنَا وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

ہماری ذریت کو اور تمام مومنین اور مومنات کو

عَامَّةً لَأَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِالْإِجَابَةِ

بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور قبولِ دعا کا تو ہی

جَدِيرٌ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

مالکؑ تجھے اپنی رحمت کا واسطہ لے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے

اللَّهُمَّ سَكِّنْ هَيْبَةَ صَدْمَةِ قَهْرِمَانَ الْجَبْرُوتِ

یا اللہ! جبروتی قوت کے صدمے کی ہیبت کو

بِاللطِيفَةِ النَّازِلَةِ الْوَارِدَةِ مِنْ فَيْضَانِ الْمَلَكُوتِ

اپنے ملکوتی احسان سے نازل ہونے والے لطف کے ذریعے سکون عطا فرما

حَتَّىٰ أَتَشَبَّثَ بِهِ بِأَذْيَالِ لُطْفِكَ

تا کہ میں تیرے دامن لطف سے وابستہ ہو سکوں

وَأَعْتَصِمَ بِكَ عَنْ أَنْزَالِ قَهْرِكَ

اور تیرے قہر و جلال کے نزول کے وقت تجھ سے پناہ لے سکوں

يَا ذَا الْقُوَّةِ الْكَامِلَةِ وَيَا ذَا الْقُدْرَةِ الشَّامِلَةِ

اے کامل قدرت کے مالک اے عام قدرت کے مالک

يَا حَفِيفُ يَا حَفِيفُ احْفَظْنَا فِي حِفْظِكَ وَ

اے حفاظت کرنے والے اے نگہداشت کرنے والے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ اور اپنی عنایت سے

عِنَايَتِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

حفاظت عنایت کر تجھے اپنی رحمت کا واسطہ لے ارحم الراحمین!

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا كَرِيمُ

اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے رحمن و رحیم و کریم!

يَا خَفِيَّ الْأَلْطَافِ نَجِّنَا مِمَّا نَحْذَرُ وَنَخَافُ

اے مخفی طور احسان کرنے والے ہم جن باتوں سے خوف و ہراس میں ہیں

بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَإِحْسَانِكَ

ان سے اپنے فضل، سخاوت، کرم، احسان اور

وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

رحمت کے صدقے نجات دے لے ارحم الراحمین

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ

اور رحمت نازل فرمائی اللہ نے محمدؐ اور آپؑ کی تمام آل پر

دُعا بعد از نمازِ صبح

یہ مجرب اور عظیم الشان دُعا نمازِ صبح کے بعد کچھ بولے بغیر
صبحِ اعراب اور صبحِ قرأت کے ساتھ سات مرتبہ پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن ورحیم اللہ کے نام سے

اللَّهُمَّ سَخِّرْ لِي أَعْدَائِي كَمَا سَخَّرْتَ

یا اللہ! میرے دشمنوں کو میرے لیے مستخر کر دے جیسے

الرِّيحَ لِسُلَيْمَانَ ابْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

حضرت سلیمان بن داؤد علیہما السلام کے لیے ہوا کو مستخر کیا تھا

وَلِيَنَّهُمْ لِي كَمَا لَيِّنْتَ الْحَدِيدَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور انھیں میرے لیے یوں نرم کر دے جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا

وَذَلَّلْهُمُّ لِي كَمَا ذَلَّلْتَ فِرْعَوْنَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

اور انہیں یوں عاجز کر دے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کو عاجز کر دیا تھا

وَقَهِّرْهُمْ لِي كَمَا قَهَّرْتَ أَبَا جَهْلٍ

اور انہیں یوں کچل دے جیسے تو نے ابو جہل کو کچل دیا تھا

لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَا جَاءَ فِي

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں

بِحَقِّ كَهْلِي عَصَ حَمِيسَاقِ

تجھے واسطے ہے ”کاف ہایاع ص“ حامیم ع س ق“ کا

وَبِحَقِّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

تجھے واسطے ہے ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ کا

صَمُّ بَكْمُ عُمِي فَمَهْمٌ لَا يَبْصُرُونَ

بہرے، گونگے، اندھے تو وہ لوگ دیکھ نہیں سکتے

صَمُّ بَكْمُ عُمِي فَمَهْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

بہرے، گونگے، اندھے وہ لوگ عقل نہیں رکھتے

صَمُّ بَكْمُ عُمِي فَمَهْمٌ لَا يَتَكَلَّمُونَ

بہرے، گونگے، اندھے وہ لوگ بول نہیں سکتے

صَمُّ بَكْمُ عُمِي فَمَهْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

بہرے، گونگے، اندھے وہ لوگ جان نہیں سکتے

صَوَّبْكُمْ عَمِي فَمَهْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

بہرے ، گوئے ، اندھے وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمَنْ

اور ہم نے ان کے سامنے دیوار اور ان کے

خَلْفَهُمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

پیچھے دیوار کھڑی کر دی ہے ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے اب وہ دیکھ نہیں سکیں گے

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ الطَّاهِرِينَ

اور اللہ نے رحمت نازل فرمائی محمد اور ان کی پاک اولاد پر

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

کوئی قوت و طاقت بلند و عظیم اللہ کے سوا ہے ہی نہیں

بعد از نماز صبح یہ دعا کچھ بولے بغیر پڑھی جائے۔
شرط یہ ہے کہ صبح صحیح مخرج سے ادا کریں۔

ایک مختصر دعا

رَبِّ اِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ

پروردگار! میں شکست خوردہ ہوں میری مدد فرما

یہ دعا نماز صبح کے بعد تسو مرتبہ پڑھے۔ شرط یہ ہے کہ
صُض کو صحیح مخرج سے ادا کرے۔

ایک اور دعا

أَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں بیشک اللہ اپنے بندوں کو نگاہ میں رکھتا ہے

نماز اول ماہ

روایت ہے پہلی تاریخ ہر ماہ کی دو رکعت نماز پڑھے۔ رکعت
 اول میں بعد الحمد کے تیس بار سورۃ توحید اور دوسری رکعت میں بعد الحمد
 تیس بار سورۃ القدر پڑھے۔ بعد کچھ صدقہ دے۔ ان شاء اللہ اس ماہ میں
 سلامتی رہے گی اور جمیع آفات سے محفوظ رہے گا۔ بعد نمازیہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَمَا مِنْ ذَابْتِی

اللہ رحمن و رحیم کے نام سے زمین میں کوئی ایسا چلنے

فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ سَازِقْهَا وَیَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا

والا نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے جو اس کے ٹھہرنے

وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِیْ كِتَابٍ مُّبِیْنٍ

اور تیمم (کئی مدت) کو جانتا ہے جو سب کتابِ مبین میں ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَاِنْ یَّمْسَسْکَ

اللہ رحمن و رحیم کے نام سے اور اگر اللہ تجھے

اللّٰهُ بِضُرْفٍ لَا کَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ وَاِنْ یُرِدْکَ

ضرر پہ پہنچائے تو اسے مٹانے والا کوئی نہیں سوائے اسی کے اور اگر وہ تیرے

بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ بِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ

لیے بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کا رد کرنے والا کوئی نہیں اس کے فضل سے اس کے بندوں

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

کے پہنچتا ہے جو وہ چاہے وہ غفور رحیم ہے

بِسُؤَالِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ

اللہ رحمن و رحیم کے نام سے عنقریب اللہ تعالیٰ

بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

مشکل آسان کرنے کا جو اللہ کی منشاء ہو اللہ کے سوا کسی میں قوت نہیں

حُسْبِنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَأَفْوُضُ أَمْرِي

ہمیں اللہ کافی ہے جو بہترین کار ساز ہے میں اپنا معاملہ

إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِصِيرَتِنَا عِبَادٍ لَإِلَهِ إِلَّا

اللہ کو سونپتا ہوں بیشک اللہ بندوں کا خوب دیکھنے والا ہے کوئی معبود نہیں سوائے

أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ط

تیرے تو پاک ہے میں ہی ظالموں (گنہگاروں) میں سے ہوں

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ط

اے پروردگار تو نے جو کچھ بھلائی مجھ پر نازل کی اس کا میں محتاج تھا

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ط

اے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو سب سے بہتر مالک ہے

دعا قبولیت نماز

إِلٰهِهِ هٰذِهِ صَلَاتِيْ صَلَّيْتُهَا لِإِحَاجَةٍ

خدا یا یہ نماز جسے میں نے پڑھا ہے یہ نہ تو اس وجہ سے ہے کہ

مِّنْكَ إِلَيْهَا وَلَا سَاعِبَةٍ مِّنْكَ فِيهَا إِلَّا

تجھے اس کی جانب احتیاج ہے نہ اس بنا پر کہ اسکی طرف تجھ کو رغبت ہے بلکہ

تَعْظِيمًا وَطَاعَةً وَإِجَابَةً لِّكَ إِلَى مَا

تیری تعظیم و فرماں برداری اور تیرے حکم کی تعمیل میں بجا لایا

أَمَرْتَنِيْ بِهِ . إِلٰهِهِ إِنْ كَانَ فِيهَا خَلَلٌ أَوْ

ہوں اے میرے مالک اگر اس میں کچھ پھوٹ رہا ہو یا

نَقْصٌ مِّنْ نِّيَّتِهَا أَوْ قِيَامِهَا أَوْ قِرَآئَتِهَا

کمی ہو نیت ، قیام ، سورتوں کے پڑھنے

أَوْ سُرُكُوعِهَا أَوْ سُجُودِهَا فَلَا تُؤَاخِذْنِيْ

اور رکوع اور سجدوں میں تو اے میرے مالک اس پر مجھ پر عتاب نہ کرنا

وَتَفْضَلْ عَلَيَّ بِالْقَبُولِ وَالْغُفْرَانِ

قبول فرما کر اور بخشش فرما کر مجھ پر اپنا فضل اور

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

اپنی رحمت فرمانا اے سب سے بڑے رحم کرنے والے

دُعَاے بَعْدِ اَزْ نَمَازِ

یہ دُعا مشکلات کے وقت ایک ہفتہ تک روزانہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

اَللّٰهُمَّ بِحَقِّ الْخُمْسَةِ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِكَ

یا اللہ تیخ تن پاک کے حق کا واسطہ محمدؐ تیرے رسول

وَعَلِيٍّ وَصِيِّ رَسُوْلِكَ وَفَاطِمَةَ بِنْتِ رَّسُوْلِكَ

علیؑ تیرے رسول کے وصی فاطمہؑ تیرے رسول کی صاحبزادی

وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سِبْطَيْ رَسُوْلِكَ

اور حسن و حسین علیہما السلام تیرے رسول کے نواسے

وَبِعِزَّةِ جَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ

اور تیری ذاتِ کریم کی جلالت و عزت کا صدقہ

اَسْأَلُكَ اَنْ تُصَلِّيَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

میری درخواست ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) و آل محمد پر رحمت فرما

وَّ اَنْ تَجْعَلَ لِيْ مِمَّا اَنَا فِيْهِ فَرْجًا وَّ مَخْرَجًا

اور جس حالت میں گرفتار ہوں مجھے اس سے نکال کر نجات دے

بِرَحْمَتِكَ الَّتِي لَا تَضِيقُ مِنْ شَيْءٍ

تجھے تیری اس رحمت کا واسطہ جو کسی چیز سے کم نہیں ہوتی

وَبِقُدْرَتِكَ الَّتِي لَا يَتَلَكَّأُ مِنْ إِجَابَتِهَا شَيْءٌ

اور تیری اس قدرت کا واسطہ جسے زمین و آسمان کی کوئی چیز

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تَيْنِ مَرْتَبَةٍ كَيْ

رُوک نہیں سکتی

تَضَاعَتْ قِي يَنْفَرِجُ

”میری پریشانی دُور ہو جائے گی“

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے روایت ہے جو شخص روزانہ یہ دُعا

دُعائے ہزارہ

پڑھے گویا اس نے ہزار قرآن پڑھے ، ہزار حج کئے ، ہزار عمرے ادا کئے ، ہزار
بھوکوں کو کھانا کھلایا ، ہزار شہیدوں پر نماز جنازہ پڑھی ، ہزار غلاموں کو آزاد کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

فَاكْفِنَا يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا كَافِرَ

ہمارے لیے کافی ہو جا لے حاجتوں کو پورا کرنے والے لے بڑے بڑے اہم کاموں

الْمُهْمَمَاتِ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

میں مکمل مدد کرنے والے بیشک تو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے

دُعَاةُ اسْتِغْفَارٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن ورحیم اللہ کے نام سے

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

اللہ سے توبہ ، اللہ توبہ ، اس اللہ سے توبہ و مغفرت کی تمنا کرتا ہوں

الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ

جس کے سوا کوئی معبود نہیں ، وہ حقیقی و قیوم ہے

وَاَتُوْبُ اِلَی اللّٰهِ مِنْ جَمِیْعٍ مَا كَرِهَ اللّٰهُ

اور میں اس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ہر اس چیز سے جسے اللہ نے ناپسند فرمایا

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُكَ لِمَا قَدَّمْتُ وَمَا

یا اللہ! میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اس کے لئے جو میں پہلے کر چکا ، جسے

اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَفْتُ وَمَا اَنْتَ

چھپایا ، جسے بتایا ، جو زیادتی کی اور جسے تو

اَعْلَمَ بِهٖ مِنِّیْ وَاَنْتَ الْمَقْدِیْمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ

مجھ سے زیادہ جانتے والا ہے اور تو ہی آگے بڑھانے والا اور پیچھے ہٹانے والا ہے

وَاَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ

اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ تَبْتُ إِلَيْكَ

یا اللہ! میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں ہر اس گناہ کے لیے جس سے میں نے تیرے

منہ تڑپا اور تیرے لیے تیرے سے مغفرت مانگتا ہوں ہر اس عمل کی

مغفرت مانگتا ہوں ہر اس عمل کی

وَجْهَكَ فَخَالَطَهُ بِمَا لَيْسَ لَكَ فِيهِ رِضًا

جو کیا تھا تیری ذات کے لیے مگر اس میں ایسی نیت ملا دی جو تیری رضا کے خلاف تھی

وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا وَعَدْتِكَ بِهِ مِنْ نَفْسِي

اور میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اس عمل کے لیے جس کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا

فَأَخْلَفْتُكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا دَعَانِي إِلَيْهِ الْهَوَىٰ

پھر اُسے پورا نہ کر سکا اور میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں ان کاموں کے بدلے میں جن کی طرف

مِنْ قَبُولِ الرُّخْصِ مِمَّا اشْتَبَهَ عَلَيَّ وَهُوَ

میری غلط خواہشوں نے بلایا اور میں نے مشتبہ اجازتوں کو قبول کر لیا حالانکہ وہ عمل

عِنْدَكَ حَرَامٌ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنَ النَّعَمِ الَّتِي

تیری طرف سے حرام ہو چکا تھا اور میں تجھ سے تیری ان نعمتوں کے سلسلے میں مغفرت کا طلبگار ہوں

أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ فَتَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَيَّ مَعَاصِيكَ

جو تو نے مجھے عطا کیں اور میں نے تیری نافرمانی کے لیے ان سے قوت حاصل کی

وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي لَمْ يَعْرِفْهَا

اور میں تجھ سے ان گناہوں کے لیے مغفرت کی درخواست کرتا ہوں جنہیں تیرے سوا کوئی

غَيْرِكَ وَلَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهَا سِوَاكَ وَلَا يَسْعُهَا

نہیں جانتا نہ تیرے سوا کسی اور کو ان کی خبیثت اور تیری درگزر کے علاوہ کسی میں

إِلَّا حِلْمُكَ وَلَا يُنْجِي مِنْهَا إِلَّا عَفْوُكَ

انہیں نظر انداز کرنے کی گنجائش نہیں اور تیری معافی کے سوا ان سے نجات کی کوئی صورت نہیں

وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ أَيْمَانٍ سَلَفَتْ مِنِّي

اور میں ہر اس گزشتہ قسم کے لیے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں

فَحَنَنْتُ فِيهَا عِنْدَكَ وَأَنَا مَا خُوذُ بِهَا

جسے میں نے توڑا اور میں اس کے بارے میں تیرے سامنے جواب دہ ہوں

وَأَسْتَغْفِرُكَ لِأَلَّهِ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ

اور میں ہر کام کے لیے مغفرت چاہتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَأَسْتَغْفِرُكَ

میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا میں تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں

يَا عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مِنْ كُلِّ سُوءٍ

اے حاضر و غائب سے باخبر خدا (میں معافی مانگتا ہوں) ہر اس جُورے

عَمِلْتُهُ فِي بَيَاضِ النَّهَارِ وَسَوَادِ اللَّيْلِ

عملی جو میں دن کی روشنی میں کیا یا رات کے اندھیرے میں

وَفِي مَلَأٍ وَخَلَاءٍ وَسِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ

بر ملاک یا علیحدگی میں خفیہ کیا یا علی الاعلان

وَأَنْتَ نَازِرٌ عَلَيَّ إِذَا رَتَبْتَهُ وَأَتَيْتَ بِهِ

ہر حالت میں تو مجھے دیکھ رہا تھا جس وقت بھی میں جُرا عمل اور نافرمانی

مِنَ الْعُصِيَانِ يَا حَلِيمٌ يَا رَحِيمٌ يَا كَرِيمٌ

کی بات کر رہا تھا اے بردبار اے بہت رحم کرنے والے اے بڑی عزت والے

وَأَسْتَغْفِرُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ

میں ہر کام کے لیے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَأَسْتَغْفِرُكَ

میں ہی ظالموں میں سے تھا اور میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں

لِكُلِّ فَرِيضَةٍ أَوْجَبْتَ عَلَيَّ فِي أَنْاءِ اللَّيْلِ

ہر اس کام کے لیے جو تو نے رات اور دن کے مختلف حصوں میں مجھ پر

وَأَطْرَافِ النَّهَارِ فَتَرَكْتُهَا عَمْدًا أَوْ خَطَاءً

واجب کیا تھا مگر میں نے اس کو چھوڑ دیا جان بوجھ کر یا غلطی سے

أَوْ نِسْيَانًا وَأَنَا مَسْئُولٌ بِهَا

یا بھول کر، میں ہر حال اس کا جواب دہ ہوں

وَأَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ سُنَّةٍ مِّنْ سُنَنِ

اور میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں ہر اس سنت

سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں

تَرَكْتَهَا غَفْلَةً أَوْ سَهْوًا أَوْ تَهَاوُنًا أَوْ جَهْلًا

جسے میں نے غفلت، بھول چوک، سہل انگاری یا جہالت

أَوْ قِلَّةِ مَبَالِغٍ بِهَا وَأَنَا مُعَاقِبٌ بِهَا

یا بے پردالی سے چھوڑ دیا ہو اور اس جرم پر سزا کا مستحق ہوں

وَاسْتَغْفِرُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ

اور میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ایک ہے

لَا شَرِيكَ لَكَ سُبْحَانَكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

تیرا کوئی شریک نہیں تمام جہانوں کے پروردگار تو پاک و پاکیزہ ہے

لَكَ الْمُلْكُ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ حَسْبُنَا

مُلْكُ تَيْمِي لِي، حمد تیرے لیے ہے تو ہمارے لیے کافی ہے

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ

اللَّهُ هَمَّائِي لِي كَافِي هُوَ أَوْ بَهْت هُوَ اِجْحَا كَار سَا ز هُوَ . بَهْت اِجْحَا مَوْلَى أَوْ بَهْت اِجْحَا

النَّصِيرُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا

مَدَد گَار هُوَ أَوْ اللّٰهُ هَمَّائِي لِي سَرَّار أَوْ رَنْبِي مُحَمَّدٌ أَوْ رَان كِي سَبَّ آلٌ بِر

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ بَعْدَ دَمْنٍ

ان لوگوں کی تعداد کے مطابق رحمت نازل کرے جن پر اس نے

صَلَّى عَلَيْهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

رحمت نازل کی اپنی رحمت سے لے کر کم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے

دُعائے دافع اعداء و حلالِ مہمات

مقاتل بن سلیمان نے امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جو شخص سو مرتبہ یہ دُعا پڑھے جو مشکل بھی ہو وہ آسان ہو جائے گی اور دشمن بھی دفع ہو جائے گا۔ دُعائے مبارک یہ ہے :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

اَللّٰهُمَّ كَيْفَ اَدْعُوكَ وَاَنَا اَنَا

میرے اللہ تجھے کیسے پکاروں کہ میں میں ہوں (ایک بندۂ عاقل)

وَكَيْفَ اَقْطَعُ رَجَائِيْ مِنْكَ وَاَنْتَ اَنْتَ

اور تجھ سے کیسے نا امید ہو جاؤں کہ تو تو ہے (اک ذاتِ کریم)

اَللّٰهُمَّ اِذَا لَمْ اَسْأَلْكَ فَتُعْطِنِيْ

میرے معبود! جب میں تجھ سے سوال نہیں بھی کرتا تو تیری طرف سے عطا ہوتی ہے

فَمَنْ ذَا الَّذِيْ اَسْأَلُهُ فَيُعْطِنِيْ

تو اب اور کون ایسا ہے جس سے میں سوال کروں کہ وہ عطا کرے

اَللّٰهُمَّ اِذَا لَمْ اَدْعُكَ فَتَسْتَجِیْبْ لِيْ

میرے معبود! جب میں تجھ سے دعائیں بھی کرتا جب بھی تو دل ہی تمنا پوری کر دیتا ہے

فَمَنْ ذَا الَّذِي أَدْعُوهُ فَيَسْتَجِيبُ لِي

پھر اب کسے پکاروں کہ وہ دعا قبول کرے

إِلٰهِ ۚ إِذَا لَمْ أَتَضَرَّعْ إِلَيْكَ فَتَرْحَمْنِي

میرے معبود! جب میں تیرے آگے عاجزی سے نہیں گر کر آتا تب بھی تو مجھ پر رحم فرماتا ہے

فَمَنْ ذَا الَّذِي أَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ فَيَرْحَمْنِي

پھر اب میں کس کے آگے گر کر آؤں کہ وہ مجھ پر ترس کھائے

إِلٰهِ ۚ كَمَا فَلَقْتُ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ

میرے اللہ! جس طرح تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں

السَّلَامُ وَنَجَّيْتَهُ مِنَ الْغَرَقِ أَسْأَلُكَ

راستے بنائے اور انھیں ڈوبنے سے بچایا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

کہ محمد و آل محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر رحمت نازل فرما

وَأَنْ تُنَجِّبَنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ (اپنا مدعا دل میں لائے)

اور مجھے موجودہ مشکل سے نجات عطا فرما

وَتُفَرِّجَ عَنِّي فَرَجًا عَاجِلًا غَيْرَ أَجَلٍ

مجھے جلد از جلد کشائش دے، دیر نہ ہو

بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

تجھے تیرے فضل و کرم کا واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَاقْضِ

مجھے تیری رحمت کا واسطہ لے ارحم الراحمین

(مدعا ظاہر کرے) لِيُحَاجَتِي يَا رَبِّ

میری یہ حاجت پوری فرما لے میرے پروردگار

وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

اور رحمت نازل فرما محمد و آل محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر

دُعَايَةُ فَتْحٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

لَا تُفْتَحْ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ قَالَ رَبِّ

ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اس نے کہا میرے رب!

إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ

میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا اب میرے اور ان کے درمیان پوری طرح

فَتَحًا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا

فتحیابی ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں غیب کی کنجیاں ہیں جسے اللہ کے سوا کوئی

إِلَّا هُوَ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ

نہیں جانتا اگر تم فتح طلب کرتے ہو تو فتح آگئی

الْفَتْحُ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ۝

اور اگر ہم ان پر آسمان کے دروازے کھول دیں

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ

ہمارے پروردگار! ہماری قوم اور ہمارے معاملے میں حق کو فتح دے اور تو

خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ

بہترین فتح عطا کرنے والا ہے یہاں تک کہ جب یا جوج

وَمَا جُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝

اور ماجوج کھول دیے گئے اور وہ ہر اونچائی سے پھسلنے لگے

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْفَتْحُ ۝ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ

اور وہ کہتے ہیں یہ فتح کب ملے گی اللہ جو بھی رحمت

لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ ۝ جَدَّتِ عَدْنٌ مُّفْتِحَةً

لوگوں کو دے دے عدن کے باغات جن کے

لِلَّهِمُ الْأَبْوَابُ ۝ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ

دروازے انکے لیے کھلے ہوں گے حتیٰ کہ جب اس تک پہنچے اور اس کے

أَبْوَابُهَا ۝ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝

دروازے کھول دیے گئے ہم نے تمہیں فتح مبین (کھلی فتح) عطا کی

فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۝

پھر اس نے اس کے علاوہ زمانہ قریب میں (بھی تمہارے لیے) فتح مقدر کی

فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ۝

ہم نے موسلا دھار پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے

نَصْرٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۖ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

اللہ کی طرف سے مدد اور فوری فتح اور مومنوں کو بشارت دے دو

اللَّهُمَّ حَبِّبْ لِي بَنِي آدَمَ وَبَنَاتِ حَوَّاءَ أَسْمَعُ

یا اللہ! مجھے فرزدان آدم و دختران حوا کا محبوب بنا دے میں ان کو

لَهُمْ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّسَا رَأْسَهُ

سنوں اور اس نے (یوسفؑ کو) کہا ان عورتوں کے سامنے آؤ۔ عورتوں نے اسے دیکھا

أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ

تو اس کی بڑائی بیان کرنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور کہنے لگیں حاشا للہ

لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝

یہ انسان نہیں (ہو سکتا) یہ تو ضرور کوئی معزز فرشتہ ہے

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

بیشک یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بیشک یہ رحمن و رحیم اللہ کے نام

الرَّحِيمِ ۝ أَنْ لَا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ۝

سے ہے مجھ سے سرکشی نہ کرو اور فرماں برداری سے پیش آؤ

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۝ زَيْنَ لِلنَّاسِ

اور یقیناً وہ اچھائی کو پسند کرنے میں سخت ہے لوگوں کو فریفتہ کیا ہے

حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَّسَاءِ وَالْبَنِينَ

مردوب چیزوں کی محبت نے جیسے عورتیں اور بیٹے

وَالْقَنَاطِيرُ الْمُقَنْطَرَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

اور جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے

وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ

اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی

ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ

یہ دنیا کی زندگی سے فائدہ (اٹھانے کی بات) ہے اور اللہ ہی کے پاس

حُسْنُ الْمَاِبِ ۝ وَالْقِيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّمِّيَّةً

اچھا ٹھکانہ ہے اور میں نے اپنی محبت تیرے اندر ڈالی

وَلِتُصْنَعَ عَلٰی عَيْنِي ۝ اِذْ تَمْشِيْ اُخْتَلَاً

کہ تو میرے سامنے گام کرے جب تیری بہن چل کر آئی

فَتَقُولُ هَلْ اَدْرَاكُمْ عَلٰی مَنْ يَّكْفُلُهُ

اور اس نے کہا کیا میں تمہیں ایسی عورت بتاؤں جو اس (موسیٰ) کی پرورش کرے

فَرَجَعْنَا اِلٰى اُمِّكَ كَمَا تَقَرَّعَيْنَهَا

پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں

وَلَا تَحْزَنْ ط وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ

اور وہ غم نہ کرے اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر ہم نے تجھے غم سے نجات دی

وَفَتَّاكَ فُتُونًا ۝ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا

اور تجھے اچھے طرح آزمائش میں ڈالا اس (مٹی) سے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں

نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝

واپس لوٹائیں گے اور اسی سے ایک مرتبہ پھر تمہیں نکالیں گے

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

اور ہم نے اس (قرآن) کو حق کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا اور ہم نے

إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

تمہیں بشارت دینے والا اور عذاب نازلنے والا ہی بنا کر بھیجا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ يَافَتَاخُ يَا هُوِيََا مَنْ هُوَ

وہ کیسا و قہرمان ہے لے فتح دینے والے، لے وہ، لے وہ ذات

يَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ

لے وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ وَصَلَّى اللَّهُ

بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ نے رحمت کی

عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ ۝

اپنی بہترین مخلوق محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ان کی تمام اولاد پر

صرف خدا کی راہ میں خرچ کیا ہو مال تمہارا ہے باقی سب سرفراز کا ہے۔

دُعائے تسخیر

جو شخص کسی کو قابو میں رکھنا چاہے تو وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کرے۔ سورہ الحمد کے بعد سات مرتبہ یہ آیت پڑھے۔

عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ

امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان

الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً

جن سے تمہیں عداوت ہے خالص محبت پیدا کر دے

وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

اور اللہ بڑی قدرت والا اور اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے

اللَّهُمَّ لِيَنَّ قَلْبَ فُلَانٍ

اور سلام کے بعد

يَا اللَّهُ! فُلَانِ ابْنِ فُلَانٍ كَيْ دَلَّ كَوْزَمٍ كَرِيْمٍ

اٹھ مرتبہ یہ آیت پڑھے

ابْنِ فُلَانٍ كَمَا لَيِّنْتَ الْحَدِيدَ لِدَاوُدَ

جیسے تو نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا

ہر کام کے آغاز کی دعا

رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تَعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ ط

اے پروردگار! آسان کرنے میں مشکل نہ کر اور خیر کے ساتھ تکمیل کو پہنچا

دُعائے عافیت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ

اے اللہ! رحمت نازل فرما محمدؐ اور ان کی آل پر

وَالْبِسْنِيْ عَافِيَتِكَ وَجَلِّلْنِيْ عَافِيَتِكَ

اور مجھے اپنی عافیت کا لباس پہنا، اپنی عافیت کی ردا اڑھا

وَحَصِّنِيْ بِعَافِيَتِكَ وَاكْرِمْ نِيْ بِعَافِيَتِكَ

اپنی عافیت کے ذریعہ محفوظ رکھ، اپنی عافیت کے ذریعے عزت و وقار دے

وَاعْزِزْنِيْ بِعَافِيَتِكَ وَتَصَدَّقْ عَلَيَّ بِعَافِيَتِكَ

اپنی عافیت کے ذریعے بے نیاز کر دے، اپنی عافیت کی بھیک میری جھولی میں ڈال دے

وَهَبْ لِيْ عَافِيَتِكَ وَاَفْرِشْنِيْ عَافِيَتِكَ

اپنی عافیت مجھے مرحمت فرما، اپنی عافیت کو میرا اور ہنا بچھونا قرار دے

وَاَصْلِحْ لِيْ عَافِيَتِكَ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِيْ

اپنی عافیت کی میرے لیے اصلاح و درستی فرما اور دنیا و آخرت میں میرے

وَبَيْنَ عَافِيَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اور اپنی عافیت کے درمیان جہاں نہ ڈال

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعَافِنِي

اے میرے معبود! رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر اور مجھے ایسی

عَافِيَةً كَافِيَةً شَافِيَةً عَالِيَةً

عافیت دے جو بے نیاز کرنیوالی شفا بخشنے والی (امراض کی دسترس سے) بالا

تَامِيَةً عَافِيَةً تُؤَلِّدُ فِي بَدَنِي الْعَافِيَةَ

اور روز افزوں ہو ایسی عافیت جو میرے جسم میں

عَافِيَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَمِنُّ عَلَى بِالصِّحَّةِ

دنیا اور آخرت کی عافیت کو جنم دے اور مجھ پر احسان فرما صحت

وَالْأَمْنِ وَالسَّلَامَةِ فِي دِينِي وَبَدَنِي

امن ، جسم و ایمان کی سلامتی ،

وَالْبَصِيرَةِ فِي قَلْبِي وَالنَّفَازِ فِي أُمُورِي

قلبی بصیرت ، نفاذ امور کی صلاحیت ،

وَالْخَشْيَةَ لَكَ وَالْخَوْفَ مِنْكَ وَالْقُوَّةَ عَلَيَّ

بیم و خوں کا جذبہ اور جس اطاعت

مَا أَمَرْتَنِي بِهِ مِنْ طَاعَتِكَ وَالْإِجْتِنَابَ

کا تو نے حکم دیا ہے اسے بجالانے کی قوت اور جن

لِمَا نَهَيْتَنِي عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَتِكَ

گناہوں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کی توفیق بخش کر

اللَّهُمَّ وَأَمِّنْ عَلَيَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

بارِ الْهَيْمَةِ! مجھ پر یہ احسان بھی فرما کہ حج و عمرہ

وَزِيَارَةِ قَبْرِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَرَحْمَتِكَ

اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت

وَبَرَكَاتِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِ رَسُولِكَ عَلَيْهِمُ

اور تبرکات آل رسول سلام اللہ علیہم کی زیارت کرتا

السَّلَامُ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي فِي عَامِي هَذَا

رہوں ہمیشہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے اس سال بھی

وَفِي كُلِّ عَامٍ وَاجْعَلْ ذَلِكَ مَقْبُولًا مَشْكُورًا

اور ہر سال اور ان عبادات کو مقبول و پسندیدہ

مَذْكُورًا لَدَيْكَ مَذْخُورًا عِنْدَكَ

قابلِ التَّقَاتِ اور اپنے ہاں ذخیرہ قرار دے

وَأَنْطِقْ بِحَمْدِكَ وَشُكْرِكَ وَذِكْرِكَ وَحُسْنِ

اور حمد، شکر، ذکر اور شنائے جمیل

الشَّنَاءِ عَلَيْكَ لِسَانِي وَأُشْرَحَ لِمَرَاتِدِ

کے نغموں سے میری زبان کو گویا رکھ اور دینی ہدایتوں کے لیے میرے

دِينِكَ قَلْبِي وَأَعِزَّنِي وَذَسِّرْ يَتِي مَنْ

دل کی گریں کھول دے اور مجھے اور میری اولاد کو

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمِنْ شَرِّ السَّامَةِ

شیطان مردود سے اور زہریلے جانوروں ،

وَالْهَامَةِ وَالْعَامَةِ وَاللَّامَةِ وَمِنْ

ہلاک کنیوالے حیوانوں اور دوسرے جانوروں کے گزند اور چشم بد سے پناہ دے اور

شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ

ہر سرکش شیطان کے شر سے اور ہر

سُلْطَانٍ عَنِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مُتْرَفٍ

ظالم حکمران کے شر سے اور ہر جمع جتھے والے مغزور کے

حَفِيدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ضَعِيفٍ وَشَدِيدٍ

شر سے اور ہر کمزور اور طاقت ور کے شر سے

وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَرِيفٍ وَوَضِيعٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ

اور ہر اعلیٰ اور ادنیٰ کے شر سے اور ہر

صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ قَرِيبٍ وَبَعِيدٍ

چھوٹے بڑے کے شر سے اور ہر نزدیک اور دور والے کے شر سے

وَمِنْ شَرِّ كُلِّ مَنْ نَصَبَ لِرَسُولِكَ وَلَا أَهْلَ

اور جن و انس میں سے تیرے پیغمبر اور ان کے اہل بیتؑ

بَيْتِهِ حُرْبًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَمِنْ

سے ہر سر بیکار ہونے والے اور

شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ اخِذُ بِنَاصِيَتِهَا

ہر حیوان کے سر سے جن پر تجھے تسلط حاصل ہے

إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اس لیے کہ تو حق و عدل کی راہ پر ہے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

اے اللہ! محمدؐ اور ان کی آلؑ پر رحمت نازل فرما

وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَأَصْرِفْهُ عَنِّي

اور جو مجھ سے برائی کرنا چاہے اسے مجھ سے روگرداں کر دے

وَأُدْحِرْ عَنِّي مَكْرَهُهُ وَأَدْرَأْ عَنِّي شَرَّهُ

اس کا مکر مجھ سے دُور ، اس کا شر مجھ سے دفع کر دے

وَرَادَ كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِ وَأَجْعَلْ بَيْنَ

اور اسکے مکر و فریب (کے تیر) اسی کے سینے کی طرف پلٹا دے اور اس کے سامنے

يَدَيْهِ سَدًّا حَتَّى تَعْبَى عَنِّي بَصْرَهُ وَتُصَمِّرَ

ایک دیوار کھڑی کر دے یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کو میرے دیکھنے سے نابینا

عَنْ ذِكْرِي سَمْعَهُ وَتَقْفِلَ دُونَ أَخْطَارِي

اور اسکے کانوں کو میرا ذکر سننے سے بہرا کر دے اور اس کے دل پر قفل چڑھا

قَلْبَهُ وَتُخْرِسَ عَنِّي لِسَانَهُ

دے اور میرے بارے میں کچھ کہنے سننے سے اس کی زبان کو لنگ کر دے

وَتَقْمَعُ رَأْسَهُ وَتُنْزِلُ عِزَّهُ وَتَكْسِرُ جَبْرُوتَهُ

اس کا سر کچل دے ، اس کی عزت پامال کر دے ، اس کی تمکنت کو توڑ دے

وَتُنْزِلُ رَقَبَتَهُ وَتَفْسَخُ كِبْرَهُ وَتُوْمِنِي

اسکی گردن میں ذلت کا طوق ڈال دے ، اس کا تکبر ختم کر دے اور مجھے

مِنْ جَمِيعِ ضَرِّهِ وَشَرِّهِ وَغَمِّهِ وَهَمِّهِ

اس کی ضرر رسائی ، شر پندی ، طعنہ زنی ، غیبت ،

وَلَمُزِّهِ وَحَسَدِهِ وَعَدَاوَتِهِ وَحَبَائِلِهِ

عیب جوئی ، حسد ، دشمنی اور اس کے پھندوں

وَمَصَائِدِهِ وَرَجُلِهِ وَخَيْلِهِ إِنَّكَ

سہتہ کنڈوں ، پیادوں اور سواروں سے اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ یقیناً تو

عَزِيزٌ قَدِيرٌ

غلبہ اور اقتدار کا مالک ہے

سواری کی دُعا

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ

پاک ہے وہ ذات جس نے اس (سواری) کو ہمارے تابع کر دیا در نہ ہم اس پر قابو پانے

مُقِرِّينَ ○ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ○

والے نہ تھے اور ہم اپنے رب کی طرف (پلٹ کر) جانے والے ہیں

دُعائے ہلالِ ہرمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے

اِيْهَا الْخَلْقُ الْمَطِيْعُ الدّٰيْبُ السَّرِيْعُ

اے وہ مخلوق! جو مقرر منزلوں میں تیز رفتار و سرگرم عمل

الْمُتَرَدِّدُ فِيْ مَنَازِلِ التَّقْدِيْرِ الْمُتَصَرِّفُ فِيْ

اور باہری باہری داخل ہونے والی تدبیر کے آسمانوں میں

فَلَكَ التَّدْبِيْرُ اَمْنٌ بِمَنْ نُوْرِكَ الظُّلَمَ

تصرف کرنے والی میں اس ذات پر ایمان لایا جس نے تجھ سے تاریکیوں کو روشن کیا

وَاَوْضَحَ بِكَ الْبُهْمَ وَجَعَلَكَ اَيَّةً مِّنْ اَيّٰتِ

اندھیروں کو منور کر دیا تجھے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک

مُلْكِهِ وَعَلَامَةٌ مِّنْ عَلَامَاتِ سُلْطٰنِهِ

نشانی ، اور اپنے اقتدار کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا

وَامْتَهَنَكَ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَالطُّلُوْعِ

اور تجھے بڑھنے ، گھٹنے ، نکلنے ،

وَالْاُفْوَالِ وَالْاِنْسَاةِ وَالْكُسُوْفِ وَفِيْ كُلِّ

دوبنے ، چمکنے اور گھٹانے سے ناچیز بنا دیا ، اور ان

ذٰلِكَ اَنْتَ لَهُ مُطِيعٌ وَّ اِلَى اِرَادَتِهِ سَرِيعٌ

باتوں میں تو خدا کا اطاعت گزار اور اس کے ارادوں کی تعمیل میں چست و تیز رفتار ہے

سُبْحٰنَهُ مَا اَعْجَبَ مَا دَبَّرَ فِیْ اَمْرِكَ

وہ کتنا پاک ہے! اس نے تیرے معاملات میں کتنی حیرت انگیز تدبیریں فرمائی ہیں

وَالطَّفَ مَا صَنَعَ فِیْ شَاۤءِكَ

تیرے حالات میں کس قدر لطیف صنعتیں صرف فرمائی ہیں

جَعَلَكَ مِفْتَاحَ شَهْرٍ حَادِثٍ لِاَمْرٍ حَادِثٍ

اس نے تجھے نئے مہینے کے نئے معاملات کی کنجی بنایا

فَاَسْأَلُ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبَّكَ وَخَالِقِیْ وَخَالِقَكَ

تو میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں جو میرا اور تیرا پروردگار، میرا اور تیرا خالق

وَمُقَدِّرِیْ وَمُقَدِّرِكَ وَمُصَوِّرِیْ وَمُصَوِّرِكَ

میری اور تیری تقدیر بنانے اور میری اور تیری صورت بنانے والا ہے

اَنْ یُّصَلِّیَ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ

کہ وہ رحمت نازل فرمائے محمد و آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام پر

وَاَنْ یَّجْعَلَكَ هَلٰلًا بَرَكَةً لَا تَمْحَقُهَا الْاَیَّامُ

اور تجھے اپنی برکتوں کا چاند بنا دے جن کو زمانہ اور دن نہ مٹا سکیں

وَطَهَارًا لَا تُدَسُّهَا الْاَشَامُ

تجھے ایسی طہارت کا چاند قرار دے جسے گناہ نجس نہ کمر سکیں

هِلَالٍ أَمِنَ مِنَ الْآفَاتِ وَسَلَامَةٍ مِنَ السَّيِّئَاتِ

ایسا چاند جو آفتوں سے محفوظ اور برائیوں سے سالم ہو

هِلَالٍ سَعِدٍ لَا نَحْسَ فِيهِ وَيُؤْمِنُ لَا تَكْدَ مَعَهُ

ایسا چاند جس میں سعادتوں کے ساتھ خوشیوں نہ ہوں ، برکتیں ہوں زندگی کی تنگیوں نہ ہوں ۔

وَيُسِرُّ لَا يَمَازِجُهُ عُسْرٌ وَخَيْرٌ لَا يَشُوبُهُ شَرٌّ

ایسی آسانیاں جس جو سختیوں کی ملاؤٹھے پاک ہوں ، وہ نیکیاں ہوں جن میں شر کا میل نہ ہو

هِلَالٍ أَمِنَ وَإِيمَانٍ وَنِعْمَةٍ

امن و ایمان ، نعمت و

وَإِحْسَانٍ وَسَلَامَةٍ وَإِسْلَامٍ

احسان ، سلامتی و امن کا چاند

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

خدایا ! محمد و آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام پر رحمت نازل فرما

وَاجْعَلْنَا مِنْ أَرْضِي مَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ وَأَشْرَاقِي

اور ہمیں ان پسندیدہ ترین آدمیوں میں سے بنا جن پر یہ چاند چمکا ان پاکیزہ ترین

مَنْ تَنْظَرُ إِلَيْهِ وَأَسْعَدَ مَنْ

آدمیوں میں سے بنا جنہوں نے اس پر نگاہ ڈالی ان خوش قسمت ترین لوگوں میں سے بنا جو

تَعَبَدَ لَكَ فِيهِ وَوَفَّقْنَا فِيهِ لِلتَّوْبَةِ

اس مہینہ میں تیری عبادت کریں ، ہمیں اس ماہ میں توبہ کی توفیق عطا فرما

وَأَعِصْنَا فِيهِ مِنَ الْحُبُوبَةِ وَأَحْفَظْنَا فِيهِ

اور ہمیں اس مہینہ میں گنہاہ سے بچا اور اپنی نافرمانی میں

مِنْ مُبَاشِرَةٍ مَّعْصِيَتِكَ وَأَوْزُرْنَا فِيهِ شُكْرًا

مبتلا ہونے سے محفوظ رکھ اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا

نِعْمَتِكَ وَالْبِسْنَا فِيهِ جُنَانَ الْعَافِيَةِ

موقع فراہم فرما ہمیں عافیت کا لباس حفاظت پہنا دے

وَأَتَمِّرْ عَلَيْنَا بِاسْتِكْمَالِ طَاعَتِكَ فِيهِ الْمَتَّةَ

اور اس مہینے میں اپنے احسانات اپنی اطاعت کی تکمیل کے ساتھ مرحمت فرما

إِنَّكَ الْمَنَّانُ الْحَمِيدُ وَصَلَّى اللهُ

بلاشبہ تو بڑا احسان کرنے والا اور بہت قابل ستائش ہے اور اللہ نے رحمت

عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

نازل فرمائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پاکیزہ اہل بیت پر

اللَّهُمَّ إِنَّ عَبِيدًا مِّنْ

اے اللہ تیرے صالح بندوں میں سے

عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ قَامُوا بِكِتَابِكَ وَسُنَّةِ

کچھ بندے تیری کتاب اور تیرے نبی کی سنت پر

نَبِيِّكَ فَاجْزِهِمْ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَاءِ

قائم ہے۔ ان کو ہماری طرف سے (بھی) بہترین جزا عطا کر

اعمال ماہِ رمضان مبارک

دُعائے ہلال

سَمِيًّا وَرَبُّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

میرا اور تیرا رب اللہ ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے

اللَّهُمَّ أَهْلَهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ

یا اللہ! اس چاند کو امن و ایمان دے

وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالْمُسَارَعَةِ إِلَى

سلامتی اور اسلام اور تیری محبت و رضا کی طرف

مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي

بڑھنے کا (نشان) بنا دے یا اللہ! ہمارا یہ مہینہ ہمارے لیے

شَهْرِنَا هَذَا وَأَرْزُقْنَا خَيْرَهُ وَعَوْنَهُ

مبارک اور ہمیں اس کی بھلائی اور اس کی امداد مرحمت فرما

وَأَصْرِفْ عَنَّا ضَرَّةً وَشَرَّةً وَبَلَاءَةً

اور ہم کو اس مہینے کے نقصانات، تکالیف، بلاؤں

رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر قرآن پاک

یا کسی علم یا اپنے اہل و عیال کو دیکھا جائے

وَفِتْنَتَهُ

اور فتنوں سے بچا

ایک اور دعا
روایت ہے کہ چاند دیکھ کر اس دعا
کا پڑھنا ضروریات سے ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي وَاخْلَقَكَ

اس اللہ کی حمد، جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا

وَقَدَّرَ مِنَّا زِلْكَ وَجَعَلَكَ مَوَاقِيتَ لِلنَّاسِ

اور تیری منزلیں معین کر دیں اور تجھے لوگوں کے لیے زمانے کا نشان بنایا

اللَّهُمَّ اهْلِكْ عَلَيْنَا هَلَاكًا مُبَارَكًا

یا اللہ! یہ چاند دیکھنا برکت کا سبب ہو

اللَّهُمَّ ادْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ

یا اللہ! یہ چاند ہم پر سلامتی و اسلام،

وَالْيَقِينِ وَالْإِيمَانِ وَالْبِرِّ وَالتَّقْوَى

یقین و ایمان، نیکی و تقویٰ

وَالْتَوْفِيقَ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى

اور ایسی توفیق (عمل کا چاند) ہو جو تجھے پسند اور تیری رضا کے قابل ہو

نیتِ روزہ
نیت میں اتنا ہی کافی ہے کہ شب میں یہ ارادہ
کرے کہ کل روزہ رکھوں گا (یا رکھوں گی) (قریباً

الی اللہ۔ اور یہ بھی لازم ہے کہ روزہ محض حکمِ خدا کی تعمیل کے لیے رکھے۔

اُحْوِطْ یہ ہے کہ شبِ اول میں پورے مہینے کے روزوں کی نیت کر لے اور

پھر ہر رات علیحدہ بھی نیت کرے ، اور اگر نیت کرنا بھول گیا ہو تو اگر زوال سے قبل یاد آجائے تو فوراً نیت کر لے روزہ صحیح رہے گا اور اگر زوال کے بعد یاد آئے تو باقی دن منافی روزہ چیزوں سے پرہیز کرے لیکن روزہ باطل ہوگا۔ البتہ کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ صرف قضا کی ادائیگی واجب ہے گی

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ

یا اللہ! تیرے لیے میں نے روزہ رکھا

دُعائے افطار

وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ

تیرے رزق پر افطار کیا اور تجھی پر میں نے بھروسہ کیا

دُعائے ہر شب

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذَا الشَّهْرِ رَمَضَانَ الَّذِي

یا اللہ! اس مہینے رمضان کے رب جس میں

أَنْزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ وَأَفْتَرَضْتَ عَلَيَّ عِبَادَكَ

تو نے قرآن نازل کیا اور اپنے بندوں پر اس میں

فِيهِ الصِّيَامَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

روئے فرض کیے رحمت نازل فرما محمدؐ اور آل محمدؐ پر

وَأَرْزُقْنِي حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ فِي عَامِي هَذَا

اور مجھے اپنے محترم گھر (کعبے) کا حج نصیب کر اسی سال

وَفِي كُلِّ عَامٍ وَأَغْفِرْ لِي تِلْكَ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ

بلکہ ہر سال اور میرے بڑے بڑے گناہ بخش دے

فَاتَّئِدُ لَا يَغْفِرُهَا غَيْرُكَ يَا رَحْمَنُ يَا عَلَّامٌ

کہ وہ گناہ تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے رحمن! اے علام!

یہ دعا بھی پڑھی جائے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ فِيمَا تَقْضِي

یا اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بھی ان میں شمار کر جن کے بارے میں

وَتَقْدِرُ مِنَ الْأُمْرِ الْمَحْتُمِ فِي الْأَمْرِ

تو قضاوت رکھے جتنی فیصلے حکمت کے

الْحَكِيمِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُرَدُّ وَلَا

احکام میں وہ فیصلے کرے گا جنہیں نہ رد کیا جاسکتا ہے اور نہ

يُبَدَّلُ أَنْ تَكْتُبَنِي مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِكَ

بدلا جاسکتا ہے۔ یہ کہ مجھے اپنے محترم گھر کے ان حاجیوں میں رکھ دے

الْحَرَامِ الْمَبْرُورِ حَجَّهُمُ الْمَشْكُورِ

جن کے حج پسندیدہ

سَعِيَهُمُ الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمُ الْمَكْفُورِ

جن کی سعی مقبول، جن کے گناہ بخشنے ہوئے، جن کی بدعملی کے

عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَنْ تَجْعَلَ فِيمَا تَقْضِي

کفار سے ادا ہو چکے اور یہ کہ مجھے تصفہ و قدر کے وقت

وَتَقْدَرُ أَنْ تُطِيلَ عُمُرِي فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ

یوں قرار دے کہ میری عمر طویل ، بھلائی، تندرستی کے ساتھ رہے

وَتَوْسِّعَ فِي رِزْقِي وَتَجْعَلَنِي مِمَّنْ تَنْتَصِرُ

اور میری رزقی میں وسعت ہو، مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو تیرے

بِهِ لِيُدَيِّنَكَ وَلَا تُسْتَبَدَّلَ بِي غَيْرِي

دین کی مدد کرنے والے ہیں اور میری جگہ میرے غیر کو نہ دے

یہ دعا بھی پڑھی جائے

اللَّهُمَّ بِرَحْمَتِكَ فِي الصَّالِحِينَ فَأَدْخِلْنَا

یا اللہ! مجھے اپنی رحمت سے نیک عمل لوگوں میں داخل کرنا

وَفِي عِلِّيِّينَ فَأَرْفَعْنَا وَبِكَاسٍ مِّنْ

اور جنت کے بلند درجوں میں جگہ دینا، اور سلسبیل کے

مَعِينٍ مِّنْ عَيْنٍ سَلْسَبِيلٍ فَاسْقِنَا

صاف و شفاف پانی کے چشمے کے پیالے سے میرا سب کرنا

وَمِنَ الْحُورِ الْعِينِ بِرَحْمَتِكَ فَزَوِّجْنَا

اور اپنی رحمت کے صدقے مجھے حورِ عین کا ساتھی بنانا

وَمِنَ الْوُلْدَانِ الْمَخْلُودِينَ كَانَهُمْ لَوْلَا

اور چمکتے موتی جیسے ، رسماً زندہ رہنے والے نو عمر خادموں کو

مَكُونُونَ فَأَخْذِ مِنَّا وَمِنْ شِمَارِ الْجَنَّةِ

ہماری خدمت میں دینا اور جنت کے پھلوں ،

وَلِحُومِ الطَّيْرِ فَاطْعِمْنَا وَمِنْ شِيَابِ

پرندوں کے گوشت کو خوراک میں دینا اور

السُّنْدُسِ وَالْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ فَأَلْبِسْنَا

سندس (جنت) کا کپڑا اور ریشم و استبرق کے خلعت عطا کرنا

وَلَيْلَةَ الْقَدْرِ وَحَجَّ بَيْتِكَ الْحَرَامِ وَقَتْلًا

اور شبِ قدر و حج بیت اللہ اور راہِ حق میں قتل

فِي سَبِيلِكَ فَوْقَ لَنَا وَصَالِحِ الدُّعَاءِ

ہونے کی توفیق عطا فرما ، اور صالح دعاؤں

وَالْمَسْئَلَةِ فَاسْتَجِبْ لَنَا وَإِذَا جَمَعْتَ

اور سوالوں کو پورا کر اور جب

الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَرْحَمْنَا

اولیوں و آخرین کو قیامت کے دن جمع کرنا تو ہم پر رحم فرمانا

وَبِرَأْءَاءِ مَنْ النَّارِ فَاصْرِفْنَا وَفِي

اور جہنم کی آگ سے آزادی دینا اور

جَهَنَّمَ فَلَا تَغْلِبْنَا وَفِي عَذَابِكِ وَهْوَانِكَ

دوزخ میں زنجیروں سے نہ جھڑپنا ، عذاب و رسوائی میں

فَلَا تَبْتَلِنَا وَمِنَ الرَّقُومِ وَالضَّرِيعِ فَلَا

مبتلا نہ فرمانا ، تھوہر اور بدبودار پانی نہ

تَطْعَمِنَا وَمَعَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَجْعَلْنَا

پلوانا اور شیطانوں کے ساتھ نہ رکھنا ،

وَفِي التَّارِ عَلَى وُجُوهِنَا فَلَا تَكْبِنَا وَمِنْ

ہمیں چہروں کے بل آگ میں نہ ڈھکیانا ، اور

ثِيَابِ التَّارِ وَسَرَائِيلَ الْقَطْرِ اِنْ فَلَا تَلْبِسْنَا

آگ کے پیراہن اور زیوے کے نہ پہنانا

وَمِنْ كُلِّ سُوْعِيًّا لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ

اے وہ معبود کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہمیں ہر برائی سے

بِحَقِّ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ فَانْجِنَا

بحق لا الہ الا انت نجات دینا

(اے خدا) تو ہمارے پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے ۔

تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کیونکہ تیرے سوا

گناہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ۔

دُعائے سحر

اللَّهُمَّ رَانِيْ أَسْأَلُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأَبْنَاهَا وَكُلِّ

یا اللہ! میں تیرے نور بالائے نور سے سوال کرتا ہوں اور تیرا تو

بَهَائِكَ بِهِيَ اللَّهُمَّ رَانِيْ أَسْأَلُكَ بِبَهَائِكَ كُلِّهِ

ہر نور نور ہے ، یا الہی! میں تیرے نور کا میل سے سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ رَانِيْ أَسْأَلُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَكُلِّ

یا اللہ! میں تیرے جمال بالائے جمال کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں اور تیرا ہر

جَمَالِكَ جَمِيْلٌ اللَّهُمَّ رَانِيْ أَسْأَلُكَ بِجَمَالِكَ كُلِّهِ

جمال بڑا جمال ہے ، الہی! میں تیرے کامل جمال کے واسطے سے سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ رَانِيْ أَسْأَلُكَ مِنْ جَلَالِكَ بِأَجْلَلِهِ وَكُلِّ

یا اللہ! میں تیرے اس جلال کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جو بہت بڑا جلال ہے اور

جَلَالِكَ جَلِيْلٌ اللَّهُمَّ رَانِيْ أَسْأَلُكَ بِجَلَالِكَ كُلِّهِ

تیرا ہر جلال بڑا جلال ہے ، الہی! میں تیرے جلال کامل کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ رَانِيْ أَسْأَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِأَعْظَمِهَا وَكُلِّ

یا اللہ! میں تیری عظمت اور بڑی عظمت کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں اور تیری

عَظَمَتِكَ عَظِيْمَةٌ اللَّهُمَّ رَانِيْ أَسْأَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّهَا

ہر عظمت عظیم ہے ، الہی! میں تیری عظمت کامل کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ رَانِيْ أَسْأَلُكَ مِنْ نُورِكَ يَا نُورِهَا وَكُلُّ

یا اللہ! میں تیرے نور اور سے سوال کرتا ہوں اور تیرا ہر

نُورِكَ نَيْرٌ اللَّهُمَّ رَانِيْ أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ

نور بالائے نور ہے! اللہ! میں تیرے نور کامل سے سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ رَانِيْ أَسْأَلُكَ مِنْ رَّحْمَتِكَ يَا وَسْعَهَا وَكُلُّ

یا اللہ! میں تیری وسیع ترین رحمت سے سوال کرتا ہوں اور تیری

رَّحْمَتِكَ وَأَسْأَلُكَ بِرَّحْمَتِكَ كُلِّهَا

ہر رحمت وسیع ترین ہے! اللہ! میں تیری رحمت کاملہ سے مانگتا ہوں

اللَّهُمَّ رَانِيْ أَسْأَلُكَ مِنْ كَلِمَتِكَ يَا تَمَّهَا وَكُلُّ

یا اللہ! میں تیرے کامل ترین کلمات سے سوال کرتا ہوں اور تیرے سب

كَلِمَتِكَ تَامَّةٌ اللَّهُمَّ رَانِيْ أَسْأَلُكَ بِكَلِمَتِكَ كُلِّهَا

کلمے کامل ترین ہیں! اللہ! میں تیرے کامل کلمات سے سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ رَانِيْ أَسْأَلُكَ مِنْ كَمَالِكَ يَا كَمَلَهُ وَكُلُّ

یا اللہ! میں تیرے کمال اکمل سے سوال کرتا ہوں اور تیرا ہر

كَمَالِكَ كَامِلٌ اللَّهُمَّ رَانِيْ أَسْأَلُكَ بِكَمَالِكَ كُلِّهِ

کمال کامل ترین ہے! اللہ! میں تیرے کمال اکمل سے سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ رَانِيْ أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمَائِكَ يَا كَبْرَهُ وَكُلُّ

یا اللہ! میں تیرے ناموں میں سب سے بڑے نام سے سوال کرتا ہوں اور تیرے

اَسْأَلُكَ كَبِيرَةً ۙ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَسْمَائِكَ كُلِّهَا

سب نام بہت بڑے ہیں الہی! میں تیسے سب ناموں کے ذریعہ سوال کرتا ہوں

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بِاَعْزِّهَا وَكُلِّ

یا اللہ! میں تیری عزت بالائے عزت سے سوال کرتا ہوں اور تیری ہی

عِزَّتِكَ عَزِيْزَةً ۙ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّهَا

عزت سے بالابے الہی! میں تیری عزت کا ملہ سے سوال کرتا ہوں

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ مَّشِيَّتِكَ بِاَمْضَاهَا وَكُلِّ

یا اللہ! میں تیری اس مشیت سے سوال کرتا ہوں جو سب سے زیادہ جاری ہے اور

مَشِيَّتِكَ مَا ضِيَةً ۙ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّهَا

تیری ہر مشیت جاری ہے الہی! میں تیری مشیت کا ملہ سے سوال کرتا ہوں

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ قُدْرَتِكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي

یا اللہ! میں تیری اس قدرت سے سوال کرتا ہوں جس کی

اَسْتَطَلْتُ بِهَا عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ ۙ وَكُلِّ قُدْرَتِكَ

بنام پر تو ہر چیز پر قادر ہے اور تیری ہر قدرت

مُسْتَطِيْلَةٌ ۙ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّهَا

غالب ہے الہی! میں تیری قدرت کا ملہ سے سوال کرتا ہوں

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِاَنْفَذِهِ وَكُلِّ

یا اللہ! میں تیرے نافذ ترین علم سے سوال کرتا ہوں اور

عَلَيْكَ نَافِدٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ

تیرا ہر علم نافذ ہے الہی! میں تیرے علمِ کامل سے سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِأَرْضَاةٍ وَكُلِّ

یا اللہ! میں تیرے اس قول سے سوال کرتا ہوں جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور تیرا

قَوْلِكَ رَضِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ

ہر قول پسندیدہ ہے الہی! میں تیرے قولِ کامل سے سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَسَائِلِكَ بِأَحَبِّهَا

یا اللہ! میں تیرے پسندیدہ مسائل میں سے سوال کرتا ہوں

إِلَيْكَ وَكُلِّ مَسَائِلِكَ إِلَيْكَ حَبِيبَةً

اور تیرے سب مسائل پر سنیہ ہیں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَسَائِلِكَ كُلِّهَا

الہی! میں تیرے مسائلِ کاملہ سے سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرَفِهِ وَكُلِّ

یا اللہ! میں تیرے شرفِ بالائے شرف سے سوال کرتا ہوں اور

شَرَفِكَ شَرِيفٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ

تیرا ہر شرف بلند و برتر ہے الہی! میں تیرے شرفِ کامل سے سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ سُلْطَنِكَ بِأَدْوَمِهِ وَكُلِّ

یا اللہ! میں تیری کامل بادشاہی سے سوال کرتا ہوں اور تیری ہر قسم کی

سُلْطَنِكَ دَائِمٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسُلْطَنِكَ كُلِّهِ
سلطنت دائمی ہے الہی! میں تیری کامل بادشاہی سے سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِأَفْخَرِهِ وَكُلِّ
یا اللہ! میں تیرے نفیس ترین ملک سے سوال کرتا ہوں اور تیرا پورا

مُلْكِكَ فَأَخْرُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ
ملک نفیس ترین ہے الہی! میں تیرے ملک کامل کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عُلُوكَ بِأَعْلَاهُ وَكُلِّ
یا اللہ! میں تیری بلند ترین بلندی کے صدرے میں مانگتا ہوں اور تیری ہر

عُلُوكَ عَالٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعُلُوكَ كُلِّهِ
بلندی انتہائی بلند ہے الہی! میں تیری کامل بلندی کے واسطے سے سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِأَقْدَمِهِ وَكُلِّ
یا اللہ! میں تیرے قدیم ترین احسان کے واسطے سے مانگتا ہوں اور تیرا ہر

مَنِّكَ قَدِيمٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ
احسان بہت قدیم ہے الہی! میں تیرے احسان کامل کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ آيَتِكَ بِأَكْرَمِهَا وَكُلِّ
یا اللہ! میں تیری آیتوں میں سب سے معزز آیت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں اور تیری ہر

آيَتِكَ كَرِيمَةٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِآيَتِكَ كُلِّهَا
آیت انتہائی مکرم ہے الہی! میں تیری سب آیتوں کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا أَنْتَ فِيهِ مِنَ الشَّانِ

یا اللہ! میں تیری ہر شانِ یکتائی اور

وَالْجَبْرُوتِ وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَانٍ وَحَدَاةٍ

اور جبروتِ منفرد کی بنا پر

وَجَبْرُوتٍ وَحَدَاةٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا

دُعا کرتا ہوں اللہ! میں دعا کرتا ہوں کہ

تُجِيبَنِي حِينَ أَسْأَلُكَ فَأَجِبْنِي يَا اللَّهُ

جب میں دعا کروں تو قبول کر لے لہذا اے اللہ میری دعا قبول فرما

مختصر دعائے سحر

يَا مَفْرُوعِي عِنْدَ كُرْبَتِي وَيَا غَوْثِي عِنْدَ شِدَّتِي

اے میرے دُک میں میرے فریاد رس! اے میری سختیوں میں میری داد کو پہنچنے والے

إِلَيْكَ فَزَعَتْ وَبِكَ اسْتَعَثْتُ وَبِكَ لُدْتُ

میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، تجھ سے داد مانگتا ہوں اور تجھ سے پناہ کی درخواست،

لَا الْوُدُّ بِسِوَاكَ وَلَا أَطْلُبُ الْفَرَجَ

تیرے غیر سے پناہ نہیں لوں گا۔ اور تیرے سوا کسی سے کشائش طلب

إِلَّا مِنْكَ فَأَغِثْنِي وَفَرِّجْ عَنِّي

نہ کروں گا۔ میری فریاد کو پہنچ میرے غم کو دور کر دے۔

يَا مَنْ يَقْبَلُ الْيَسِيرَ وَيَعْفُو عَنِ الْكَثِيرِ

اے کم سے کم تر عمل خیر کو قبول اور زیادہ سے زیادہ دگنا ہوں تم کو معاف کرنے والے

اقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرَ وَاَعْفُ عَنِّي الْكَثِيرَ

میرے حقیر عمل کو قبول فرما — اور میرے بہت سے گناہوں کو بخش دے

إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

بلاشبہ تو بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا تَبَاثُرًا بِهِ قَلْبِي

یا اللہ! میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جس سے دل کو فرحت ہو

وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّىٰ أَعْلَمَ أَنَّكَ لَنْ يُصِيبَنِي

اور ایسا سچا یقین کہ مجھے علم و یقین ہو جائے کہ مجھے ہرگز کچھ نہیں مل سکتا

إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَرَضِنِي مِنَ الْعَيْشِ

مگر وہ جو تو نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے اور زندگی دنیا میں جو میرے نصیب میں

بِمَا قَسَمْتَ لِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

ہے اس پر مجھے راضی کر دے اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے

يَا عَدَّتِي فِي كُرْبَتِي وَيَا صَاحِبِي فِي شِدَّتِي

اے تکلیفوں کے وقت میرے سہارے ، میری سختیوں میں میرے ساتھی ،

وَيَا وِلْتِي فِي نِعْمَتِي وَيَا غَايَتِي فِي رَغْبَتِي

میری نعمتوں کے والی ، میری خواہشوں کی انتہا

أَنْتَ السَّاتِرُ عَوْرَتِي وَالْأَمْرُ رُوْعَتِي

توہی میری کمزوریاں چھپانے والا۔ ، توہی میرے خوف کو اطمینان سے بدلنے والا ،

وَالْمُقِيلُ عَثْرَتِي فَأَغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي

میرے ٹھوکروں کو معاف کرنے والا ہے میری خطائیں معاف فرما دے

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اے ارحم الراحمین

ماہِ رمضان میں نماز کے بعد کی دُعا

يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا غَفُورُ يَا رَحِيمُ

اے بلند ذات اے عظمت کے مالک اے بہت بخشنے والے اے بہت رحم کرنے والے

أَنْتَ الرَّبُّ الْعَظِيمُ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

توہی وہ عظیم رب ہے جس کی مثال کوئی چیز نہیں

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهَذَا شَهْرُ عَظَمَتِهِ

وہ بہت سننے والا بید صاحب نظر ہے اور یہ مہینہ وہ ہے جسے تو نے عظمت دی

وَكَرَامَتِهِ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ

اے مکرم کیا ، اے شرف دیا اور تو نے ہی اسے تمام مہینوں پر فضیلت دی

وَهُوَ الشُّهُرُ الَّذِي فَرَضْتَ صِيَامَهُ عَلَيَّ

اسی مہینے میں تو نے مجھ پر روزے واجب کیے

وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَتْ فِيهِ الْقُرْآنُ

اسی ماہ رمضان میں تو نے قرآن نازل فرمایا ہے

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

جو لوگوں کے لیے ہدایت ، ہدایت کی واضح دلیلیں اور حق و باطل کا امتیاز ہے

وَجَعَلَتْ فِيهِ لَبَلَةً الْقَدَرِ وَجَعَلَتْهَا خَيْرًا مِّنْ

اسی (جینے) میں تو نے شب قدر رکھی اور اسے ہزار ہینٹوں سے بہتر

أَلْفِ شَهْرٍ فَيَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يَمَنَّ عَلَيْكَ

بنایا ، پس اے صاحب احسان کہ تجھ پر احسان نہیں کیا جاسکتا

مُرِيًّا عَلَيَّ بِفَكَارِكَ رَقَبَتِي مِنَ التَّكَاُفِي مَنِّ

مجھ پر احسان فرما ، جنسہم سے میری گردن کو آزاد کر کے ، ممنون احسان

تَمَنَّيْتُ عَلَيْهِ وَأَدْخَلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ

لوگوں کی طرح ، اور اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے مہربان

شب قدر میں دو رکعت نماز بجالائے۔

اور ہر رکعت میں سورۃ الحمد اور

اعمال شب قدر

سات مرتبہ قل هو الله احد پڑھے اور فارغ ہونے کے بعد

ستر مرتبہ استَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ کہے۔ حق تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کو بخش دے گا، اور غسل ان تینوں شبوں میں سنتِ مؤکدہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ قرآن لے اور کھولے اور اپنے مُنہ کے سامنے رکھے اور کہے اللّٰهُمَّ رَافِعِ
 اَسْمُكَ بِكِتَابِكَ الْمُنْزَلِ وَمَا فِيهِ وَفِيهِ اِسْمُكَ
 الْاَكْبَرُ وَاَسْمَاؤُكَ الْحُسْنٰى وَمَا يُخَافُ وَيُرْجٰى
 اَنْ تَجْعَلَ لِيْ مِنْ عُمَّتَيْكَ مِنَ التَّارِكِ وَتَقْضِيَ
 حَوَائِجِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ پس اپنی حاجت خدا سے طلب کرے اور قرآن مجید لے اور سر پر رکھے اور کہے : اللّٰهُمَّ
 بِحَقِّ هٰذَا الْقُرْآنِ وَبِحَقِّ مَنْ اَرْسَلْتَهُ بِهِ
 وَبِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فِيْهِ وَبِحَقِّكَ
 عَلَيْهِمْ فَلَا اَحَدًا اَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ
 پس دس مرتبہ کہے يَا اللّٰهُ دس مرتبہ بِمُحَمَّدٍ دس مرتبہ
 بِعَلِيٍّ دس مرتبہ بِفَاطِمَةَ دس مرتبہ بِالْحَسَنِ
 دس مرتبہ بِالْحُسَيْنِ دس مرتبہ بِعَلِيِّ ابْنِ الْحُسَيْنِ
 دس مرتبہ بِمُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيٍّ دس مرتبہ بِجَعْفَرِ

ابنِ مُحَمَّدٍ دس مرتبہ بِمُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ دس مرتبہ
 بِعَلِيِّ ابْنِ مُوسَى دس مرتبہ بِمُحَمَّدِ ابْنِ عَلِيٍّ
 دس مرتبہ بِعَلِيِّ ابْنِ مُحَمَّدٍ دس مرتبہ بِأَحْسَنِ
 ابْنِ عَلِيٍّ دس مرتبہ بِأَلْحَجَّةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَرَّمَ

پس جو حاجت رکھتا ہے طلب کرے اور زیارتِ امام حسین علیہ السلام
 ان تینوں شبوں میں سنتِ مؤکدہ ہے اور ہر شب میں خصوصاً ۲۳ ویں

شب میں اتنا رکعت نماز پڑھنا سنت ہے اور ہر دو رکعت کے بعد
 سلام کرے۔ ہر رکعت میں بعد سورۃ حمد ایک مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

پڑھے۔ اگر نماز ہائے قضا عمری ہوں تو بہتر ہے کہ اُن کو ادا کرے اور

انیسویں شب کے مخصوص اعمال یہ ہیں کہ سو مرتبہ کہے اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
 سَائِبًا وَآتُوبُ إِلَيْهِ اور سو مرتبہ اللَّهُمَّ الْعَن
 قَتْلَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

انیسویں شب کے اعمال میں دعائے ہر شب کے علاوہ سورۃ

عنکبوت اور ۲۳ ویں شب سورۃ روم پڑھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ

۲۳ ویں شب کو ہزار بار سورۃ قدر پڑھے اور سورۃ الحکم و دخان اور جو شکر کبیر

اور دعائے صحیفہ کا ملہ بھی اس شب میں پڑھنا سنت ہے۔

نمازِ عیدین

نیت : دو رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ پڑھتا ہوں ، سنت
قریباً اِلَى اللہ

پہلی رکعت میں سورۃ حمد کے بعد یہ سورۃ پڑھے :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الّٰعْلٰی ۝ الَّذِیْ خَلَقَ

تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے بڑی ہے جس نے پیدا کیا

فَسَوّٰی ۝ وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی ۝

پھر ٹھیک بنایا اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر راہ دکھائی

وَالَّذِیْ اَخْرَجَ الْمَرْعٰی ۝ فَجَعَلَهُ غُثًا اَحْوٰی ۝

اور جس نے اگایا چارا پھر کر دیا اس کو خشک چورا سیاہ

سَنُقْرِعُكَ فَلَا تَنْسٰی ۝ اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۝ ط

البتہ ہم پڑھا دیں گے آپ کو پھر آپ نہ بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے

اِنَّہٗ یَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا یَخْفٰی ۝ وَنُیَسِّرُکَ

بیشک وہ جانتا ہے ہر ظاہر اور مخفی بات کو اور تم آسان کر دینگے آپ پر

لِّلْيَسْرَىٰ ۖ فَذَكَرْنَاكَ إِن تَفَعْتَ الذِّكْرَىٰ ۝

چلنا آسان طریقہ پر پس آپ نصیحت کیجئے اگر نفع دے نصیحت

سَيَذَكَّرُكَ مِنْ يَخْشَىٰ ۖ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ ۝

نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے اور الگ ہے گا اس سے بڑا بد نصیب

الَّذِي يُصَلِّي النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۖ ثُمَّ لَا يَمُوتُ

جو داخل ہوگا سخت آگ میں پھر نہ تودہ مرے گا

فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۖ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۝

اس میں اور نہ جیے گا بیشک کامیاب ہوا جو پاک رہا

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۖ بَلْ تُؤْثِرُونَ

اور یاد کیا نا اپنے رب کا پھر نماز پڑھی بلکہ تم تو ترجیح دیتے ہو

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةَ خَيْرًا ۚ لَبِئْسَ

زندگی دنیا کو حالانکہ آخرت کہیں بہتر اور زیادہ پائیدار ہے

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۖ صُحُفٍ

بیشک یہی ہے پہلے صحیفوں میں (یعنی)

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۝

ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں

دوسری رکعت میں سورۃ حمد کے بعد یہ سورۃ پڑھے :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَّهَا ۝

شمس سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے

وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّهَا ۝ وَاللَّیْلِ اِذَا یَغْشَاهَا ۝

اور دن کی جب وہ اس کو روشن کرے اور رات کی جب کہ وہ اس کو ڈھانپے

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۝ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ۝

اور آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا

اور جان کی اور اس کی جس نے اسے درست کیا پس اسے بتادی اس کی نافرمانی

وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ

اور اس کی پرہیزگاری کہ کامیاب ہوا وہی جس نے اسے پاک رکھا اور

خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝

مخرد رہ وہی جس نے اس کو ناپاک رکھا جھٹلایا تھا ثمود نے اپنی سرکشی سے

اِذِ اتَّبَعَتْ اَشْقَاهَا ۝ فَقَالَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ

جب کہ انھان میں کا بڑا بد بخت پس کہا ان سے اللہ کے رسول نے (کہنچو)۔

نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقَّيْهَا ۝ فَكَذَّبُوْهَا فَفَعَرَوْهَا ۝

الشکی اونٹنی اور اسکی پانی پینے کی باری (سے)۔ پس انھوں نے جھٹلایا اس کو پھر کاٹ ڈالا اسکو

فَدُمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۝

تو ہلاکت نازل کی ان پر ان کے رب نے ان کے گناہوں کے بدلے پھر برابر کر دیا ان کو

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۝

اور وہ نہیں ڈرتا اس کے انجام سے

پہلی رکعت میں ۵ تکبیریں کہہ کر ۵ قنوت پڑھے۔ دوسری رکعت میں ۴ تکبیریں

کہہ کر ۴ قنوت پڑھے۔ ہر تکبیر کے بعد حسب ذیل دعائے قنوت پڑھے:

اللَّهُمَّ أَهْلَ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعِظَمَةِ وَأَهْلَ

لے اللہ! بڑائیوں اور عظمت والے،

الْجُودِ وَالْجَبْرُوتِ وَأَهْلَ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ

سخاوت اور ہیبت والے، بخشش اور رحمت والے

وَأَهْلَ التَّقْوَى وَالْمَغْفِرَةِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ

تقویٰ اور بخشش والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں

هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا

اس دن کے واسطے جس کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید بنایا

وَلِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ذُخْرًا

اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ذخیرہ

وَشَرَفًا وَكَرَامَةً وَمَزِيدًا أَنْ تَصَلِّيَ عَلَيَّ

شرف بزرگی اور اضافہ (اجر) کا ذریعہ قرار دیا کہ تو رحمت نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُدْخِلَنِي فِي

محمدؐ و آل محمدؐ پر اور مجھے ہر اس بھلائی میں داخل

كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ

فرما جس میں تو نے محمدؐ و آل محمدؐ کو داخل کیا

وَأَنْ تُخْرِجَنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ

اور مجھے ہر اس برائی سے نکال دے جس سے تو نے

مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتِكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

حضرت محمدؐ و آل محمدؐ کو نکالا آپ پر اور ان سب پر تیری رحمت ہو

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلْتُكَ بِهِ

اے اللہ! میں تجھ سے اس افضل شے کا سوال کرتا ہوں جس کا

عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ

تیرے صالح بندوں نے سوال کیا اور تجھ سے ایسی چیزوں کی معافی چاہتا ہوں

مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلِصُونَ

جن سے تیرے مخلص بندوں نے معافی چاہی۔

وَجَهَّتْ وَجْهِي لِلذِّعَى

دُعَاۃٓ قَرَابَانِ

میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا جس نے

فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا

آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ہر شے سے بے تعلق اور فرماں بردار بن کر

وَمَا آتَانَا مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي

اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں بے شک میری نماز اور میری عبادتیں

وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا

اور میری زندگی اور میری موت۔ جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے ہے جس کا

شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرماؤں برداروں میں سے ہوں

اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

اے اللہ تیری طرف سے اور تجھے ہی لیے۔ اللہ کے نام سے اور اللہ بزرگ تر ہے

کہہ کر ذبح کہے۔ اس کے بعد اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي کہے اور اگر

چند آدمیوں نے مل کر قرآنی کی تو اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا کہے۔ اگر

کسی دوسرے شخص کی طرف سے ہے تو اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْهُ کہے۔

اگر کئی افراد کی طرف سے ہے تو اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْهُمْ بہتر ہے

کہ هُمْ يَا مَنَّا کی جگہ ان لوگوں کا نام لیا جائے جن کی طرف

سے قرآنی ہے۔

﴿ کیا میں حق زہرا (خمیس) ادا کر رہا ہوں؟ ﴾

دُعائے یوم عاشورہ

سلامتی سال کے لیے یہ دُعا عاشورہ کے دن دس مرتبہ پڑھی جاتے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْحُسَيْنِ وَجَدِّهِ

يا الله! میں تجھ سے امام حسین (علیہ السلام)، ان کے نانا،

وَأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَخِيهِ فَرِّجْ عَنِّي مَا أَنَا فِيهِ

ان کے والد، ان کی والدہ اور ان کے بھائی کے حق کا واسطہ دیکر دعا کرتا ہوں کہ میں جس

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

حالت میں ہوں اس سے نجات دے۔ تیری رحمت کا واسطہ لے ارحم الراحمین

برائے سلامتی سال

یہ دُعا بھی عاشورہ کے دن دو مرتبہ پڑھی جاتے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

يا الله! رحمت نازل فرما محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور آل محمد پر

وَسَلِّمْ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

اور سلام ہو تمام انبیاء و مرسلین پر

سُبْحَانَ اللَّهِ مَلَأَ الْمِيزَانَ وَمُنْتَهَى الْعِلْمِ

”سبحان اللہ“ ترازو کی پوری تول علم کی انتہا

وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَرِزْنََةَ الْعَرْشِ وَسَعَةَ الْكُرْسِيِّ

(اللہ کی) رضا کی آخری حد، عرش کے وزن اور کرسی کی وسعت کے برابر

لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ

نہ کوئی جگہ نہ کوئی نجات کا ٹھکانہ سوائے اللہ کی ذات کے

سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

” سبحان اللہ “ شفع و وتر،

وَعَدَدَ كَلِمَاتِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا

کلماتِ تامات کے اعدادِ کامل کے برابر

أَسْأَلُهُ السَّلَامَةَ بِرَحْمَتِهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

میں اللہ کی رحمت سے سلامتی کا سوال کرتا ہوں کوئی قوت و طاقت

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَهُوَ حَسْبِي

اللہ کے سوا نہیں ہے وہ بلند اور عظمت والا ہے وہ (اللہ) میرے لیے کافی ہے

وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

اور وہ بہترین کارساز ہے وہ بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

اور اللہ نے رحمت نازل فرمائی محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ان کی اولاد پر

وَسَلَّمَ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

اور سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر

وَاقْضِ حَاجَاتِي اللَّهُمَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

اور میری حاجتوں کو دنیا و آخرت میں پورا فرما

وَطَوَّلْ عُمُرِي فِي طَاعَتِكَ وَرِضَالِكَ

اور اپنی اطاعت اور رضا جوئی میں میری عمر لمبی کر دے

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

تجھے تیری رحمت کا واسطہ لے کر ارحم الراحمین !

زیارت وارث

عاشور کا دن ختم ہوتے وقت یہ زیارت پڑھیں

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ آدَمَ صِفْوَةِ اللَّهِ

آپ پر سلام لے حضرت آدم صفی اللہ کے وارث

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِيِّ اللَّهِ

آپ پر سلام لے حضرت نوح نبی اللہ کے وارث

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ

آپ پر سلام لے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے وارث

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ

آپ پر سلام لے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے وارث

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عِيسَى رُوحِ اللَّهِ

آپ پر سلام لے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے وارث

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ حَبِيبِ اللَّهِ

آپ پر سلام لے محمد مصطفیٰ حبیب خدا کے وارث

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

آپ پر سلام لے امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کے وارث

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَارِثَ الْحَسَنِ

آپ پر سلام لے رسول اللہ کے نواسے

الشَّهِيدِ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ

حسن شہید کے وارث

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنَ الْبَشِيرِ التَّذِيرِ

آپ پر سلام لے فرزند بشیر و تذیر ،

وَابْنِ سَيِّدِ الْوَصِيَّيْنَ

فرزند سردار اوصیاء

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَنَ فَاطِمَةَ الزُّهْرَاءِ

آپ پر سلام لے فرزند فاطمہ زہراء

سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

جو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

آپ پر سلام لے ابو عبد اللہ

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَيْرَةَ اللَّهِ وَأَبْنَ خَيْرَتِهِ

آپ پر سلام لے پسندیدہ خدا و فرزند پسندیدہ خدا

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَأْسَ اللَّهِ وَأَبْنَ ثَأْسِهِ

آپ پر سلام لے خون بہائے خدا و فرزند خون بہائے خدا

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْوِثْرُ الْمَوْثُورُ

آپ پر سلام لے وہ ذات جس کے خون کا بدلہ باقی ہے

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْإِمَامُ الْهَادِي الرَّكِيُّ

آپ پر سلام لے امام ہادی پاک

وَعَلَى أَسْرَاجِ حَلَّتْ بِفِنَائِكَ وَأَقَامَتْ

اور ان روحوں پر (سلام) جو آپ کے حضور میں حاضر اور آپ کے پڑوس

فِي جَوَارِكِ وَوَفَدَتْ مَعَهُ شُرَاؤِرِكَ

میں آکر ٹھہریں اور آپ کے زواروں کے ساتھ آئیں

السَّلَامُ عَلَيْكَ مِثِّي مَا بَقِيْتُ وَبَقِيَ السَّيْلُ وَالنَّهَارُ

میرا سلام ہو آپ پر جب تک میں باقی ہوں اور دن رات باقی ہیں

فَلَقَدْ عَظُمَتْ بِكَ الرَّزِيَّةُ وَجَلَّ الْمَصَابُ

آپ کی مصیبت اور آپ کا غم

فِي الْمُؤْمِنِينَ وَفِي الْمُسْلِمِينَ وَفِي أَهْلِ

اہل ایمان پر اور مسلمانوں پر اور تمام

السَّمَوَاتِ أَجْمَعِينَ وَفِي سَكَّانِ الْأَرْضِينَ

آسمان والوں اور تمام زمین کے مکینوں پر بہت سخت ہوا

فَاتَا اللَّهَ وَآتَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

آتا اللہ و آتا الیہ راجعون

وَصَلَوَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَتَحِيَّاتُهُ عَلَيْكَ

اور اللہ کی رحمتیں، برکات اور تحیات ہوں آپ پر

وَعَلَىٰ آبَائِكَ الطَّيِّبِينَ الْمُنتَجِبِينَ

اور آپ کے طیب و منتجب آباؤ اجداد پر

وَعَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِمِ الْهُدَاةِ الْمَهْدِيَّيْنَ

اور آپ کی ہدایت کرنے والی اور ہدایت یافتہ اولاد پاک پر

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ رُوحِكَ

سلام ہو لے مولا! آپ پر اور ان سب پر، آپ کی روح پاک پر

وَعَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ وَعَلَىٰ تَرْبَتِكَ وَعَلَىٰ تَرْبَتِهِمْ

اور ان سب کی پاک ارواح پر، آپ کی تربت اور ان سب کی پاک تربتوں پر

اللَّهُمَّ لِقِهِمْ رَحْمَةً وَرِضْوَانًا وَرُوحًا وَرِيحَانًا

یا اللہ! ان سب کو اپنی رحمت و رضا، راحت و مسرت سے مہراز فرما

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

آپ پر سلام لے مولا! لے ابو عبد اللہ

يَا بْنَ خَاتِمِ التَّيْبِينَ وَابْنَ سَيِّدِ الْوَصِيِّينَ

اے فرزند خاتم الانبیاء اے فرزند سید الاوصیاء

وَيَا بْنَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعُلَمَاءِ

اے تمام عورتوں کی سردار خاتون کے فرزند

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهِيدُ يَا بْنَ الشَّهِيدِ

آپ پر سلام اے شہید، شہید کے فرزند،

يَا اخَا الشَّهِيدِ يَا ابا الشُّهَدَاءِ

شہید کے بھائی، شہیدوں کے والد

اللَّهُمَّ بَلِّغْهُ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي هَذَا الْيَوْمِ

یا اللہ! امام کو میری طرف سے اسی گھڑی، آج ہی کے دن

وَفِي هَذَا الْوَقْتِ وَفِي كُلِّ وَقْتٍ تَحِيَّةً كَثِيرَةً وَسَلَامًا

اسی وقت بلکہ ہر وقت بکثرت سلام اور تحیات پہنچانے

سَلَامٌ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَةٌ مِنْ اللَّهِ وَبَرَكَاتٌ

آپ پر اللہ کا سلام اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں

يَا بْنَ سَيِّدِ الْعُلَمَاءِ وَعَلَى الْمُسْتَشْهِدِينَ مَعَكَ

اے تمام جہانوں کے سردار کے فرزند اور آپ کے ساتھ شہید ہونے والوں پر (سلام)

سَلَامًا مُتَّصِلًا مَا اتَّصَلَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

یہ سلام یوں لگاتا رہے جس طرح رات اور دن کا تسلسل

السَّلَامُ عَلَى الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيٍّ الشَّهِيدِ

حسین ابن علی شہید پر سلام

السَّلَامُ عَلَى عَلِيٍّ ابْنِ الْحُسَيْنِ الشَّهِيدِ

فرزند امام حسین شہید پر سلام

السَّلَامُ عَلَى عَبَّاسِ ابْنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّهِيدِ

عباس ابن امیر المؤمنین شہید پر سلام

السَّلَامُ عَلَى الشُّهَدَاءِ مِنْ وُلْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

اولاد امیر المؤمنین کے شہیدوں پر سلام

السَّلَامُ عَلَى الشُّهَدَاءِ مِنْ وُلْدِ الْحَسَنِ

اولاد امام حسن کے شہیدوں پر سلام

السَّلَامُ عَلَى الشُّهَدَاءِ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِ

اولاد امام حسین کے شہیدوں پر سلام

السَّلَامُ عَلَى الشُّهَدَاءِ مِنْ وُلْدِ جَعْفَرٍ وَعَقِيلِ

اولاد جعفر و عقیل کے شہیدوں پر سلام

السَّلَامُ عَلَى كُلِّ مُسْتَشْهِدٍ

امام عالی مقام کے ساتھ جو شہید ہوئے

مَعَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

ان تمام مومنوں پر سلام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

یا اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور آل محمد پر رحمت ہو

وَبَلِّغْهُمْ عَنِّي تَحِيَّةً كَثِيرَةً وَسَلَامًا

ان سب پر میری طرف سے بہت بہت تحیات و سلام ہوں

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْسَنَ اللَّهُ

آپ پر سلام یا رسول اللہ! اللہ آپ کے

لَكَ الْعِزَّاءُ فِي وَلَدِكَ الْحُسَيْنِ

فرزند حسین کا غم آپ کے لیے قابل برداشت بنائے

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا فَاطِمَةَ أَحْسَنَ اللَّهُ

آپ پر سلام اے فاطمہ زہرا اللہ آپ کے

لَكَ الْعِزَّاءُ فِي وَلَدِكَ الْحُسَيْنِ

فرزند حسین کا غم آپ کے لیے قابل برداشت بنائے

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَحْسَنَ اللَّهُ

آپ پر سلام اے امیر المؤمنین اللہ آپ کے

لَكَ الْعِزَّاءُ فِي وَلَدِكَ الْحُسَيْنِ

فرزند حسین کا غم آپ کے لیے قابل برداشت بنائے

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ أَحْسَنَ اللَّهُ

آپ پر سلام اے ابو محمد حسن مجتبیٰ اللہ آپ کے

لَكَ الْعَزَاءُ فِي أَخِيكَ الْحُسَيْنِ

بھائی حسین کا غم آپ کے لیے قابل برداشت بنائے

يَا مَوْلَايَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنَا ضَيْفُ اللَّهِ

میرے مولا! اے ابو عبد اللہ! میں اللہ کا مہمان

وَضَيْفُكَ وَجَارُ اللَّهِ وَجَارُكَ وَلِكُلِّ ضَيْفٍ

اور آپ کا مہمان ہوں میں اللہ کے حضور اور آپ کے حضور میں ہوں اور مہمان

وَجَارٍ مَقْرَى وَقَرَأَى فِي هَذَا الْوَقْتِ

اور حاضر باش کا حق مہمانی ہوتا ہے اور میرا حق مہمانی اس وقت یہ ہے

أَنْ تَسْأَلَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَرْزُقَنِي

کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے

فَكَأَنَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ إِنَّهُ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرے۔ بیشک دعا کا بہت سننے والا

قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ط

صاحب قرب اور قبول کرنے والا ہے

زندگانی کرو علی کی طرح

جان سے گزرو حسین کی مانند

(استرار عظیمی)

نماز آیات

یہ نماز چاند اور سورج کو گرہن لگنے سے یا زلزلہ یا سُرخ آندھی، شدید تاریکی، غیر معمولی برق و رعد اور تمام حوادثِ آسمانی سے واجب ہوتی ہے جو عموماً باعثِ خوف ہوں، خواہ وہ شخص خود نہ دُڑے۔ چاند گرہن اور سورج گرہن کی نماز کا وقت گرہن کے شروع سے بالکل چھوٹ جانے تک ہے۔ بلکہ احتوط یہ ہے کہ اتنی تاخیر نہ کرے کہ چھوٹنا شروع ہو جائے اور زلزلہ اور دیگر آسمانی حوادث جو خوفناک ہوں ان کی نماز آخر عمر تک ادا کرنے کی نیت سے ہوگی۔

چاند گرہن اور سورج گرہن سے اگر بروقت مُطَّلَع ہو گیا ہو اور عمدًا یا سہواً نماز نہ پڑھی ہو تو اس کی قضا بجالانا واجب ہوگی، اگرچہ پورا گرہن نہ ہو۔ لیکن اگر بالکل چھوٹ جانے تک مطلع نہ ہوا ہو بلکہ بعد میں اطلاع ہوئی تو پورا پورا گرہن ہو تو قضا بجالانا واجب ہوگی ورنہ قضا نہ ہوگی اور نماز آیات کو جماعت کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔

یہ نماز دو رکعت ہے۔ پہلی رکعت میں پانچ رکوع، دو قنوت اور

دوسرے اور دوسری رکعت میں پانچ رکوع، تین قنوت اور دو سجدے ہیں۔
تفصیل اس کی یوں ہے کہ نماز کی نیت کرے مثلاً سورج گرہن کی نماز پڑھتا /
پڑھتی ہوں اور ساتھ ہی تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر کہے۔ اس کے بعد سورۃ الحمد
اور ایک دوسرا سورہ جو یاد ہو پڑھے دعائے قنوت پڑھے اور اللہ اکبر کہہ کر
ذکر رکوع کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پھر کھڑا ہو اور سورۃ الحمد اور جو سورۃ چاہے پڑھے
اور دعائے قنوت پڑھے اور اللہ اکبر کہہ کر دوسرے رکوع میں جائے۔ ذکر رکوع
کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پھر کھڑا ہو اور سورۃ الحمد اور جو سورۃ چاہے پڑھے اور اللہ اکبر
کہہ کر تیسرے رکوع میں جائے۔ ذکر رکوع کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پھر کھڑا ہو اور سورہ
الحمد اور کوئی دوسرا سورہ جو یاد ہو پڑھے اور دعائے قنوت پڑھے اور اللہ اکبر کہہ کر
چوتھے رکوع میں جائے۔ ذکر رکوع کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پھر کھڑا ہو اور اسی طرح
سورہ الحمد اور دوسرا سورہ پڑھے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر پانچواں رکوع کرے۔ ذکر
رکوع کے بعد اللہ اکبر کہہ کر پھر کھڑا ہو اور سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
کہہ کر سجدے میں جائے۔ دو سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لئے اٹھ
کھڑا ہو اور اسی طریق میں دوسری رکعت پانچ رکوعات کے ساتھ بجالائے

اور سجدے اور تشهد اور سلام پڑھ کر نماز ختم کرے۔ دوسری رکعت میں پہلے رکوع میں جانے سے پہلے، تیسرے رکوع میں جانے سے پہلے اور پانچویں رکوع میں جانے سے پہلے دغائے قنوت پڑھے۔ اس حساب سے دونوں رکعتوں میں دس رکوع ہو جائیں گے۔ نماز آیات کی یہ صورت دوسری صورتوں سے افضل ہے۔

ایک اور طریق سے بھی نماز آیات پڑھنا جائز ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ کے قصد سے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کہے اور سجدے میں جائے۔ ذکر رکوع کے پھر سیدھا کھڑا ہو کر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کہہ کر رکوع میں جائے۔ پھر کھڑے ہو کر اللَّهُ الصَّمَدُ کہے اور رکوع میں جائے۔ پھر کھڑا ہو کر لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ کہے اور رکوع میں جائے۔ پھر سیدھا کھڑا ہو کر وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا أَحَدٌ کہہ کر رکوع میں جائے۔ پھر سیدھا کھڑے ہو کر سجدے میں جائے۔ دونوں سجدے بجا کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اسی طریق سے دوسری رکعت بجالائے اور تشهد اور سلام پڑھ کر نماز تمام کرے۔

نماز حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

روایت میں ہے کہ جو شخص اس نماز کو بجالائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، وہ جو بھی حاجت طلب کرے وہ روا ہوگی۔ یہ نماز دو رکعت ہے۔ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد اور سورۃ القدر سومرتبہ، پھر رکوع میں سورہ القدر پندرہ مرتبہ، پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پندرہ مرتبہ، پھر سجدہ اول میں پندرہ مرتبہ، پھر سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد پندرہ مرتبہ، پھر سجدہ دوم میں پندرہ مرتبہ پڑھے۔ اسی ترکیب سے دوسری رکعت بجالا کر تشهد و سلام پڑھ کر نماز ختم کرے اور یہ دعا پڑھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّ آبَائِنَا الْأَوْلِيَّينَ

نہیں لائق عبادت سوائے اللہ کے جو ہمارا اور ہمارے پہلے آباء کا پروردگار ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْهَآءُ أَحَدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

نہیں لائق عبادت سوائے اللہ معبود واحد کے اور ہم اسے تسلیم کرنے والے ہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ

نہیں لائق عبادت سوائے اللہ کے ہم اسی کی خاص عبادت کرتے ہیں

لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا

وہی مالکِ جزا ہے اگرچہ مشرکین کو ناگوار ہو نہیں لائقِ عبادت سوائے

اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ

اللہ ایک کے، وہ ذاتِ یکتا جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اپنے بندے کی مدد کی

وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. فَلَهُ

اپنے لشکر کو غلبہ عطا کیا اور گروہوں کو ایسے شکست دی اسی کی

الْمَلِكِ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

حکمرانی ہے اور اسی کے لیے ہر خوبی ہے اور وہ ہر شے پر قدرت در ہے

اللَّهُمَّ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ

اے اللہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کو منور کرنے والے

فَلَكَ الْحَمْدُ وَأَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ

تیرے لیے ہر خوبی ہے تو برحق ہے تیرا وعدہ برحق ہے تیرا فرمان

الْحَقُّ وَإِنْ جَاذَكَ حَقُّ الْجَنَّةِ حَقٌّ وَالنَّارِ حَقٌّ

برحق ہے جنت برحق ہے اور جہنم برحق ہے

اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ

اے اللہ میں نے تجھے تسلیم کیا تجھ پر ایمان لایا تجھ پر نہیں نے بھروسہ کیا

وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ يَا رَبِّ

تیرے لیے دشمنی کی اور تجھے حاکم تسلیم کیا اے پروردگار

يَا رَبِّ يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ

اے پالنے والے اے اللہ میرے اگلے پیچھے

وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ

ظاہر و پوشیدہ سب گناہ مجھے معاف کرنے تو میرا معبود ہے لائق عبادت

إِلَّا أَنْتَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

سوائے تیرے کوئی نہیں محمد و آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر رحمت کاملہ فرما

وَاعْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ

اور مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھ پر نظرِ کرم فرما۔ بیشک تو

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

بہت توبہ قبول کرنے والا ہے

حضرت علیؑ نے فرمایا

”طلوعِ فجر سے لے کر طلوعِ شمس تک مسجد میں بیٹھ کر

اللہ سبحانہ کا ذکر کرنا رزق کی فراہمی کے لیے زمین کے

اطراف میں گردش کرنے سے زیادہ تیز تر ہے۔“

نماز حضرت جعفر طیار علیہ السلام

یہ نماز اکسیر اعظم اور کبریتِ احمر کا حکم رکھتی ہے اور کثیر و معتبر روایات سے اس کی بے حد فضیلت و عظمت بیان ہوئی ہے۔ اُمتِ معصومین علیہم السلام سے منقول ہے کہ جو شخص اس نماز کو بجالائے خداوندِ عالم اس کے گنہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ اس نماز کے بجالانے کا افضل وقت روزِ جمعۃ المبارک ہے۔

یہ نماز چار رکعت بہ دو سلام ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ پہلی رکعت

میں سورہ الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ الزال

سُورَةُ الزُّلْزَالِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ رحمن و رحیم کے نام سے

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زُلْزَالَهَا ۙ وَاخْرَجَتْ

جگہ زمین سخت زلزلے سے ہلائی جلتے گی اور زمین

الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ

اپنے بوجھ بحال دے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے

يَوْمٍ مِّنْ تَحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ

اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ تیرے پروردگار نے اسے

لَهَا ۚ يَوْمٍ مِّنْ يَّصُدُّ النَّاسَ أَسْتَاتَاهُ ۗ

حکم دیا ہوگا اس دن لوگ مجھ (قبروں سے) نکل پڑیں گے

لِّيُرُوا أَعْمَالَهُمْ ۗ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھادیے جائیں پس جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا

خَيْرًا يَّرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

وہ اسے دیکھ لے گا اور جو کوئی ذرہ بھرا برائی کرے گا

شَرًّا يَّرَهُ ۗ ۝ اور دہوی رکعت میں الحمد کے بعد ایک سورہ العاديات

وہ اسے دیکھ لے گا

سُورَةُ الْعَادِيَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ رحمن و رحیم کے نام سے

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۚ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا ۚ

قسم ہے تیز دوڑنے والے بانیتے ہوئے گھوڑوں کی پھر پتھر پر گھم مار کر چنگاریاں نکالنے والوں کی

فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ۚ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ۚ

پھر صبح کے وقت غارت کرنے والوں کی پس انھوں نے اسکے ساتھ غبار اٹھایا

فَوَسَّطْنَا بِهِ جَمْعًا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ

پھر انھوں نے (کافروں کے) ایک گروہ کو درمیان میں لے لیا۔ یقیناً انسان اپنے رب کے لیے

لَكَنُودٌ ۚ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ ۚ وَإِنَّهُ

البتہ ناشکر ہے اور یقیناً وہ اس پر البتہ گواہ بھی ہے اور یقیناً وہ

لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۚ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا

مال کی محبت میں البتہ سخت ہے پھر کیا وہ نہیں جانتا جبکہ

عُدَّتْ مَأْوَى الْقُبُورِ ۚ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۚ

جو کچھ قبروں میں ہے نکالا جائے گا اور جو کچھ سینوں میں ہے مہل کر لیا جائے گا

إِنَّ رَبَّهُم بِمَا يَكْفُرُونَ لَشَدِيدٌ ۚ تَبٰرَكَ الَّذِي يَدْعُو

یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی پوری پوری خبر رکھنے والا ہوگا بعد سورۃ النصر ایک بار

سُورَةُ النَّصْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ رحمن درحیم کے نام سے

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۚ وَرَأَيْتَ النَّاسَ

جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آئے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ

يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۚ فَسَبِّحْ

وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فوج فوج ہو کر داخل ہوتے ہیں پس آپ

بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرُكَ رَبَّنَا

حمد کے ساتھ اپنے پروردگار کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے یقیناً وہ

كَانَ تَوَابًا

بہت رجوع کرنے والا ہے

اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید ایک دفعہ پڑھے لیکن ہر ایک رکعت میں سورہ الحمد اور معین سورہ پڑھنے کے بعد ۱۵ دفعہ تسبیحاً اربعہ یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ پڑھے۔ پھر یہی تسبیحات دس مرتبہ رکوع میں، پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دس مرتبہ سجدۂ اولیٰ میں دس مرتبہ سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد دس مرتبہ سجدۂ ثانی میں دس مرتبہ، دوسرے سجدہ سے سر اٹھانے کے بعد دس مرتبہ پڑھے۔ اس طرح ہر رکعت میں ان تسبیحات کا مجموعہ پچھتر ہوگا۔ اس نماز کو ہفتے میں ایک تہہ ورنہ مہینے میں ایک بار پڑھنے کی تاکید آتی ہے

نماز جناب امیر المؤمنین علیؑ

جناب شیخ و تیر نے جناب صادق آل محمد علیہ السلام سے روایت

کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو چار رکعت نماز امیر المؤمنین علیہ السلام بجالائے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ روزِ پیدائش پاکیزہ تھا۔ اور اس کی تمام حاجتیں برآتی ہیں۔ یہ نماز چار رکعت ہے جو دو دو کر کے پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد سورۃ توحید پچاس مرتبہ پڑھے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد تسبیح امیر المؤمنین پڑھے اور وہ یہ ہے

سُبْحَانَ مَنْ لَا تَبِيدُ مَعَالِمُهُ سُبْحَانَ

پاک ہے وہ ذات جس کے آثار نہیں مٹتے پاک ہے وہ ذات

مَنْ لَا تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ سُبْحَانَ مَنْ لَا

جس کے خزانے کم نہیں ہوتے پاک ہے وہ ذات جس کی

اضْمِحْلَالٍ لِفَخْرِهِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْفَدُ مَا

کبریائی میں کمزوری نہیں پاک ہے وہ ذات جس کے ذخیرے

عِنْدَهُ سُبْحَانَ مَنْ لَا انْقِطَاعَ لِمُدَّتِهِ

ختم نہیں ہوتے پاک ہے وہ ذات جس کی مدت ختم نہیں ہوتی

سُبْحَانَ مَنْ لَا يُشَارِكُ أَحَدًا فِي أَمْرِهِ

پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی شریک کار نہیں

سُبْحَانَ مَنْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ط

پاک ہے وہ ذات جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں

نماز استغاثہ بحضور فاطمہ مہرا سلام اللہ علیہا

پیشکش کے حل کے لیے دو رکعت نماز ادا کرنے کے بعد تسبیح جناب زہراء
 پڑھیں۔ اس کے بعد سجدے میں سر رکھ سو مرتبہ کہیں **يَا مَوْلَايَ قُ**
يَا فَاطِمَةَ اَخْتِي نِي پھر دائیں طرف سجدے میں سر رکھ کر
 سو دفعہ یہی ذکر پڑھیں۔ پھر سیدھا سجدہ گاہ پر سر رکھ کر سو دفعہ یہی ذکر پڑھے۔ پھر
 بائیں طرف سجدہ گاہ پر سر رکھ کر سو دفعہ یہی ذکر پڑھے۔ پھر سیدھا سر رکھ کر یہی
 ذکر دو سو ^(۲۱۰) مرتبہ پڑھیں۔ پھر جو حاجتیں ہیں وہ اللہ سے مانگیں، انشاء اللہ
 پوری ہوں گی

نماز مغفرت

جناب صادق آل محمد علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص دو رکعت نماز
 اس ترکیب سے بجالاتے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید ساٹھ مرتبہ تو اللہ تعالیٰ
 اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔

نماز حضرت فاطمہ الزہرا علیہا السلام

روایت میں ہے کہ نماز جناب سیدہ دو رکعت ہے جو حضرت جبرئیل نے تعلیم فرمائی تھی۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد سو مرتبہ سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد سو مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے۔

سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ الشَّامِخِ الْمُنِيفِ سُبْحَانَ

پاک ہے وہ ذات جو عزت و بلندی اور شرافت و بزرگی کی حامل ہے پاک ہے

ذِي الْجَلَالِ الْبَازِخِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ ذِي

وہ ذات جو صاحب جلال و عظمت ہے پاک ہے وہ ذات جو

الْمُلْكِ الْفَاخِرِ الْقَدِيمِ سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ

فخر و قدامت والا حکمان ہے پاک ہے وہ ذات جو

الْبَهْجَةِ وَالْجَمَالِ سُبْحَانَ مَنْ تَرَدَّى

صاحب شان و جمال ہے پاک ہے وہ ذات جو

بِالنُّورِ وَالْوَقَارِ سُبْحَانَ مَنْ يَرَىٰ أَثَرَ الْعَمَلِ

صاحب نور و وقار ہے پاک ہے وہ جو پیغمبری کے نشان قدم

فِي الصَّفَا سُبْحَانَ مَنْ يَرَى وَقَعَ الظَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ

تک دیکھتا ہے پاک ہے وہ جو ہوا میں پرندوں کی بلند اڑان تک دیکھتا ہے

سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا لَا هَكَذَا أُخْرَى ط

پاک ہے وہ جو ایسا ہی ہے اور کوئی ایسا نہیں

سید علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ براویت دیگر مندرجہ بالا دعا کے بعد

مشہور تسبیح جناب سیدہ (۳۳۳ مرتبہ سبحان اللہ، ۳۳۳ مرتبہ الحمد للہ، ۳۳ مرتبہ

اللہ اکبر) پڑھے۔ اس کے بعد ۳ مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے۔

نماز امام زمانہ عجل اللہ فرجه

یہ نماز دو رکعت ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الحمد تلاوت کرتے وقت

جب آیہ رَاٰكَ نَعْبُدُ وَاٰتَاكَ نَسْتَعِينُ پڑھیں تو اسے سو مرتبہ

کہیں اور آخری مرتبہ سورۃ کو تمام کریں۔ اور اس کے بعد سورۃ توحید ایک مرتبہ

پڑھیں۔ دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے بجالائیں اور نماز ختم کرنے کے بعد

کھڑے ہو کر یہ دعا جو عجب سے پڑھیں۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ جملہ امور عظیمہ میں

کامیابی ہوگی۔ تصفیۃ قلب، تزکیۃ نفس، اطمینان، روحانیت و نورانیت کے درجہ پر فائز ہوں گے۔ یہ نماز عجیب و غریب اسرار کی حامل ہے۔ شبِ جمعہ آخر شب یہ نماز پڑھنی چاہیے۔ ورنہ ہر ایک شب پڑھی جاسکتی ہے۔

اللَّهُمَّ عَظُمَ الْبَلَاءُ وَبَرِحَ الْخَفَاءُ وَأَنْكَشَفَ

بَارِئًا! بلائیں بڑھ گئی ہیں گناہ جو پوشیدہ تھے ظاہر ہو گئے ہیں پردہ کھل

الْغَطَاءُ وَصَاقَتِ الْأَرْضُ بِمَا وَسِعَتِ السَّمَاءُ

گیا ہے اور زمین باوجود آسمان کی وسعت کے تنگ ہو گئی ہے

وَالْيَا إِلَهِي يَا رَبِّ الْمُسْتَكِي وَعَلَيْكَ الْمَعْوَلُ فِي

لے پالنے والے! تجھ سے اپنی شکایت کرتا ہوں اور تکلیف و مصیبت کے وقت

السُّدَّةِ وَالرِّخَاءِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ

تجھ سے ہی مدد کا خواستگار ہوں پروردگار! تو محمد و آل محمد پر اپنی

مُحَمَّدٍ الَّذِينَ أَمَرْتَنَا بِطَاعَتِهِمْ وَعَجَّلِ

رحمت کاملہ نازل فرما جن کی اطاعت کا ہمیں تو نے ہی حکم دیا ہے بارِ الہا! تو

اللَّهُمَّ فَزِّجْهُمْ بِقَائِمِهِمْ وَأَظْهِرْ أَعْزَاةَ

ان کے قائم (آل محمد) کے ساتھ ان کی کشائش میں معجز فرما اور ان کے اعزاز و منزلت کو ظاہر فرما

يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدُ كَفَيْانِي

اے محمد مصطفیٰ اور اے علی مرتضیٰ آپ حضرات میری کفایت فرمائیے

فَاتِكُمْ كَافِيَا يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ

یقیناً آپ کی کفایت میرے لیے کافی ہے اے محمد مصطفیٰ اور اے علیؑ

يَا مُحَمَّدُ انْصُرَانِي فَاتِكُمْ اَنْصُرَانِي

مرتبے میری نصرت فرمائیے کیونکہ آپ ہی میرے ناصر و مددگار ہیں

يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدُ احْفَظَانِي

اے محمد مصطفیٰ اور اے علیؑ مرتبے میری حفاظت کیجئے

فَاتِكُمْ حَافِظَايَا يَا مَوْلَايَا يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ

یقیناً آپ ہی میرے محافظ و معین ہیں اے میرے آقا و مولا اے شہنشاہِ زمانہ

يَا مَوْلَايَا يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ يَا مَوْلَايَا يَا صَاحِبَ

اے میرے آقا و مولا اے شہنشاہِ زمانہ اے میرے آقا و مولا اے

الزَّمَانِ الْغُوثِ الْغُوثِ الْغُوثِ اَدْرِكْنِي

شہنشاہِ زمانہ اے فریاد رس اے فریاد رس اے فریاد رس میری فریاد کو پہنچئے

اَدْرِكْنِي اَدْرِكْنِي الْاَمَانَ الْاَمَانَ الْاَمَانَ

میري نصرت، امداد کیجئے اور اپنی پناہ میں رکھیے تاکہ جمع آفات سے مامون رہوں

نماز ہدیہ والدین

حقیقت الامر یہ ہے کہ والدین کی فرماں برداری واجب اور ان کی

رضامندی و خوشنودی بہترین طاعات سے ہے۔ ان کو ناراض رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ پس لازم ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے لیے اعمال خیر بجالائے اور ان کی مغفرت و درجاتِ عالیہ کے لیے دُعا کرے اور نمازیں پڑھے۔ کم از کم ہر شب جمعہ والدین کے لیے دو رکعت نماز اس ترکیب سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور دس مرتبہ پڑھے۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

اے میرے پروردگار مجھے اور میرے والدین اور مومنین کو حساب کے دن معاف فرما

اور دوسری رکعت میں ایک بار سورہ الحمد اور دس مرتبہ پڑھے۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّْ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيْ

اے میرے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور جو میرے گھر میں داخل ہوا

مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

مومن ہو کر اور مومنین و مومنات سب کو بخش دے

نماز ختم کرنے کے بعد دس مرتبہ کہے۔

رَبِّ اَرْحَمِهِمَا كَمَا رَبَّيْنِيْ صَغِيْرًا

اے میرے پروردگار ان دونوں (میرے والدین) پر رحم فرما جنہوں نے مجھے چھوٹے سے کو پالا تھا

نماز غفیلہ

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز غفیلہ پجالائے اور طلب حاجت کرے تو خداوند عالم اس کی حاجات بر لائے گا۔ یہ نماز عزت و سلامتی کے گھر (یعنی جنت) کا وارث بناتی ہے۔ یہ نماز مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز ادا کرنا مغرب کی ۴ رکعت نافلہ میں شامل ہے۔ نماز غفیلہ کے بعد مزید دو رکعت نافلہ پڑھ لے تو یہ دونوں نماز ملا کر چار رکعت نافلہ مغرب پوری ہو جاتی ہے۔

ترکیب: یہ نماز دو رکعت ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ حمد کے بعد سورۃ الانبیاء کی درج ذیل آیات (نمبر ۸۷، ۸۸) پڑھے۔

وَذَا النُّونِ اِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ

اور پھلی سالے (یونس) کو جب کہ وہ چلا گیا غصہ میں آکر پس اس نے خیال کیا کہ

تَقْدِرْ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَّا اِلٰهَ

ہم اس کو پھرنے سکیں گے۔ پس اس نے پکارا اندھیروں میں کہ نہیں کوئی معبود۔

اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۙ اِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۝

سوائے تیرے پاک ہے تو۔ بیشک میں ہوا ظالم کرنے والوں میں سے

فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ

پس قبول کر لی جہنم نے اس کی دعا اور نجات دی جہنم نے اسے اس غم سے اور اسی طرح

نُجِّيَ الْمُؤْمِنِينَ ○

ہم نجات دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو

دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ الانعام درج ذیل آیت (نمبر ۵۹) پڑھے :

وَإِنَّمَا نَحْنُ بِمَعْرِضٍ وَإِنَّ الْغُيُوبَ لَا يَعْزُبُ عَنْهَا الْإِهُؤ

اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں ان کے بارے میں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ

اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اور نہیں پھرتا کوئی

وَرَقَةٍ إِلَّا أَيْعْلَمُهَا وَأَلْحَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ

پتہ مگر وہ اسے جانتا ہے اور نہ کوئی دانہ ہے زمین کے

الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي

اندر ہیوں میں ، نہ کوئی تر نہ خشک مگر وہ

كِتَابٍ مُّبِينٍ ○

کتاب مبین میں موجود ہے

پھر قنوت کے بعد رکوع اور سجدہ ادا کرے اور شہد و سلام پڑھ کر نماز

ختم کرے۔ قنوت میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا پڑھے :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَفَاتِحِ الْغَيْبِ الَّتِي

لے اللہ میں تجھ سے ان مفاتیح غیب کے ذریعہ سوال کرتا ہوں

لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ

جن کو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ تو رحمت نازل فرمائے

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا

محمدؐ و آل محمدؐ پر اور میرے ساتھ یہ معاملہ فرما

اللَّهُمَّ أَنْتَ وَرَبِّي نِعْمَتِي

یہاں حاجت مانگے

اور پھر یہ پڑھے :

لے اللہ! تو مجھے نعمتیں دینے والا ہے

وَالْقَادِرُ عَلَيَّ طَلِبَتِي تَعْلَمُ حَاجَتِي وَأَسْأَلُكَ

اور میرے مطالبہ پر قادر ہے میری حاجت کو جانتا ہے میں سوال کرتا ہوں

بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ

تجھ سے محمدؐ و آل محمدؐ (ان پر اور ان کی آل پر سلام ہو) کے حق کا واسطہ دے کر

لَمَّا قَضَيْتَهَا لِي

کہ تو میری حاجت کو پورا کر دے

اس کے بعد اپنی حاجت طلب کرے کیونکہ روایت میں ہے کہ جو

شخص اس نماز کو بجالاتے اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگے گا

خداوند عالم اسے عطا فرمائے گا۔

دُعائے توبہ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

بخشش چاہتا ہوں اس خدا سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں

الْحَيُّ الْقَيُّومُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

وہ زندہ ہے قائم رہنے والا ہے، بخشنے والا مہربان ہے

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

صاحبِ جلالت و اکرام ہے مجھے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے

وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

اور اس سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ رحمت نازل کرے محمدؐ و آل محمدؑ پر

وَأَنْ يَتُوبَ عَلَيَّ تَوْبَةً عَبْدٍ ذَلِيلٍ خَاضِعٍ

اور یہ کہ اس بندہ ذلیل کی توبہ کو قبول کرے جو عاجز

خَاشِعٍ فَقِيرٍ مُسْكِينٍ مُسْتَكِينٍ

خوف کھینوالا محتاج ہے نوازاری کرنے والا ہے

لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا مَوْتًا

اور جو اپنے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہے نہ کسی سود و زیان اور نہ موت و

وَلَا حَيَاةً وَلَا نَشُورًا

حیات اور نہ ہی دوبارہ زندہ ہونے کا

دُعائے بسم اللہ خیر الأسماء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

بِسْمِ اللّٰهِ خَیْرِ الْأَسْمَاءِ

اللہ کے نام سے جو بہترین نام ہے

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ

اللہ کے نام سے جو زمین و آسمان کا پروردگار ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یُضْرَمُ مَعَ اسْمِهِ سَمٌّ وَلَا دَاءٌ

اللہ کے نام سے جس کے نام کے بولتے ہوئے نہ کوئی زہر اثر کر سکتا ہے نہ مرض آسکتا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ أَصْبَحْتُ وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ

اللہ کے نام سے میں نے صبح کی اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں

بِسْمِ اللّٰهِ عَلَى قَلْبِیْ وَنَفْسِیْ

بسم اللہ میرے قلب و جان میں ہے

بِسْمِ اللّٰهِ عَلَى دِیْنِیْ وَعَقْلِیْ

بسم اللہ میرے دین اور عقل پر (لکھا) ہے

بِسْمِ اللّٰهِ عَلَى أَهْلِیْ وَمَالِیْ

بسم اللہ میرے بال بچوں اور میرے مال کا نقش ہے

بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی مَاۤ اَعْطٰنِيْ رَبِّيْ

بسم اللہ جو کچھ میرے پروردگار نے مجھے عطا کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّمَعَ اسْمُهُ شَيْءٌ

اوپر بسم اللہ جس کے ہوتے ہوئے زمین و آسمان کی کوئی چیز

فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی (اللہ) بہت سننے اور جاننے والا ہے

اللّٰهُ اللّٰهُ رَبِّيْ حَقًّا لَاۤ اَشْرِكُ بِهِ شَيْعًا

اللہ، اللہ، میرا رب اور حق ہے میں کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا

اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَعَزُّ

اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بڑی کبریائی کا مالک ہے وہ بہت طاقت

وَاَجَلُّ مِمَّاۤ اَخَافُ وَاَحْذَرُ عَزَّ جَارِكُ

اور بہت زیادہ شان والا ہے ہر اس سے جس سے میں خوف کھاتا اور ڈرتا ہوں

وَجَلَّ تَنَآوُكُ وَتَقَدَّسَتْ اَسْمَاؤُكَ وَلَاۤ اِلٰهَ غَيْرُكَ

اور تیرے نام بہت پاکیزہ ہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں

اللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ

یا اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنی ذات کے شر سے، ہر سخت گنہگار

كُلِّ سُلْطٰنٍ شَدِيْدٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّرِيْدٍ

حاکم کے شر سے ہر نام فرمان شیطان کے شر سے

وَمِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَمِنْ شَرِّ قَضَاءِ

ہر جابر مرکش کے شر سے ہر بڑے فیصلے کے

السُّوءِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا

شر سے اور ہر اس جاندار و متحرک مخلوق کے شر سے جس کی پیشانی (تقریر تیرے قبضہ میں ہے

إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ

بیشک تو صراطِ مستقیم کا مالک ہے اور تو ہی ہر چیز

شَيْءٍ حَفِيظٌ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ

کا محافظ ہے بیشک اللہ ہی والی و مولا ہے جس نے قرآن پاک

الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ فَإِنْ

نازل کیا ہے اور وہ نیک عمل لوگوں کو پسند کرتا ہے پھر اگر تم لوگ اس سے

تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

منہ موڑتے ہو تو (جیب) تم کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور وہ عرشِ عظیم کا پروردگار ہے

فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ

بہت جلد اللہ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہوگا اور وہی بہت سننے والا

الْعَلِيمُ وَالْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ

بہت جانتے والا ہے اور کوئی قوت و طاقت، بلند و برتر اللہ کے بغیر نہیں

الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ

اور اللہ نے رحمت کی اپنی مخلوق میں سب سے بہتر

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ان کی پاک اولاد پر

دُعَا بوقتِ صَبْحِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن ورحیم اللہ کے نام سے

تَحَصَّنْتُ بِذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ

میں نے ملک و ملکوت والے کے قلعہ (حفاظت) میں قلعہ نشینی حاصل کر لی

وَأَعْتَصَمْتُ بِذِي الْعِزِّ وَالْجُودِ وَالْجَبَرُوتِ

میں نے قوت و سخاوت والے سے وابستگی اختیار کر لی

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

میں نے اس ذاتِ زندہ پر بھروسہ کیا، جسے موت نہیں چھو سکتی

دَخَلْتُ فِي حِفْظِ اللَّهِ وَفِي حُرْمَةِ اللَّهِ وَفِي

میں اللہ کی حفاظت میں داخل ہو گیا، میں اللہ کی حرمت میں ہوں، اور

أَمَانِ اللَّهِ مِنْ شَرِّ الْبَرِيَّةِ أَجْمَعِينَ

اللہ کی امان میں ہوں تمام مخلوقات کے شر سے

كَلَيْعَصَ حَمَّ عَسَقٍ وَلَا حَوْلَ

کاف ایاع ص حامیم ع س ق اور کوئی قوت و

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللّٰهُ

طاقت نہیں ہے مگر بزرگ و بزرگ اللہ کے واسطے اور اللہ نے رحمت کی

عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ

اپنی بہترین مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر

دُعَاۓ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَمِنَ اللّٰهِ وَآلِی اللّٰهِ

اللہ کے نام سے اور اللہ کے سہائے اور اللہ سے شروع اور اللہ پر ختم

وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَسَلْتُ نَفْسِيْ

اور اللہ کی راہ میں یا اللہ! میں نے اپنا نفس تجھے سپرد کیا

وَإِلَيْكَ وَجَّهْتُ وَجْهِيْ وَإِلَيْكَ فَوَّضْتُ أَمْرِيْ

میں نے اپنا رخ تیری طرف کر لیا میں نے اپنے معاملات تجھے سونپ دیے

وَإِلَيْكَ أَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ فَأَحْفَظْنِيْ بِحِفْظِ

اور تجھے اپنا پشت پناہ بنا لیا اب تو ہی مجھے میرے ایمان کے ساتھ

الْإِيمَانَ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ وَمَنْ خَلْفِي وَعَنْ

محفوظ رکھ سامنے سے پیچھے سے

يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمَنْ فَوْقِي وَمَنْ تَحْتِي

دائیں سے بائیں سے اوپر نیچے سے (برہمچاری سے)

وَمَا مِنْ قَبْلِي وَأَدْفَعُ عَنِّي بِحَوْلِكَ

اور جو مجھ سے پہلے ہوا (اسکے ثمر سے بھی مجھے محفوظ رکھ) اور اپنی قوت و قدرت کے شر

وَقُوَّتِكَ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

مجھ سے ہر شر کو دور کرے کیونکہ ہر قسم کی قوت و طاقت صرف اللہ کے ذریعے ہے

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

جو بلند و بالا ہے

دُعَاةٌ خَفِظَ از آفَاتٍ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَمَامِي

میرے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں

وَفَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

اور بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام میرے اور پر سایہ نگین ہیں

فَوْقَ رَأْسِي وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ ابْنِ

اور امیر المؤمنین حضرت علی ابن

أَبِي طَالِبٍ وَصِيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے

وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يَمِينِي وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ

وصی میری دائیں طرف ہیں میری بائیں طرف امام حسن امام حسین

وَعَلِيٌّ وَمُحَمَّدٌ وَجَعْفَرٌ وَمُوسَى وَعَلِيٌّ

امام علیؑ و محمدؑ ، امام جعفرؑ و موسیٰؑ و علیؑ

وَمُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُجَّةُ الْمُنْتَظَرُ

و محمدؑ و علیؑ و حسنؑ و امام مہدی آخر الزمان ہیں

صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ عَنِ شِمَالِي

سب حضرات پر اللہ کے درود و سلام ہوں میری پشت پناہی کے لیے

وَأَبُو ذَرٍّ وَسَلْمَانَ وَمِقْدَادَ وَحَذِيفَةَ

ابو ذرؓ و سلمانؓ و مقدادؓ و حذیفہؓ

وَعَمَّارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

و عمارؓ اصحاب رسول اللہ رضی اللہ عنہم

مِنْ وَرَائِي وَالْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ حَوْلِي

میرے پیچھے ہیں اور ملائکہ علیہم السلام میرے ارد گرد ہیں

وَاللَّهُ رَبِّي تَعَالَى شَانُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ

اور میرا رب اللہ تعالیٰ شانہ ہے اور اس کے نام پاکیزہ ہیں

مُحِيطٌ بِیْ وَحَافِظٌ وَحَفِیْظٌ

اس کی ذات مجھے گھیرے میں لیے ہوئے ہے وہی میرا حافظ و محافظ ہے

وَاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِیْطٌ بَلْ هُوَ

اور اللہ ان (دشمنوں) کے عقب سے احاطہ کئے ہوئے ہے بلکہ وہ

قُرْآنٌ مَّجِیْدٌ فِیْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ

قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے

فَاللّٰهُ خَیْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ

پس اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا اور وہی سب سے رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے

دُعَاے طویل عمر

یہ بھی روایت میں ہے کہ جو شخص اس دُعا کو پڑھنے کی پابندی کرے اس کی عمر طویل ہوتی ہے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ صِحَّةً وَتَقْوٰی وَطُوْلَ

یا اللہ! میں تجھ سے صحت اور تقویٰ اور اچھے

عُمْرِ فِیْ حَسَنِ عَمَلٍ وَرِزْقٍ وَّاسِعٍ

اعمال کے ساتھ طویل عمر اور ایسی خوشحال روزی کی دُعا کرتا ہوں

لَا تُعَذِّبْنِیْ عَلَیْهِ

جس سے مجھ پر عذاب نہ ہو

دُعائے حاجات

یہ دُعا حاجت پوری ہونے، بلائیں دُور کرنے، اہم موقعوں پر مددگاری
سختیوں سے چھٹکارا پانے، ہلاکت سے بچنے، دشمنوں کو دفع کرنے، رنج و غم
سے نجات پانے کے لیے صبح و شام پڑھیں۔ یہ دُعا جنابِ علامہ
میر محمد باقر داماد مرحوم و مغفور کے قلم سے لکھی ہوئی دیکھی اور اس سے نقل ہوئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

تَحَصَّنْتُ بِذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ

میں نے مُلکِ مُلکوت (دنیا کی روح و حقیقت) کے قلعہ میں پناہ حاصل کرتی ہے

وَأَعْتَصَمْتُ بِذِي الْعِزَّةِ وَالْعِظْمَةِ

اور میں عزت و عظمت

وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْجَلَالِ وَالْجَمَالِ

ہیبت و قدرت، جلال و جمال

وَالْكَمَالِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجُودِ وَالْجَبْرُوتِ

کمال و کبریائی اور سخاوت و قوت کے مالک و ابستہ ہو گیا ہوں

وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ

میں نے بھروسہ کر لیا ہے اس حقیقی بادشاہ پر جو زندہ جاوید ہے جسے نیند چھو نہیں سکتی

وَلَا يَسُوتُ دَخَلَتْ فِي حِرْزِ اللَّهِ وَفِي كَنْفِ

نہ خدا اس کے پاس آسکتی ہے میں اللہ کی حفاظت ، اللہ کی حمایت

اللَّهُ وَفِي أَمْنِ اللَّهِ بِحَقِّ كَهَيْعِصَ وَبِحَقِّ

اور اللہ کے امن میں داخل ہو گیا واسطہ ہے حق کاف ہایعص کا اور واسطہ ہے

حَمِّ عَسَقٍ فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ وَهُوَ

حق ”حائم عسق“ کا اور بہت جلد اللہ تجھے ان لوگوں سے بچالے گا ، وہ بہت

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِسْمِ اللَّهِ بَابُنَا تَبَارَكَ

بہت سننے اور بہت جاننے والا ہے ”بسم اللہ“ ہمارا دروازہ ”تبارک الذی“

حَيْطَانَنَا لَيْسَ سَقْفُنَا كَهَيْعِصَ كِفَايَتِنَا

ہماری چار دیواری ”لیس“ ہماری چھت ”کاف ہایعص“ ہماری کفالت

حَمِّ عَسَقٍ حَمَايَتِنَا فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ

”حائم عسق“ ہماری حمایت کرنے والے ہیں بہت جلد اللہ تیری ان سے حفاظت کرے گا

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَصَادُهُ

اور وہ بہت سننے اور بہت جاننے والا ہے ”لا الہ الا اللہ“ اس کا حصار

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَفْلُهُ وَمَسْمَارُهُ

”محمد رسول اللہ“ اس کا قفل اور کنجی

وَعَلِيُّ وَوَلِيُّ اللَّهِ بَابُهُ

اور ”علی“ ولی اللہ“ اس کا دروازہ ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص یہ دُعا روزانہ دو مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے چار ہزار گناہ کبیرہ بخش دیتا ہے۔
 سکراتِ موت، قبر کے دباؤ اور قیامت کی ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے۔
 شیطان اور اس کے ساتھیوں کے شر سے حفاظت ہوتی ہے۔ قرض ادا ہوتا
 رنج و غم دور ہوتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ دُعا یہ ہے :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

أَعَدَدْتُ لِكُلِّ هَوٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

میں نے ذخیہ کر لیا ہے ہر خوف کے لیے "لا الہ الا اللہ"

وَلِكُلِّ هَمٍّ وَغَمٍّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلِكُلِّ

اور ہر رنج و غم کے لیے "ما شاء اللہ" اور ہر

نِعْمَةٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلِكُلِّ رَخَاءٍ وَشِدَّةٍ

نعمت کے لیے "الحمد للہ" اور خوشحالی اور تنگدستی کے لیے

الشُّكْرُ لِلَّهِ وَلِكُلِّ أَعْجُوبَةٍ سُبْحَانَ اللَّهِ

"الشکر للہ" ہر تعجب خیز موقع کے لیے سبحان اللہ

وَلِكُلِّ ذَنْبٍ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلِكُلِّ مُصِيبَةٍ

اور گناہ کے وقت اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ اور ہر مصیبت کے لیے

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

” اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ “

وَلِكُلِّ ضَيْقٍ حَسْبِيَ اللَّهُ وَلِكُلِّ

اور ہر پریشانی میں حَسْبِيَ اللّٰہُ اور قضا و قدر

قَضَاءٍ وَقَدَرٍ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلِكُلِّ

کے ہر مرحلے میں تَوَكَّلْتُ عَلٰی اللّٰہِ اور ہر

عَدُوٍّ وَاِعْتَصَمْتُ بِاللَّهِ وَلِكُلِّ طَاعَةٍ وَ

دشمن کے مقابلے میں اِعْتَصَمْتُ بِاللّٰہِ اور ہر فرمان برداری اور

مَعْصِيَةٍ لِأَحْوَالٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

نافرمانی کے بعد لِأَحْوَالٍ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ العَلِیِّ العَظِیْمِ

نیز یہ بھی روایت میں ہے کہ جب بھی کوئی رنج و غم ہو تو ستر مرتبہ
یہ دعا پڑھے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا فاطمةُ يَا صَاحِبَ الزَّمَانِ

یا اللّٰہُ یا محمّدُ یا فاطمَةُ لے اِمَامِ زَمَانِہ

أَدْرِكُنِي وَلَا تَهْلِكُنِي

میری مدد کیجئے مجھے ہلاک نہ ہونے دیجئے

نمازِ حاجت

حاجت برآنے کے لیے وہ نماز ہے جس کو صلوة المضطر بھی کہتے ہیں۔ یہ نماز عجیب و غریب اثر رکھتی ہے اور بے انتہا فوائد کے علاوہ ایسی جگہ سے اسبابِ کثود نمودار ہوتے ہیں جہاں کا انسان کو گمان بھی نہ ہو

ترکیب : یہ نماز بالکل نمازِ فجر کی طرح دو دو رکعت کی پڑھی جاتی ہے۔ البتہ پہلی رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد دوسری سورۃ نہ پڑھیں بلکہ

۲۵ مرتبہ **أَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ**

اور دوسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد ۲۵ مرتبہ **لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجِبْنَاكَ وَنَجِّنَا مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ**

اور تیسری رکعت میں بعد سورۃ الحمد ۲۵ مرتبہ **حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ** اور چوتھی رکعت میں بعد سورۃ الحمد ۲۵ مرتبہ **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ** پڑھے اور سلام دے کر

۲۵ مرتبہ درود شریف پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا مطلب عرض کرے۔ انشاء اللہ مراد پوری ہوگی

تعمیباتِ نماز

تعمیب نماز فجر

پہلی دُعا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

اَصْبَحْتُ اللّٰهُمَّ مُعْتَصِمًا بِذِمَامِكَ الْمُنِيعِ

یا اللہ! میں اس حالت میں صبح کر رہا ہوں کہ تیرے مضبوط دعوے سے وابستہ ہوں

الَّذِي لَا يُطَاوَلُ وَلَا يُحَاوَلُ مِنْ شَرِّ كُلِّ

جس پر نہ دست درازی کی جاسکتی ہے نہ اسے موڑا جاسکتا ہے۔ ہر غالب آنے

غَاشِمٍ وَطَارِقٍ مَنْ سَاءَ بِرِ مَا خَلَقْتَ

وَالِدِ (دشمن) اور رات کو آنے والی (مضیبت) تمام اس مخلوق سے جسے تو نے پیدا کیا

وَمَنْ خَلَقْتَ مِنْ خَلْقِكَ الصَّامِتِ وَالنَّاطِقِ

اور تیری جاندار یا بے جان مخلوق میں جو بھی تو خلق کرے

فِي جُنْدَةٍ مِّنْ كُلِّ مَخْوَفٍ يَلْبَاسٍ سَابِغَةٍ حَصِينَةٍ

ہر خوفناک چیز کے لیے ڈھال، مضبوط اور کشادہ لباس (زرہ بکتر)

وَهِيَ وِالَاءُ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلَامُ

وہ محبت ہے تیرے نبی کے اہل بیت کی سلام ہونی اور اہل بیت پر

مُحْتَجِبًا مِّنْ كُلِّ قَاصِدٍ لِّيَ إِلَىٰ اذْيَتِي

ان کے رشتے سے وابستہ اور ان کے حق کا اقرار کر کے ہر اس چیز سے جو مجھے دکھ پہنچانے

بِجَدَارٍ حَصِيْنٍ الْاِخْلَاصِ فِي الْاِعْتِرَافِ

کا ارادہ کرے خلوص کے قلعے کی مضبوط دیوار

بِحَقِّهِمْ وَالتَّمَسُّكِ بِحَبْلِهِمْ مُوقِنًا اَنَّ

کی اوٹ میں ہوں میرا یہ مکمل عقیدہ ہے کہ

الْحَقُّ لَهُمْ وَمَعَهُمْ وَفِيهِمْ وَبِهِمْ

حق ان کے لیے ، ان کے ساتھ ، ان کے پاس اور انہی کے ذریعے مل سکتا ہے

اَوْالِي مَنْ وَالُوا وَاَعَادِي مَنْ عَادُوا وَاُجَانِبُ

ان کے دوستوں کا دوست ، ان کے دشمنوں کا دشمن ہوں اور ان سے پہلو بچا کر

مَنْ جَانِبُوا فَصَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ

رہتا ہوں جو ان سے پہلو بچاتے ہیں رحمت فرما محمد و آل محمد پر

وَاعِزُّنِي اَللّٰهُمَّ بِهِمْ مِّنْ شَرِّ كُلِّ مَا اتَّقِيْهِ

اور لے اللہ مجھے ان کے صدقے میں ہر اس شر سے بچا جس سے میں بچنا چاہتا ہوں

يَا عَظِيْمُ حَبَزْتُ الْاَعَادِي عَنِّيْ بِبَدِيْعِ

لے عظیم (اللہ) میں نے اپنے دشمنوں کو آسمان وزمین کے بے مثال

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنَّا جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ

خالق کے ذریعے روک دیا ہم نے ان کے سامنے

أَيْدِيَهُمْ سَدًّا أَوْ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا أَوْ أَغْشِيَهُمْ

دیوار اور ان کے پیچھے دیوار بنا دی پھر اوپر سے انھیں ڈھانپ دیا

فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ

اب وہ دیکھ نہیں سکتے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

دوسری دعا

أَصْبَحْتُ بِاللَّهِ مُؤْمِنًا عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ وَسُنَّتِهِ

میں نے صبح کی ایمان باللہ اور محمد مصطفیٰ کے دین اور ان کی سنت پر

وَدِينِ عَلِيٍّ وَسُنَّتِهِ وَدِينِ الْأَوْصِيَاءِ وَسُنَّتِهِمْ

اور دین علیؑ اور ان کے طریقہ اور دین اوصیاء (نبی) اور ان کے طریقوں پر

أَمَنْتُ بِسِرِّهِمْ وَعَلَانِيَتِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ

میں ان کے ظاہر ان کے باطن، ان کے موجود ان کے غائب سب پر ایمان

وَعَايِبِهِمْ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ

رکھتا ہوں اور اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے جس سے پناہ مانگی

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام

وَالْأَوْصِيَاءِ وَأَرْغَبُ إِلَى اللَّهِ فِيمَا رَغِبُوا إِلَيْهِ

اور ان کے جانشینوں نے اور اسی طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوں جیسے وہ متوجہ ہوئے

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

بزرگ و بتر خدا کے سوا کوئی قوت و طاقت کا مالک نہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

تیسری دعا

اللَّهُمَّ ارِنِي مَا سَأَلْتُكَ خَيْرَ الصَّبَاحِ وَخَيْرَ الْمَسَاءِ

یا اللہ! میں تجھ سے صبح کی بھلائی اور شام کی بھلائی

وَخَيْرَ الْقَضَاءِ وَخَيْرَ الْقُدْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

اور قضا و قدر کی بہتری کا طلبگار ہوں

شَرِّ الصَّبَاحِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسَاءِ وَمِنْ شَرِّ الْقَضَاءِ

صبح و شام ، قضا و قدر کی تکلیفوں

وَمِنْ شَرِّ الْقُدْرِ وَمِنْ شَرِّ مَا جَرَى بِهِ الْقَلَمُ

اور قلم تقدیر سے جاری ہونے والی مشکلوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تَهْلِكْنَا

یا اللہ! ہمیں اپنے غضب سے قتل اور اپنے عذاب سے ہلاک

بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا

نہ فرمانا اور ہمیں عذاب سے پہلے معاف کرنا، بخش دینا

وَلِأَبَائِنَا وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

اور ہمارے آباء و اجداد ، تمام مومنین و مومنات

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اللَّهُمَّ يَا خَفِيَ

مسلمان مردوں عورتوں اور تم سب پر رحم فرما یا اللہ! اے پنہاں

الْأَطْفَانِ نَجِّنَا بِفَضْلِكَ مِمَّا نَحْذَرُ وَنَخَافُ

لطف کر نیوالے ہمیں اپنے فضل و کرم سے نجات دے (اس کے) جس سے ہم ڈرتے ہیں

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ

اور رحمت نازل فرمائی اللہ نے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ان کی آل سب پر

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

تجھے تیری رحمت کا واسطہ لے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

ایک اور دعا

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

اللہ کے نام سے اللہ کے سہارے اور اللہ نے رحمت کی محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

وَآلِهِ وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

اور ان کی آل پر اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں یقیناً اللہ

بصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوْقَهُ اللَّهُ سَيِّآتٍ مَا مَكُرُوا

بندوں کے معاملات پر پوری نظر رکھتا ہے اللہ نے اے لوگوں کی سازشوں سے محفوظ رکھا

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک پاکیزہ ہے میں ہی ظالموں میں سے تھا

فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ

ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی اور اسی طرح

نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ○ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ

ہم تو مومنوں کو نجات دیتے ہیں ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین

الْوَكِيلُ ○ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ

کارساز ہے وہ لوگ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل میں چلے گئے

لَهُمْ يَمْسِرُهُمْ سَوْءٌ مَّا شَاءَ اللَّهُ لَاحَوْلَ

انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی جو اللہ چاہتا ہے (وہی حق ہے) اللہ کے بغیر

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ○ مَّا شَاءَ اللَّهُ لَا مَآئِدَ النَّاسِ

کوئی قوت و طاقت نہیں ہے جو اللہ چاہے نہ وہ جسے انسان چاہے

مَّا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كَرِهَ النَّاسُ حَسْبِيَ الرَّبُّ مِن

جو اللہ چاہے خواہ اسے لوگ برا ہی کیوں مانیں روزی دینے والا مجھے روزی پانے

الْمَرْبُوبِينَ ○ حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ ○

دالوں سے کافی ہے مخلوق کی بجائے مجھے خالق ہی کافی ہے

حَسْبِيَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِينَ ○ حَسْبِيَ اللَّهُ

رزق دینے والا مجھے رزق لینے والوں سے کافی ہے میرے لیے اللہ

رَبُّ الْعَالَمِينَ ○ حَسْبِيَ مَنْ هُوَ حَسْبِي

تمام جہانوں کا پروردگار ہی کافی ہے میرے لیے ہی کافی ہے جو میرے لیے کافی ہے

حَسْبِي مَنْ لَوِيزَلُ حَسْبِي حَسْبِي مَنْ كَانَ مِنْدُ

میںے لیے ہی کافی ہے جو ہمیشہ کافی رہے گا جو میری پہلی سانس سے میرے لیے

كُنْتُ لَوِيزَلُ حَسْبِي حَسْبِي اللهُ لَا إِلَهَ

کافی ہے وہ ہمیشہ کافی رہے گا میںے لیے اللہ کافی ہے اس کے علاوہ

إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

کوئی معبود نہیں اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرشِ عظیم کا رب ہے

دُعائے صبح حضرت امیر المؤمنینؑ کی دعا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

اللَّهُمَّ يَا مَنْ دَلَعَ لِسَانَ الصَّبَاحِ بِنُطْقِ تَبَدُّجِهِ

یا اللہ! اے وہ (ذاتِ اقدس) جس نے زبانِ صبح کو تابانیوں کی گویائی سے نمایاں کیا

وَسَرَّحَ قِطْعَ النَّيْلِ الْمُظْلِمِ بِغَيَاهِبِ تَلْجُدِجِهِ

اور اندھیری رات کے ٹکڑوں کو اس کی تاریک حیرانوں سمیت رخصت کیا

وَأَتَقَنَ صُنْعَ الْفَلَائِكِ الدَّوَّارِ فِي مَقَادِيرِ تَبَرُّجِهِ

اور چکر کھاتے آسمانی زینت کی فنکاری کو اس کے برجوں کی حدوں میں مضبوط کر دیا

وَشَعَّشَعَ ضِيَاءَ الشَّمْسِ بِنُورِ تَابِجِجِهِ

اور سورج کی چمک دار روشنی کو نور کی تڑپ سے اور زیادہ منور کر دیا

يَا مَنْ دَلَّ عَلَيَّ ذَاتِي بِذَاتِي

اے وہ ! جس نے اپنے وجود پر اپنے وجود سے رہنمائی فرمائی

وَتَنْزَهُ عَنِ مُجَانَسَةِ مَخْلُوقَاتِهِ وَجَلَّ

جو اپنی مخلوقات کے ہم جنس ہونے سے پاک اور اپنی

عَنْ مَلَأَمَةٍ كَيْفِيَّاتِهِ يَا مَنْ قَرُبَ مِنْ

کیفیتوں کی ترکیب سے بلند ہے اے وہ ! جو خیالات کے

خَوَاطِرِ الظُّنُونِ وَبَعْدَ عَنِ مَّلَاحِظَةِ الْعِيُونِ

تصویرات سے قریب اور آنکھوں کے مشاہدے سے دُور ہے

وَعَلِمَ بِمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ

جو ہونے والی چیزوں کو ہونے سے پہلے جان چکا

يَا مَنْ أَرَقَدَنِي فِي مَهَادِ أَمْنِهِ وَأَمَانِهِ

اے وہ ! جس نے مجھے اپنے امن و امان کے گوارہ میں سلايا

وَأَيَّقَنِي إِلَى مَا مَخَنِي بِهِ مِنْ مَنِّهِ وَإِحْسَانِهِ

اور اپنے احسان و کرم کی بخششوں سے جگایا

وَكَفَّ أَكْفَ السُّوءِ عَنِّي بِبِيَدِهِ وَسُلْطَانِهِ

اور مجھے نقصان پہنچانے والے ہاتھوں کو اپنے دستِ قدرت اختیار سے مجھ تک آنے سے روکا

صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى الدَّلِيلِ إِلَيْكَ فِي اللَّيْلِ الْأَلْيَلِ

خداوند! اس پر رحمت نازل فرما جو (کفر کی) بیخیزندھیری آٹوں میں تیری طرف رہنمائی کرنے والا

وَالْمَاسِكِ مِنْ أَسْبَابِكَ بِحَبْلِ الشَّرَفِ الْأَطْوَلِ

اور تیسے سہاروں میں معزز ترین اور بہت طویل رشتے سے وابستہ ہے

وَالنَّاصِعِ الْحَسَبِ فِي ذُرْوَةِ الْكَاهِلِ الْأَعْبَلِ

جو ممتاز و بلند ترین و خالص ترین نژاد کا مالک

وَالثَّابِتِ الْقَدَمِ عَلَى زَحَالِفِهَا فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ

اور گزشتہ زمانہ میں رہنمائی کی لغزش خیز منزلوں پر ثابت قدم رہنے والا ہے

وَعَلَى إِلِهِ الطَّيِّبِينَ الْأَبْرَارِ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ

اور اس کی پسندیدہ، منتخب و نیک عمل اولاد پر (بجعت نازل فرما)

وَافْتَحِ اللَّهُمَّ لَنَا مَصَارِيِعَ الصَّبَاحِ بِمَفَاتِيحِ

بارِ الْبُحَا! ہمارے لیے رحمت و کامیابی کی کنجیوں سے صبح کے دروازے

الرَّحْمَةِ وَالْفَلَاحِ وَالْبِسْنَا اللَّهُمَّ مِنْ

الہی! ہمیں

کھول دے

أَفْضَلِ خَلْعِ الْهِدَايَةِ وَالصَّلَاحِ وَأَغْرِسِ اللَّهُمَّ

ہدایت و صلاح کے بہترین خلعت پہنا دے خداوندا!

بِعَظْمَتِكَ فِي شَرْبِ جَنَانِي يَنْابِيعَ الْخُشُوعِ

میرے دل کی نہروں میں اپنے خوف کے چشموں کی دھاریں بہا دے

وَأَجْرُ اللَّهِ لِمَنْ لَبَّيْتِكَ مِنْ أَمَاقِي زَفَرَاتِ الدُّمُوعِ

پروردگار! میری آنکھوں کی اپنی ہیبت کے مسلسل آنسوؤں کو رواں کر دے

وَأَدِّبِ اللَّهُمَّ نَزَقَ الْخُرْقِ مِنِّي بِأَزْمَةِ الْقَنُوعِ

مالک! میری نادانی کے زور کو قناعت کی باگ ڈور سے باقاعدہ کر دے

إِلَهِيَّ إِنْ لَمْ تَبْتَدِئْ عَنِّي الرَّحْمَةُ مِنْكَ بِحُسْنِ التَّوْفِيقِ

الہی! اگر تیری رحمت نے بہترین توفیق سے میرے لیے پہل نہ کی

فَمَنْ السَّالِكُ بِرَبِّي إِلَيْكَ فِي وَاضِحِ الطَّرِيقِ

تو دین کے واضح راستوں میں میرے ساتھ کون چلے گا

وَرَأْسُ أَسَدٍ مَتْنِيَّ أَنْتَ كَلِقَائِدِ الْأَمَلِ وَالْمُنَى

اور اگر تیری بے توجہی نے مجھے امید و آرزو کے رہنما کے سپرد کر دیا

فَمَنْ الْمُقِيلُ عَثْرَاتِي مِنْ كِبَاوَةِ الْهَوَى

تو خواہشات کے پتھروں سے میری ٹھوکروں کو کون معاف کرے گا

وَأَنْ خَذَ لَنِي نَصْرًا عِنْدَ مُحَارَبَةِ التَّفْسِرِ وَالشَّيْطَانِ

اور اگر شیطان و نفس کے معرکہ میں تیری نصرت نے مجھے چھوڑ دیا

فَقَدْ وَكَلَنِي خِذْلًا لَأَنَّكَ إِلَى حَيْثُ النَّصَبِ وَالْحِرْمَانِ

تو گویا تیری بے تعلقی نے مجھے اس حالت کے سپرد کر دیا جہاں مشکل اور ناکامی ہوگی

إِلَهِيَّ أَتْرَانِي مَا أَتَيْتُكَ إِلَّا مِنْ حَيْثُ الْأَمَالِ

الہی! کیا بات یہ ہے کہ میں تمناؤں ہی کی وجہ سے حاضر ہوا ہوں

أَمْ عَلِقْتُ بِأَطْرَافِ حَبَالِكَ إِلَّا حَيْرَانَ

یا میں تیرے اسباب کے رشتوں سے فقط اس لیے وابستہ ہوا کہ

بَاعَدْتَنِي ذُنُوبِي عَنْ دَارِ الْوَصَالِ فَبَدَسَ

میرے گناہوں نے مجھے منزلِ وصل سے دور کر دیا۔ (اگر ایسا ہے تو) میرے

الْمَطِيئَةِ الَّتِي امْتَطَتْ نَفْسِي مِنْ هَوَاهَا

دل نے اپنی خواہشوں کو بدترین سواری بنایا

فَوَاهَا لَهَا لِمَا سَوَّلَتْ لَهَا مِنْ ظُنُونِهَا وَمَنَاهَا

اور اس کی خیال آفرینیوں اور تمنا خیزیوں پر نفسین

وَتَبَّأَ لَهَا لِحُرَّاتِهَا عَلَى سَيِّدِهَا وَمَوْلَاهَا

اور اسے اپنے آقا و مالک کے خلاف جرات پر لعنت

إِلٰهِی قَرَعْتُ بِأَبْ رَحْمَتِكَ بِيَدِ رَجَائِي

الہی! میں نے تیری رحمت کے دروازے کو اپنی امید کے ہاتھ سے کھٹکھٹایا

وَهَرَبْتُ إِلَيْكَ لَأَجْعًا مَنْ فَرِطَ أَهْوَائِي

اور اپنی حد سے بڑھی ہوئی تمناؤں کی بنا پر تیری بارگاہ میں بھاگ آیا ہوں

وَعَلِقْتُ بِأَطْرَافِ حَبَالِكَ أَنَا مَلٌّ وَلَا آئِي

اور میں نے تیری رستیوں کے سرے اپنی محبت کی انگلیوں سے تھام لیے ہیں

فَاصْفِرْ اللَّهُمَّ عَمَّا كُنْتُ أَجْرَمْتُهُ مِنْ زَلَمِي

پروردگار! میں نے اپنی لغزشوں اور خطاؤں کے سلسلہ میں جو کچھ کیا ہے ان سے

وَخَطَايِي وَأَقْلِنِي اللَّهُمَّ مِنْ صُرْعَةٍ رَدَّأِي

چشم پوشی فرما اور جن ہلاکتوں نے مجھے گمراہ کیا ہے ان سے نجات عطا فرما

وَعُسْرَتِي وَبَلَاءِي فَإِنَّكَ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ

اس لیے کہ تو میرا مالک و آقا

وَمَعْتَمِدِي وَرَجَائِي وَغَايَةَ مَنَائِي فِي

بھروسہ اور امید اور تو ہی میرے مطلب و مقصد کی انتہا خواہ

مُنْقَلَبِي وَمَثْوَايَ إِلَهِي كَيْفَ تَطْرُدُ

میں سفر میں ہوں یا وطن میں خداوندا! تو اس مکین کو کیسے

مُسْكِينَانَ التَّجَاءِ إِلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ هَارِبًا

نکال دے گا جو گناہوں سے بھاگ کر تجھ سے پناہ لینے آیا ہو

أَمْ كَيْفَ تُخَيِّبُ مُسْتَرْشِدًا قَصَدَ إِلَيْكَ سَاعِيًا

یا اس ہدایت مانگنے والے کو کیسے ناکام کر دے گا جو تیرے حضور میں دوڑتا ہوا آیا ہو

أَمْ كَيْفَ تُرَدُّ ظَمَانًا وَسَادًا إِلَى حِيَاضِكَ شَارِبًا

یا اس شخص کو کیسے پیاسا ٹوٹا دے گا جو تیرے حوضِ کرم پر سیراب ہونے کے لیے حاضر ہوا ہو

كَلَّا وَحِيَاضِكَ مُتْرَعَةً فِي ضَنْكَ المَحْوُولِ

نہیں، نہیں! تیرے حوضِ کرم کے چشمے قحط کی تنگیوں میں بھی اہل رہے ہیں

وَبَابِكَ مَفْتُوحًا لِلطَّلَبِ وَالْوَعْوُولِ

اور تیری عطا کے دروازے سوال اور داخلے کے لیے کھلے ہیں

وَأَنْتَ غَايَةُ الْمَسْئُولِ وَنِهَايَةُ الْمَأْمُولِ

تو سوالات کی انتہا اور امیدوں کی آخری حد ہے

إِلَهِي هَذِهِ أَزْمَةٌ نَفْسِي قَدْ عَقَلْتُهَا

الہی! یہ میرے دل کی باگ ڈوریں تیری مشیت کی

بِعِقَالٍ مَشِيَّتِكَ وَهَذِهِ أَعْبَاءُ ذُنُوبِي

رسیوں سے بانڈ دی ہیں اور یہ میرے گنہوں کا بوجھ ہے جسے

دَرَعْتُهَا بِرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَهَذِهِ أَهْوَائِي

میں نے تیری رحمت و معافی سے ڈور کر دیا ہے اور یہ میری گمراہ کن خواہشات

الْمُضِلَّةُ وَكَلَّمْتُهَا إِلَى جَنَابِ عَطْفِكَ وَلُطْفِكَ

ہیں جن کو میں نے تیرے لطف و عنایت کے سپرد کر دیا ہے

فَاَجْعَلِ اللَّهُمَّ صَبَاحِي هَذَا نَازِلًا عَلَيَّ

لہذا پروردگار! میری اس صبح کو میرے اوپر

بِضِيَاءِ الْهُدَى وَالسَّلَامَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا

ہدایت کا نور اور دین و دنیا کی سلامتی بنا کر نازل فرما

وَمَسَائِي جَنَّةً مِّنْ كَيْدِ الْعَدَى وَوَقَايَةً

اور میری راست کو دشمن کی مکاریوں اور خواہشات کی

مِّنْ مُّرْدِيَاتِ الْهَوَى إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَى مَا تَشَاءُ

ہلاکت خیزیوں کے لیے ڈھال بنا کیونکہ تو ہر مشیت میں آزاد ہے

تَوَوَّاتِي الْمُلْكَ مِّنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ

تو جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے

وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ

جسے چاہے عزت دے سکتا ہے جسے چاہے ذلیل کر سکتا ہے

بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ہر قسم کی نیکی تیرے قبضے میں ہے بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے

تَوَلَّجَ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّجَ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ

راتوں کو دنوں میں اور دنوں کو راتوں میں داخل کرتا ہے

وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

مُتِّدٍ سے زندہ اور زندہ سے مُتِّدٍ برآمد کرتا ہے

وَتُرْزِقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

اور جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے کوئی اللہ نہیں سوائے تیرے

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ جَلَّ شَأْنُكَ

خداوند! تو پاک ہے اور تیری ہی حمد ہے تیری تعریف بہت بڑی ہے

مَنْ ذَا يَعْرِفُ قُدْرَتَكَ فَلَا يَخَافُكَ

کون ہے جو تیری قدرت کو جان لے اور پھر بھی تجھ سے نہ ڈرے

وَمَنْ ذَا يَعْلَمُ مَا أَنْتَ فَلَا يَهَابُكَ

کون ہے جو یہ جان لے کہ تو کون ہے اور پھر بھی تجھ سے مرعوب نہ ہو

أَلْفَتْ بِقُدْرَتِكَ الْفِرْقَ وَفَلَقْتَ بِرَحْمَتِكَ

تو نے اپنی قدرت سے بکھری ہوئی چیزوں کو یکجا کیا تو نے ہی اپنی رحمت سے نورِ سحر کو

الْفَلَقَ وَأَنْزَلَتْ بِكَرَمِكَ دِيَا جِي الْغَسَقِ

نمایاں کیا تو نے ہی اپنے کرم سے تاریک راتوں کو منور کیا

وَأَنْهَرَتْ الْمِيَاةَ مِنَ الصُّورِ الصَّيَاخِيدِ عَذْبًا

تو نے ہی ٹھوس پتھروں سے میٹھے اور نمکین پانی کی نہریں بہائیں

وَأُجَا جَا وَأَنْزَلَتْ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا

اور بادلوں سے آبِ رواں برسایا

وَجَعَلَتْ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لِلْبَرِيَّةِ سِرَاجًا وَهَاجًا

اور دنیا کے لیے چاند سورج کو چمکتا چراغ بنایا

مِنْ غَيْرِ أَنْ تُمَارَسَ فِيهَا ابْتِدَاتُ بِهِ لُغُوبًا

پھر یہ کہ جو کچھ بھی تو نے شروع کیا اس میں تجھے نہ کوئی تکان ہوئی نہ مشق کی

وَلَا عِلَاجًا فَيَا مَنْ تَوَحَّدَ بِالْعِزِّ وَالْبَقَاءِ

ضرورت پڑی تو اے عزت و بقا میں یگانہ !

وَقَهْرَ عِبَادَةٍ بِالمَوْتِ وَالْفَنَاءِ صَلَّى عَلَيَّ

اور اے اپنے بندوں پر موت و فنا کے ذریعہ غالب رحمت نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ الْأَتْقِيَاءُ وَأَسْمَعُ نِدَائِي

محمد مصطفیٰ اور ان کی پاک پرہیزگار اولاد پر میری پکار سن لے

وَأَسْتَجِبُ دُعَائِي وَحَقِّقْ بِفَضْلِكَ أَمَلِي وَرَجَائِي

میری دعا قبول فرمائے اور اپنے فضل سے میری تمناؤں اور امیدوں کو ثابت کر دے

يَا خَيْرَ مَنْ دُعِيَ لِكُشْفِ الضَّرِّ وَالْمَأْمُولِ

اے تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے سب سے بہتر پکارے جانے والے! اور ہر مشکل و آسانی

لِكُلِّ عُسْرٍ وَيسِّرِ بِكَ اَنْزَلْتَ حَاجَتِي

میں امید کی منزل میں نے اپنی حاجتیں تیری بارگاہ میں پیش

فَلَا تَرُدَّنِي مِنْ سُنِّي مَوَاهِبِكَ خَائِبًا

کردیں اب انھیں قیمتی عطیوں سے ناکام نہ رکھنا

يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ ط

اے کریم! اے کریم! اے کریم! تجھے اپنی رحمت کا واسطہ لے ارحم الراحمین ط

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ اَجْمَعِيْنَ

اور اللہ اپنی بہترین مخلوق محمدؐ اور ان کی سب آل پر رحمت نازل کرے

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِرَحْمَتِكَ

پھر سجدے میں
جانے اور کہے

مَعِيْوْبٌ وَّعَقْلِيْ مَغْلُوْبٌ وَّهُوَ اِنِّىْ غَالِبٌ

عیب دار، میری عقل بیچارہ، ہوس مجھ پر مسلط،

وَطَاعَتِيْ قَلِيْلٌ وَّمَعْصِيَّتِيْ كَثِيْرٌ وَّلِسَانِيْ

اطاعت کم اور گناہ زیادہ ہیں۔ میری زبان

مُقَرَّرٌ بِالذَّنْبِ فَكَيْفَ حِيْلَتِيْ يَا سَتَّارَ

گناہوں کا اقرار کر رہی ہے اب میری تدبیر کیا ہو اے عیبوں پر پردہ

الْعُيُوبِ وَيَا عَلَامَ الْغُيُوبِ وَيَا كَاشِفَ

ڈالنے والے ، اے غیبوں کے بہت جاننے والے ، اے تکلیفوں کو دور

الْكَرُوبِ اِغْفِرْ ذُنُوبِي كُلَّهَا بِحَرَمَةِ

کرینے والے میرے سب گناہ معاف کر دے محمدؐ و آلِ محمدؐ

مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ يَا غَفَّارُ يَا غَفَّارُ

کی عظمت کے صدقے میں اے غفار اے غفار اے غفار

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ط

جیسے تیری رحمت کا واسطہ اے ارحم الراحمین

تقیب نمازِ ظہر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

پہلی دُعا

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا إِيْمَانًا صَادِقًا وَ لِسَانًا ذَاكِرًا

یا اللہ! ہمیں کامل ایمان ، ذکر کرنے والی زبان

وَقَلْبًا خَاشِعًا وَبَدَنًا صَابِرًا وَعِلْمَانًا فَعَالًا

عاجزی و خلوص ظاہر کرنے والا دل ، قوت برداشت رکھنے والا جسم ، نفع بخش علم ،

وَرِزْقًا وَاسِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَتَوْبَةً نَّصُوحًا

کشاہدہ روزی ، قابل قبول عمل ، پُر خلوص توبہ

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ اَجْمَعِيْنَ

اور اللہ تعالیٰ حضرت محمدؐ اور آپؐ کی تمام اولاد پر رحمت نازل فرمائے

بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ ط

تجھے اپنی رحمت کا واسطہ لے ارحم الراحمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

دوسری دُعا

اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْاَرْضِيْنَ السَّبْعِ

یا اللہ! ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے مالک

وَمَا فِيْهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ

جو زمین و آسمان کے درمیان اور جو ان کے نیچے ہے

وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَرَبَّ جِبْرٰئِيْلَ

اور عرشِ عظیم کے مالک ، جبرائیل

وَمِيْكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَرَبَّ السَّبْعِ

و میکائیل و اسرافیل کے مالک ” سبعِ مثنائی“

المَثَانِيْ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَرَبَّ مُحَمَّدٍ

(الفاتحہ) اور قرآنِ عظیم کے مالک محمد مصطفیٰ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ خَاتَمِ النَّبِيّٰنَ

خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مالک

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَسْأَلُكَ

رحمت نازل فرما، محمد و آل محمد پر میں سوال کرتا ہوں

بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الَّذِي بِهِ تَقُومُ السَّمَوَاتُ

تیرے اسم اعظم کے صدقہ جس کی بدولت زمین و آسمان قائم ہیں

وَالْأَرْضُ وَبِهِ تَحْيَى الْمَوْتَى وَتَرْزُقُ الْأَحْيَاءَ

اور تو اسی کے ذریعہ مرنے زندہ کرتا اور زندوں کو روزی دیتا ہے

وَتُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ وَتَجْمَعُ بَيْنَ

مجموع کو متفرق اور متفرق لوگوں کو یکجا

الْمُتَفَرِّقِ وَبِهِ أَحْصَيْتَ عَدَدَ الْأَجَالِ

کھرتا ہے اور اسی سے مدتوں (عمروں) کی تعداد

وَوَازَنَ الْجِبَالَ وَكَيْلَ الْبِحَارِ أَسْأَلُكَ

پہاڑوں کا وزن اور سمندروں کی ناپ کا علم ظاہر ہوتا ہے میں سوال کرتا ہوں

يَا مَنْ هُوَ كَذَلِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

اے وہ ذات کہ ایسی ہی ہے (جیسے حمد میں کہا گیا) رحمت نازل فرما محمد و

وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا

آل محمد پر اور میرے حق میں ہے۔ بے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

تیسری دعا

لہ یہاں اپنی حاجات بیان کرے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ

عظیم و بڑبار اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

عرش کے مالک اللہ کریم کے سوا کوئی معبود نہیں

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ ارِنِي

تمام حمد و ثنا تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے یا اللہ! میں

أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ

تیری رحمت کے اسباب اور تیری مغفرت کے منازل کا سوال کرتا ہوں

وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ

ہر نیکی سے فائدہ حاصل کرنے اور ہر گناہ سے بچنے کی دعا کرتا ہوں

إِثْمٍ اللَّهُمَّ لَا تَدْعُرْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ

یا اللہ! میرا کوئی گناہ ایسا نہ ہے جسے تو نے معاف نہ کر دیا ہو

وَلَا كَرَبًا إِلَّا كَشَفْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ

کوئی تکلیف ایسی نہ ہو جسے تو نے دور نہ کر دیا ہو، کوئی ایسی فکر نہ ہو جسے تو غلط نہ کر دے

وَلَا سَقَمًا إِلَّا شَفَيْتَهُ وَلَا عَيْبًا إِلَّا سَتَرْتَهُ

کوئی بیماری ایسی نہ ہو جسے تو شفا میں نہ بدل دے، کوئی ایسا عیب نہ ہے جسے تو نے چھپانہ دیا ہو

وَلَا رِزْقًا إِلَّا بَسَطْتَهُ وَلَا خَوْفًا إِلَّا أَمَنْتَهُ

کوئی ایسی روزی نہ ہو جو تو نے پھیلانہ دی ہو، کوئی ایسا خوف نہ ہے جو تو اطمینان سے نہ بدل دے

وَلَا سُوءَ إِلَّا صَرَفْتَهُ وَلَا حَاجَةَ هِيَ

کوئی ایسا نقصان نہ ہے جو تو ختم نہ کر دے کوئی ایسی حاجت نہ ہو

لَكَ رِضًا وَرَبِّي فِيهَا صَلَاحٌ إِلَّا قَضَيْتَهَا

جس میں تیری رضا اور میری بھلائی ہو (اور) تو ایسے پورا نہ کر دے

يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

اے ارحم الراحمین! قبول فرما اے تمام جہانوں کے پروردگار!

تعقیب نماز عصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

پہلی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الطَّيِّبَاتِ وَتَرَكِ

یا اللہ! میں تجھ سے پاکیزہ چیزوں کے حصول اور ناپسندیدہ چیزوں

الْمُنْكَرَاتِ وَفِعْلَ الْخَيْرَاتِ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا

کو چھوڑنے اور اچھے کام کرنے کی توفیق کی دعا مانگتا ہوں تو ہمیں بخش دے

وَتَرْحَمَنَا وَتَتُوبَ عَلَيْنَا وَتَوْفِنَا غَيْرَ

ہم پر رحم کر، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمت پر غلط فہمی

مَفْتُونٍ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ

کی حالت میں موست نہ دے اے ارحم الراحمین!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دوسری دُعا

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جسکے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ اور قائم ہے

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

رحمن ہے رحیم ہے جلال اور بزرگیوں کا مالک ہے

وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيَّ تَوْبَةً عَبْدٍ

اور میں اسی اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ میری توبہ کو اس

ذَلِيلٍ خَاضِعٍ فَقِيرٍ بَائِسٍ مَسْكِينٍ

ذلیل، عاجز و فقیر، مجبور، مسکین

مُسْتَكِينٍ مُسْتَجِيرٍ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ

لاچار، پناہ طلب کرنے والے بندے کی توبہ قرار دے جو اپنے لیے نہ تو

نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا مَوْتًا وَلَا حَيَوَةً وَلَا نَشُورًا

نفع و نقصان کا مالک ہو نہ موت اور زندگی کا اور نہ دوبارہ زندہ ہونے کا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ

اے اللہ! میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو

وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ

اس دل سے جس میں عاجزی نہ ہو اور اس دُعا سے جس کی شنوائی نہ ہو

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ

یا اللہ! میں تجھ سے مشکل کے بعد آسانی،

وَالْفَرَجَ بَعْدَ الْكُرْبِ وَالرِّخَاءَ بَعْدَ الشِّدَّةِ

دُکھوں کے بعد کشائش اور سختی کے بعد آرام کی دُعا کرتا ہوں

اللَّهُمَّ مَا بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحَدِّكَ

یا اللہ! ہمارے پاس جو نعمت بھی ہے تیری ہی ہوئی ہے تو واحد و یکتا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے مغفرت مانگتا اور تجھ سے توبہ کرتا ہوں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تیسری دُعا

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

پاک ہے اللہ، حمد اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں

وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اور اللہ سب سے بڑا ہے کوئی قوت و طاقت نہیں مگر بزرگ و

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ بِالْغَدُوِّ

بزرگ عظمت کے مالک اللہ کے سہاے اللہ کی تسبیح ہے صبح و

وَالْأَصَالِ سُبْحَانَ اللَّهِ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

اللہ کی تسبیح ہے رات کے آنے اور صبح کے ہونے تک

شام

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ

پاک ہے اللہ جب تم شام کرو اور جب صبح کرو

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا

اس کی حمد ہے آسمانوں اور زمین میں اور شام کے وقت

وَحِينَ تَظْهَرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ

اور جب تم دوپہر کرو پاک ہے تمہارا پروردگار لوگوں کی ہر صفت

عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وٹنا سے وہ عزت و اقتدار کا مالک ہے اور سلام ہے (اللہ کے) رسولوں پر

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ

اور حمد ہے تمام جہانوں کے پروردگار کی پاک ہے

ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ

مُلک و ملکوت کا مالک پاک ہے عزت و

وَالْجَبَرُوتِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

جبروت کا مالک پاک ہے وہ مالک زندگی جسے موت نہیں

سُبْحَانَ الْقَائِمِ الدَّائِمِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الْقَيُّومِ

پاک ہے قائم و دائم پاک ہے حی و قیوم

سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى

پاک ہے بلند و برتر پاک ہے اور بلند مرتبہ

سُبُوْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ

اسکی بہت تسبیح اسکی بہت پاکیزگی بیان کی جاتی ہے وہ ہمارا رب ہے اور

الْمَلٰئِكَةِ وَالرُّوْحِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ ذَنْبِيْ اَمْسٰى

ملاکہ و فرشتہ روح کا مالک ہے یا اللہ! میں! گناہ

مُسْتَجِيْرًا اَبْعَفُوْكَ وَخَوْفِيْ اَمْسٰى مُسْتَجِيْرًا

تجھے عفو (رکڑ) کی پناہ چاہتا ہے اور میرا خوف تیری بے نیازی کی پناہ

بِعِغْنَاكَ وَذُلِّيْ اَمْسٰى مُسْتَجِيْرًا اَبْعِزِّكَ

چاہتا ہے اور میری ذلت (سوانی) تیری عزت (اقتدار) کی پناہ چاہتی ہے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

یا اللہ! رحمت نازل فرما محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) و آل محمد پر

وَ اَعْفِرْ لِيْ وَاَرْحَمْنِيْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

میری مغفرت کر اور مجھ پر رحم کر بے شک بہت زیادہ حمد اور بزرگی کا مالک ہے

اَللّٰهُمَّ تَمَّ نُورُكَ فَهَدَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ

یا اللہ! تیرا نور کامل ہے لہذا تو ہدایت کرتا ہے پس تیری حمد

وَعَظْمَ جِلْمِكَ فَعَفَوْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ

تیرا عظم (بڑبڑائی) عظیم ہے اس لیے تو معاف کر دیتا ہے پس تیری حمد

وَجْهَكَ رَبَّنَا اَكْرَمُ الْوَجُوْهِ وَجَاهُكَ

اے ہمارے پروردگار! تیری ذات تمام ذاتوں سے زیادہ کریم اور تیری شان تمام

أَعْظَمُ الْجَاهِ وَعَظِيمَتِكَ أَفْضَلُ الْعَطَاءِ

شانوں سے بالا ہے اور تیری عطا سب عطاؤں سے افضل ہے

تُطَاعُ رَبَّنَا فَتَشْكُرُ وَتُعْصِي فَتَغْفِرُ

ہماریے مالک تیری فرماں برداری کی جائے تو قبول کرتا ہے اور نافرمانی کی جائے تو بخش دیتا ہے

وَتُجِيبُ الْمُضْطَرَّ وَتَكْشِفُ الضُّرَّ وَتُنْجِي

تو پریشان حال کی دعا سنتا ہے اس کی پریشانی دور کرتا ہے تو بے چینی

مِنَ الْكُرْبِ وَتُغْنِي الْفَقِيرَ وَتَشْفِي السَّقِيمَ

سے نجات دیتا ہے تو محتاج کو غنی اور بیمار کو تندرست کر دیتا ہے

وَلَا يُجَازِيَنَّ الْإِلَهَ أَحَدٌ يَأْزُحُمُ الرَّحْمِينَ

تیرے احسانوں کا بدلہ کوئی بھی نہیں دے سکتا اے ارحم الراحمین!

تقیب نماز مغرب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

پہلی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ

یا اللہ! میں تجھ سے تیری رحمت کے اسباب

وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِشْمٍ

اور مغفرت کے مقامات اور (تمام) گناہوں سے بچنے

وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ

اور ہر اچھائی (نیکی) سے حصہ پانے ، جنم

وَمِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَالْفُوزَ بِالْجَنَّةِ وَالرِّضْوَانَ

اور ہر بلا سے بچنے اور جنت حاصل کرنے

فِي دَارِ السَّلَامِ وَجَوَارِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

اور تیرے نبی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کی پاک

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اللَّهُمَّ مَا بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ

اولاد علیہم السلام کی قربت کی دعا کرتا ہوں یا اللہ! ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ تیری دین ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے مغفرت مانگتا اور تجھ سے توبہ کرتا ہوں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

دوسری دعا

اللَّهُمَّ اجْرُنَا مِنَ النَّارِ سَالِمِينَ

یا اللہ! ہمیں سلامتی کے ساتھ آگ سے پناہ دے

وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ آمِنِينَ

ہمیں سلامتی اور امن کے ساتھ جنت میں داخل کر

وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَقُّنَا بِالصَّالِحِينَ

ہمیں بحالت مسلمان موت دینا اور نیک عمل بندوں کے ساتھ رکھنا

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ

اور اللہ تعالیٰ حضرت محمدؐ اور آپؐ کی تمام اولادؑ پر رحمت نازل فرمائے

بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

مجھے تیرے فضل اور رحمت کا واسطہ لے ارحم الراحمین !

تقیب نماز عشاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

پہلی دُعا

اللَّهُمَّ عَافِنَا مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ الدُّنْيَا

یا اللہ! ہمیں دُنیا کی ہر بلا سے بچا

وَأَصْرِفْ عَنَّا شَرَّ الدُّنْيَا وَشَرَّ الْآخِرَةِ

اور دنیا اور آخرت کے ہر نقصان سے ہم کو دُور کر دے

وَأَرْضُقْنَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَخَيْرَ الْآخِرَةِ

اور ہمیں دُنیا اور آخرت کی بھلائی دے

بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

مجھے تیرے فضل و رحمت کا واسطہ لے ارحم الراحمین !

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

دوسری دُعا

اللَّهُمَّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى

اے اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) و آل محمد کے حق کا واسطہ اپنی رحمت نازل فرما

مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَلَا تُؤْمِنَا مَكَرَكَ

محمد و آل محمد پر ہمیں اپنی تدبیرِ عذابِ گرفت سے بخوف ہونے دینا

وَلَا تُنْسِنَا ذِكْرَكَ وَلَا تَكْشِفْ عَنَّا سِتْرَكَ

ہمیں اپنا ذکر نہ بھولنے دینا ، ہم پر سے اپنا پردہ نہ ہٹانے دینا ،

وَلَا تَجْرِمْنَا فَضْلَكَ وَلَا تَجِلْ عَلَيْنَا غَضَبَكَ

ہمیں اپنے فضل سے محروم نہ رکھنا ، ہم پر اپنا غضب نہ اترنے دینا ،

وَلَا تَبَاعِدْنَا مِنْ جَوَارِكَ وَلَا تَقْصِنَا مِنْ رَحْمَتِكَ

ہمیں اپنی بارگاہ سے دور نہ کرنا ، ہمارے لیے اپنی رحمت میں کمی نہ کرنا ،

وَلَا تَنْزِعْ عَنَّا بَرَكَتَكَ وَلَا تَمْنَعْنَا عَافِيَتَكَ

ہم سے اپنی برکت واپس نہ لینا ، ہمیں اپنی عافیت سے محروم نہ کرنا ،

وَأَصْلِحْ لَنَا مَا أَعْطَيْتَنَا وَزِدْنَا مِنْ فَضْلِكَ

جو کچھ عطا کیا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر کرنا اور ہمیں اپنے

الْمُبَارَكِ الطَّيِّبِ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ

مبارک ، طیب (پاک) ، اچھے ، خوبصورت فضل میں سے کچھ زیادہ عطا کر

وَلَا تُغَيِّرْ مَا بَيْنَنَا مِنْ نِعْمَتِكَ وَلَا تُؤْيِسْنَا مِنْ

جو تیری نعمتیں ہمارے پاس ہیں انھیں نہ بدلنا ہمیں اپنے اطمینان سے

رَوْحِكَ وَلَا تَهْتِكَا بَعْدَ كَرَامَتِكَ وَلَا تُضِلَّنَا

مایوس نہ کرنا ، عزت دے کر ذلت نہ دینا ہمیں ہدایت

بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

دینے کے بعد منزل ہدایت دور نہ کرنا ، ہمیں اپنے حضور سے رحمت عطا فرما

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ قُلُوبَنَا

بیشک تو بہت انعام دینے والا ہے یا اللہ! ہمارے دل

سَالِمَةً وَأَزْوَاحَنَا طَيِّبَةً وَأَزْوَاجَنَا مُطَهَّرَةً

تندرست (محفوظ) ہماری زوجیں پاک ہماری زندگی کے شریک پاکیزہ

وَالسِّنَّتَنَا صَادِقَةً وَإِيمَانَنَا دَائِمًا وَيَقِينَنَا صَادِقًا

ہماری زبانیں سچی ہمارا ایمان دائمی ہمارا یقین پختا

وَتِجَارَتَنَا لَنْ تَبُورَا اللَّهُمَّ إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ

اور ہماری تجارت خسار کے بغیر ہو یا اللہ! ہمیں دنیا میں نیکی

وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ النَّارِ

اور آخرت میں نیکی دے اور اپنی رحمت کا عقد ہمیں دوزخ کے عذاب سے آزادی عطا فرما

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن ورحیم اللہ کے نام سے

تیسری دعا

أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَأَعُوذُ بِقُدْرَةِ اللَّهِ

میں اللہ کی قوت و عزت کی پناہ مانگتا ہوں ، میں اللہ کی رحمت کی پناہ مانگتا ہوں

وَأَعُوذُ بِسُلْطَنِ اللَّهِ الَّذِي هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

دُوس (اللہ کی بادشاہی سے پناہ مانگتا ہوں جو ہر شے پر قادر

قَدِيرٌ وَأَعُوذُ بِكَرَمِ اللَّهِ وَأَعُوذُ بِجَمْعِ اللَّهِ

ہے اللہ کے کرم سے پناہ طلب کرتا ہوں اور اللہ کے اجتماع سے پناہ مانگتا ہوں

مِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَشَيْطَانٍ مَّرِيدٍ

(پناہ) ہر سرکش جابر کے نقصان پہنچانے اور ہر گمراہ شیطان

وَكُلِّ مُغْتَالٍ وَسَارِقٍ وَعَارِضٍ وَمِنْ شَرِّ

اور ہر محمد آور اور چور اور رکاوٹ بننے والے سے بچنے کیلئے اور ہر

السَّامَةِ وَالرَّهَامَةِ وَالْعَامَةِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ

دُکھ دینے والے عظم پہنچانے والے اور عام بلاؤں کے شر سے اور ہر

دَابَّةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ بَلِيلٍ أَوْ نَهَارٍ وَمِنْ

چھوٹے بڑے جاندار کے شر سے دن کو ہو یا رات کو اور

شَرِّ فُسَّاقِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَفَجَّارِهِمْ وَمِنْ

عرب و عجم کے بدکاروں اور بُروں کے شر سے

شَرِّ فُسْقَةِ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ

جنوں اور انسانوں کے بدکاروں کے شر سے اور تمام چلنے پھرنے والوں کے شر سے

أَنْتَ أَخَذَ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

جسکی تقدیر تیرے قبضہ قدرت میں ہے بیشک میرا پروردگار سیدھے راستے کمالک ہے

نمازِ شب

طریقِ اول : نمازِ شب کا وقت نصف شب کے کو صبح کی نماز تک ہے اور اس کی کل گیارہ رکعت ہیں۔ دو دو رکعت کی چار نمازیں نمازِ شب کی تیت سے، دو رکعت نمازِ شفع (دعائے قنوت نہیں پڑھی جاتی) اور ایک رکعت نمازِ وتر کی نیت سے ادا کریں۔ نمازِ وتر ایک رکعت ہے جس میں سورہ الحمد اور کسی دوسری سورہ کی تلاوت کے بعد دعائے قنوت کے لیے ہاتھ بند کریں اور سات مرتبہ **هَذَا مَقَامُ الْعَائِزِينَ بِكَ مِنَ التَّارِطِ** اور ستر (۷۰) مرتبہ **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَابِغًا وَأَتُوبُ إِلَيْهِ** پڑھیں۔ اس کے بعد چالیس مومنین یا مومنات کے لیے دعائے مغفرت کریں اور یہ پڑھیں **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ** فُلَانِ کَیْ جَاءَهُ مَوْنِینَ یَا مَوْنِینَ کَانَ اِمَّا لِیَا جَلْتِ۔ تین سو مرتبہ **الْعَفْوُ، الْعَفْوُ، الْعَفْوُ** پڑھا جائے۔

طریق دوم : (مطابق مفاتیح الجنان)۔ آٹھ رکعت دو دو رکعت کر کے نمازِ شب کی تیت سے تشہد اور سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔

پہلی نماز: پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد تیس مرتبہ (۳۰) سورہ توحید پڑھا جائے۔

دوسری نماز: پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ الکافرون پڑھا جائے۔

تیسری اور چوتھی نماز : صبح کی نماز کی طرح ادا کریں۔

نماز شفع (دو رکعت) پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ الناس اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ الفلق پڑھیں۔ اس کے بعد نماز مکمل کریں (اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھی جاتی)۔

نماز وتر (ایک رکعت) سورہ الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ توحید اور ایک مرتبہ سورہ الفلق اور ایک مرتبہ سورہ الناس کے بعد دعائے قنوت کے لیے ہاتھ بلند کر

کے یہ دُعا پڑھیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَكِيمُ الْكَرِيمُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ

سَرِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَسَرِّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ
وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بائیں ہاتھ کو بلند رکھیں اور دائیں ہاتھ سے تسبیح پر شمار کریں اور ستر بار (۷۰) پڑھیں
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَرَّيْ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ اس کے بعد تین سو مرتبہ

پڑھیں الْعَفْوُ الْعَفْوُ الْعَفْوُ اس کے بعد سات مرتبہ پڑھیں هَذَا
مَقَامُ الْعَارِضِ بِكَ مِنَ النَّارِ اُورِيهِ پڑھ کر رَبِّ اغْفِرْ لِي

وَارْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
رکوع و سجود ادا کر کے نماز کو ختم کریں۔

دُعائے حزین

نماز وتر کے بعد پڑھنے کی دُعا جو دُعائے حزین کے نام سے مشہور ہے اور معصوم علیہ السلام سے منقول ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ خدائے بخشنائے و مہربان

اُنَا جِیْکَ یَا مَوْجُوْدُ فِیْ کُلِّ مَکَانٍ لَعَلَّکَ

لے ہر مقام کے موجود! تجھ سے مناجات کرتا ہوں کہ تو

تَسْمَعُ نِدَائِیْ فَقَدْ عَظُمَ جُرْهُیْ وَقَلَّ حَیَاتِیْ

میری آواز سن لے گا کیونکہ یقیناً میرا گناہ بہت بڑا ہے اور میری حیا و شرم کم ہو گئی

مَوْلَا یَا مَوْلَا یَا اَیُّ الْاُھْوَالِ اَتَذْکُرُّ

میرے مولا لے میرے مولا کن کن ڈروں کو یاد رکھوں

وَاَیُّھَا النَّسْءُ وَلَوْ لَمْ یَکُنْ اِلَّا الْمَوْتُ لَکَفِیْ

اور کن کو بھول جاؤں، حالانکہ اگر موت کے سوا کوئی ڈر نہ ہوتا تو یہی ایک خوف کافی تھا

کَیْفَ وَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اَعْظَمَ وَاَدْھٰی

اور موت کے بعد کا خوف تو بہت بڑا اور بہت ہی شدید ہے

مَوْلَا یَا مَوْلَا یَا حَتّٰی مَتٰی وَاِلٰی مَتٰی اَقُوْلُ لَکَ

میرے مالک لے میرے مالک کب تک کب تک کہے جاؤں کہ میں تیری رضا چاہتا ہوں

الْعُتْبَىٰ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ ثُمَّ لَا تَجِدُ عِنْدِي صِدْقًا

اور بار بار یہی کہوں پھر اس کے بعد بھی تو میرے پاس سچائی

وَلَا وِفَاءً فَيَا غَوْثَاهُ ثُمَّ وَاغَوْثَاهُ بِكَ يَا اللَّهُ وَ

اور اقرارِ وفا نہ پائے پس پناہ ہے اور پناہ ہے تجھ سے اے معبود!

مَنْ هُوَ يَوْمَ قَدْ غَلَبَنِي وَمِنْ عَدُوِّ قَدْ اسْتَكْبَرَ عَلَيَّ

اس خواہشِ نفس سے جو مجھ پر غالب گئی

وَمِنْ دُنْيَا قَدْ تَزَيَّنْتُ لِي وَمِنْ نَفْسٍ أَمَارَةٌ

اور دنیا سے جو میرے لیے آراستہ ہوئی اور نفس سے جو سرکش کنیوالا ہے

بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَجَحَ رَبِّي مَوْلَايَ يَا مَوْلَايَ

بدی کے ساتھ لیکن یہ کہ جس پر میرے رب نے تم کیا میرے مولا اے میرے مولا

إِنْ كُنْتُ رَحِمْتَ مِثْلِي فَأَرْحَمْنِي وَإِنْ كُنْتُ

اگر تو نے مجھ جیسے کسی پر رحم کیا ہے تو مجھ پر رحم کر اور اگر مجھ جیسے

قَبِلْتُ مِثْلِي فَأَقْبِلْنِي يَا قَابِلَ السَّحَرَةِ

کی توہیر قبول کر لی ہے تو مجھ سے بھی قبول کر لے اے صحیح کی دعا قبول کرنے والے

أَقْبِلْنِي يَا مَنْ لَمْ أُنْزَلْ أَعْرَافٍ مِنْهُ الْحُسْنَىٰ

میری بھی دعا قبول کر لے اے وہ ذات جس سے میں ہمیشہ نیکی ہی کو جانتا ہوں

يَا مَنْ يُغْذِيْنِي بِالزَّعْمِ صَبَاحًا وَمَسَاءً

اے وہ ذات جو صبح شام مجھے غذا میں نعمتیں دیتا ہے

إِرْحَمْنِي يَوْمَ آتِيكَ فَرْدًا شَاخِصًا إِلَيْكَ

مجھ پر اس دن رحم کرنا جس میں تیری طرف نظر جمائے تیرے پاس تنہا آؤں گا

بَصْرِي مُقَلِّدًا عَمَلِي تَبَرَّءُ جَمِيعِ الْخَلْقِ

گھر میں اپنے اعمال ڈال رہے ہوں گا اور اس وقت کہ جب تمام مخلوق

مِنِّي نَعْمَ وَآبِي وَأُمِّي وَمَنْ كَانَ لَهُ كِدِّي وَ

مجھ سے بیزار ہوگی یہاں تک میرا باپ اور میری ماں اور وہ لوگ کہ جن کے لیے میری

وَسَعِي فَإِن لَّمْ تَرْحَمْنِي فَمَنْ يَرْحَمْنِي

اور محنت تھی (وہ بھی مجھ سے بیزار ہونگے) پس اُس دن اگر تو مجھ پر رحم نہ کرے گا تو کون مجھ پر رحم

وَمَنْ يُؤْنِسُ فِي الْقَبْرِ وَحْشَتِي وَمَنْ يُنْطِقُ

کرے گا اور قبر میں کون میرا مونس تنہائی (ہمدرد) ہوگا اور کون میری زبان کو

لِسَانِي إِذَا خَلَوْتُ بِعَمَلِي وَسَعَلْتَنِي عَمَّا

گویا کرے گا جبکہ میں اپنے عمل کے ساتھ ہوں گا اور تو مجھ سے اس امر کی باز پرس کرے گا

أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي فَإِنْ قُلْتَ نَعَمْ فَأَيْنَ

جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ پس اگر میں اپنے عمل کا اقرار کروں گا تو

الْمَهْرَابُ مِنْ عَذَابِكَ وَإِنْ قُلْتَ لَمْ أَفْعَلْ

تیرے عذاب سے مفر کہاں ہے اور اگر میں انکار کروں گا تو

قُلْتَ أَلَمْ أَكُنْ الشَّاهِدُ عَلَيْكَ فَعَفُوكَ

تو مجھے گا کہ کیا میں تیرے اعمال دیکھتا نہ تھا پس بخش دے

فَعَفُوكَ يَا مَوْلَايَ قَبْلَ سَرَائِيلَ الْقَطْرَانِ

بخش دے لے میرے مالک لباس جنہم پہننے سے پہلے

فَعَفُوكَ فَعَفُوكَ يَا مَوْلَايَ قَبْلَ جَهَنَّمَ

بخش دے بخش دے لے میرے مولا جہنم اور (اس کی) آگ

وَالزَّيْرَانَ فَعَفُوكَ فَعَفُوكَ يَا مَوْلَايَ قَبْلَ

(رک پٹ) سے پہلے بخش دے بخش دے لے میرے مولا قبل اس کے

أَنْ تُغَلَ الْأَيْدِي إِلَى الْأَعْنَاقِ يَا أَرْحَمَ

کہ میرے ہاتھ گردوں کی طرف باندھ جائیں لے سب سے

الرَّاحِمِينَ وَخَيْرَ الْغَافِرِينَ ○

زیادہ رحم کرنے والے تمام رحم کرنے والوں میں اور بہترین بخشنے والے

لمحہ فکریہ

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا

کہہ دیجئے (اے حبیب) کہ ہم بتائیں تمہیں عملاً سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ

وہ لوگ جن کی ساری تنگی و دو دنیاوی زندگی (کمانے) میں غارت ہو گئی اور

هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ○ الكهف

وہ یہ سمجھتے رہے کہ انھوں نے تو بڑے معرکے مالے ہیں آیت ۱۰۳-۱۰۴

دُعائے قنوت وتر

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيْمَنْ هَدَيْتَ

بارِ الْاٰلِهٰ ! مِیْرِ هِدَايَتِ فَرَمَا اِس مِیْن جِس مِیْن تُوْنِے (دوسروں کی) ہِدَايَتِ فَرَمَانِی ہے

وَعَافِنِي فِيْ مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّيْتَنِي

اُوْر بَجھِے عَافِيَتِ عَطَا فَرَمَا جُو عَافِيَتِ تُوْنِے (دوسروں کو) عَطَا فَرَمَانِی ہے اُوْر مِیْرِ سِہرِ سِتِی فَرَمَا

فِيْ مَنْ تَوَلَّيْتِ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ مَا

جِس طَرَحِ تُوْنِے (دوسروں کی) سِہرِ سِتِی فَرَمَانِی ہے اُوْر جُو کُچھِے تُوْنِے بَجھِے عَافِيَتِ فَرَمَا یَا ہے

اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرًّا مَا قَضَيْتَ

اِس مِیْن بَرَكْتِ عَطَا فَرَمَا۔ اُوْر حِفَاظْتِ فَرَمَا مِیْرِ اَشْرَسِے جُو مِیْرِ نَافَرَانِی کِیُو جِسے تُوْنِے مَقْرُ کِیَا ہُو

فَاِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ سُبْحَانَكَ

اِسے کُو یَقِيْنًا تُوْنِے حَکْمِ کُوْنِے اَلَا ہے اُوْر تَجھِے حَکْمِ نِہِیْن لُکَا یَا جَا سَکْتَا پَاکِ نَزْوِے تِیْرِی ذَاتِ

رَبِّ الْبَيْتِ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوبُ اِلَيْكَ

(ہلے) خَا تَجھِے کِے پُوْر دُکَا رُ! مِیْن تَجھِے سِے مَغْفِرْتِ چَا ہِتَا ہُوں اُوْر تِیْرِی ہِی طَرَفِ مِیْرِی تُو ہِے

وَاُوْمِنُ بِكَ وَاتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا

اُوْر تَجھِے ہِی پَر مِیْن اِيْمَانِ رُکھْتَا ہُوں اُوْر تِیْرِے اُوْر بھُور سِے کُرا ہُوں اُوْر نِہِیْن ہے کُوئی قُوْتِ!

قُوَّةَ اِلَيْكَ يَا رَحِيْمٌ

طَاقْتِ سُوْنِے تِیْرِے لے رَحْمِے کُوْنِے وَا لے!

دُعَا بَعْدَ نَمَازِ شَفَعِ

اَللّٰهُمَّ تَعَرَّضْ لَكَ فِيْ هٰذَا اللَّيْلِ الْمَتَعَرِّضُونَ

بارہا! درخواست کرنے والے اس شب میں تجھ سے درخواست کر رہے ہیں

وَقَصَدَ الْقَاصِدُونَ وَآمَلَ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ

قصد کرنے والوں نے (اس شب میں) تیری بارگاہ کا قصد کیا ہے اور طلب کرنے والے تیرے فضل

الطَّالِبُونَ وَ لَكَ فِيْ هٰذَا اللَّيْلِ نَفْحَاتٌ وَ

احسان کے امیدوار ہیں اور اس رات میں تیری طرف سے راحتیں، عطائیں

جَوَائِزُ وَعَطَايَا وَمَوَاهِبُ تَمُنُّ بِهَا عَلٰی مَنْ

بخششیں اور عنایتیں ہیں جو عطا کرتا ہے اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو

تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ وَتَمْنَعُهُا مَنْ لَّمْ تَسْبِقْ

تو چاہتا ہے اور جن پر تیری مہربانی نہیں ہے ان سے

لَهُ الْعِنَايَةُ مِنْكَ وَهَآنَا ذَا عَيْدِكَ الْفَقِيْرُ

ان نعمتوں کو روک لیتا ہے اور اس وقت تیرا یہ محتاج بندہ

اِلَيْكَ الْمُوْمَلُ فَضْلَكَ وَمَعْرُوفَكَ فَاِنْ

تیرے فضل و کرم کا امیدوار ہے پس

كُنْتَ يَا مَوْلَايَ تَفَضَّلْتَ فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ عَلٰی

میرے مالک اس رات میں اگر تو نے اپنے کسی بندے پر مہربانی فرمائی ہے

أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ وَعُدَّتْ عَلَيْهِ بِعَائِدَةٍ

اور اس کے لیے اپنی نعمت

مِّنْ عَطْفِكَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

مہیا فرمائی ہے تو اپنے فضل و کرم سے محمد اور آل محمد پر

الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْخَيْرِينَ الْفَاضِلِينَ

اپنی رحمت فرما جو پاک و پاکیزہ اور بہترین مخلوق اور صاحبانِ فضل و شرف ہیں

وَجِدْ عَلَىٰ بَطُولِكَ وَمَعْرُوفِكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

اور اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی عطف فرما لے تمام جانوں کے پالنے والے!

وَصَلِّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَالْإِلهِ

اور اے اللہ تو رحمت نازل کر حضرت محمد پر جو خاتم النبیین ہیں اور آپ کی

الطَّاهِرِينَ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ

پاک و طاہر آل پر اور سلام مسلسل و متواتر۔ تحقیق خدا سزاوارِ حمد اور

مَجِيدٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَ

صاحبِ بزرگی ہے خدایا! میں تجھے پکارتا ہوں جس طرح کہ تو نے حکم دیا ہے

فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ

لذا تو اپنے وعدے کے مطابق میری دعا قبول فرما اس لیے کہ یقیناً تو وعدے کے

الْبُعَادِ ط

خلاف نہیں کرتا

دعاۓ حضرت علیؑ

منقول ہے کہ جب حضرت علیؑ علیہ السلام کو کوئی بچہ اضطراب اور پریشان کن مہم درپیش ہوتی تھی تو آپؑ دو رکعت نماز ادا کر کے سو مرتبہ اَسْتَخِيْرُ اللّٰهَ پڑھنے کے بعد ذیل کی دعا پڑھتے اور پھر کام شروع کرتے تھے جس کے باعث آپؑ کو کسی کام میں نقصان نہیں پہنچتا تھا۔

اللّٰهُمَّ قَدْ هَمَمْتُ بِأَمْرٍ قَدْ عَلِمْتَهُ

اے اللہ میں نے جس کام کا ارادہ کر رکھا ہے تو اس سے خوب واقف ہے

فَإِنْ تَعْلَمُ أَنَّ خَيْرَ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ

پس اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین، دنیا و آخرت کے لیے

وَآخِرَتِي فَيَسِّرْ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ

بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اگر تیرے علم کے مطابق

أَنَّ شَرَّ لِي فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتِي

یہ کام دینی و دنیوی اور آخری حیثیت سے میرے لیے بُرا ہے

فَاصْرِفْهُ عَنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ أَوْ أَحْبَبْتُ

تو اسے رد فرما دے چاہے مجھے بُرا لگے یا اچھا لگے

فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ط

کیونکہ تو سب جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو ہی غیب کا جاننے والا ہے

دُعائے مشلول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یا اللہ! میں تیرا نام لے کر سوال کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم

یا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ یا حَىُّ یا قِیُّوْمُ

اے صاحب جلال و کرم اے حی و قیوم

یا حَىُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ یا هُوَ یا مَنْ لَا یَعْلَمُ

اے حی! تیرے سوا کوئی "اللہ" نہیں اے "وہ" جس کے لیے نہیں

مَا هُوَ وَلَا کَیْفَ هُوَ وَلَا اَیْنَ هُوَ وَلَا حَیْثُ

معلوم کہ کیا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے اور وہ کہاں ہے اور کس حالت میں

هُوَ اِلَّا هُوَ یا ذَا الْمُلْکِ وَالْمَلْکُوْتِ

بس وہ، وہ ہے اے صاحب ملک و ملکوت!

یا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَبْرُوْتِ یا مَلِکُ یا قُدُّوْسُ

اے مالکِ عزت و اقتدار! اے حقیقی بادشاہ! اے پاک پاکیزہ!

یا سَلامُ یا مُؤْمِنُ یا مُهَيِّمُنُ یا عَزِیْزُ

اے سلام! اے امان دینے والے اے صاحب اختیار

يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا خَالِقُ يَا بَارِئُ

اے جبّار! اے متکبر! اے خالق! اے دنیا جہاں بنانے والے!

يَا مُصَوِّرُ يَا مُفِيدُ يَا مُدَبِّرُ يَا شَدِيدُ

اے صورتوں کو خدا حال دینے والے اے فائدہ رساں اے مدبّرِ عالم اے مضبوط

يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيدُ يَا مُبِيدُ يَا وَدُودُ يَا مَحْمُودُ

اے ابتدا کرنیوالے اے واپس پلٹانیوالے اے ہلاک کرنیوالے اے مہربان اے قابلِ تعریف

يَا مَعْبُودُ يَا بَعِيدُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبُ يَا رَقِيبُ

اے معبود اے سب سے ماورا سب سے قریب اے قبول کرنے والے اے نگران

يَا حَسِيبُ يَا بَدِئُ يَا رَفِيعُ يَا مَنِيعُ يَا سَمِيعُ

اے محاسبِ اعمال اے موجدِ بے مثال اے بلند درجہ اے محفوظ اے سنتے والے

يَا عَلِيمُ يَا حَلِيمُ يَا كَرِيمُ يَا حَكِيمُ يَا قَدِيمُ

اے جاننے والے اے بردبار اے کرم گتر اے حکیم اے قدیم

يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا حَتَّانُ يَا مَتَّانُ يَا دَيَّانُ

اے سرفراز اے عظیم اے محبت کرنے، احسان کرنے اور بدلہ دینے والے

يَا مُسْتَعَانَ يَا جَلِيلُ يَا جَمِيلُ يَا وَكِيلُ

اے وہ جس سے مدد لی جاتی ہے اے بڑی شان والے اے جمیل اے وکیل

يَا كَفِيلُ يَا مُقِيلُ يَا مُنِيلُ يَا نَبِيلُ يَا دَلِيلُ

اے کفالت کرنے والے اے درگزر کرنیوالے اے عطا کرنیوالے اے بلند اقبال اے رہنما

يَا هَادِي يَا بَادِي يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ

اے ہادی اے خالقِ اول اے سب سے پہلے اے سب سے آخر تک رہنے والے

يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا قَائِمٌ يَا دَائِمٌ يَا عَالِمٌ

اے ظاہر اے باطن اے قائم و دائم اے عالم

يَا حَاكِمٌ يَا قَاضِيٌ يَا عَادِلٌ يَا فَاصِلٌ يَا وَاصِلٌ

اے حاکم اے فیصلہ کرنے والے اے عادل اے جدا کرنے والے اے ملانے والے

يَا طَاهِرٌ يَا مُطَهِّرٌ يَا قَادِرٌ يَا مُقْتَدِرٌ

اے پاک اے پاک کرنے والے اے با اختیار و اقتدار

يَا كَبِيرٌ يَا مُتَكَبِّرٌ يَا وَاحِدٌ يَا أَحَدٌ يَا صَمَدٌ

اے کبیر و متکبر اے واحد اے یکتا اے بے نیاز

يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا

اے وہ جو کسی سے پیدا نہیں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی ہمسر

أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَلَا وَلَدٌ

ہے اور نہ اس کا کوئی رفیق ہے نہ کوئی فرزند

وَلَا كَانَ مَعَهُ وَزِيرٌ وَلَا اتَّخَذَ مَعَهُ مَشِيرًا

نہ ساتھ کوئی بوجھ بانٹنے والا (وزیر) اور نہ اپنے ساتھ کسی مشورہ دینے والے کو رکھتا ہے

وَلَا احتَاجَ إِلَى ظَهِيرٍ وَلَا كَانَ مَعَهُ مِنْ

نہ کسی مددگار کا محتاج ہے نہ اس کے ساتھ کوئی اور

إِلَهٍ غَيْرُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَتَعَالَيْتَ عَمَّا

معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں یہ غلط کار لوگ جو کہتے ہیں

يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا يَا عَلِيُّ

تیری ذات اس سے بہت بلند ہے بہت ہی بلند اے سرفراز

يَا شَامِخُ يَا بَاذِخُ يَا فَتَّاحُ يَا نَفَّاحُ

اے بچید بلند مرتبہ اے صاحبِ بخت اے بند دروازے کھولنے والے

يَا مُرْتَاخُ يَا مُفَرِّحُ يَا نَاصِرُ يَا مُنْتَصِرُ

اے احمق سکون دینے والے اے کشائش و نصرت عطا کرنے والے اے مددگار

يَا مُدْرِكُ يَا مُهْلِكُ يَا مُنْتَقِمُ يَا بَاعِثُ

اے پکڑنے والے اے فنا کرنے والے اے انتقام لینے والے اے دوبارہ پیدا کرنے والے

يَا وَارِثُ يَا طَالِبُ يَا غَالِبُ يَا مَنْ لَا يَفْوُتُهُ

اے ہر ایک وارث اے نیک عمل چاہنے والے اے غالب اے وہ جس سے بھاگنے والا بھاگ

هَارِبٌ يَا تَوَّابٌ يَا أَوَّابٌ يَا وَهَّابٌ

نہیں سکتا اے توبہ قبول کرنے والے اے بار بار توبہ کرنے والے اے بہت دینے والے

يَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ يَا مُفْتِّحَ الْأَبْوَابِ

اے اسباب دہتا کرنے والے اے دروازے کھولنے والے

يَا مَنْ حَيْثُ مَا دُعِيَ أَجَابَ

اے وہ ذات جسے جس جگہ سے پکارا جائے وہ جواب دیتا ہے

يَا طَهُورُ يَا شَكُورُ يَا عَفُوُّ يَا غَفُورُ

لے ظہور لے شکر لے معاف کرنیوالے لے بخشنے والے

يَا نُورَ النُّورِ يَا مَدَبِّرَ الْأُمُورِ يَا لَطِيفُ

لے نور کو نور بنانے والے لے معاملات کے منتظم لے لطیف

يَا خَبِيرُ يَا مَجِيبُ يَا مَبِيبُ يَا بَصِيرُ يَا ظَاهِرُ

لے خبیر لے پناہ دینے والے لے تباہ کرنیوالے لے صاحب نظر لے مددگار

يَا كَبِيرُ يَا وَتْرُ يَا فَرْدُ يَا أَبَدُ يَا سَدِيدُ يَا صَمَدُ

لے بزرگ و برتر لے واحد و کیتا لے ابد لے سند لے بے نیاز

يَا شَافِيُ يَا كَافِيُ يَا وَافِيُ يَا مُعَافِيُ

لے شفا دینے والے لے کافی لے وعدہ وفا کرنے والے لے معافی دینے والے

يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ

لے احسان کرنیوالے لے انعام و فضل کرنے والے

يَا مُتَكَبِّرُ يَا مُتَفَرِّدُ يَا مَنْ عَلا فَكَهْرُ

لے مستکرم لے متفرد لے بلند و غالب

يَا مَنْ مَلَكَ فَقْدَارُ يَا مَنْ بَطَّنَ فَخَبْرُ

لے مالک و کھلم قدرت والے لے وہ کھنگاہوں سے نہاں و باخبر ہے

يَا مَنْ عُبِدَ فَشَكَرَ يَا مَنْ عُصِيَ فَغَفَرَ

لے وہ جس کی عبادت کی گئی تو اس نے قدر کی، نافرمانی کی گئی تو اس نے بخش دیا

يَا مَنْ لَا تَحْوِيَهُ الْفِكْرُ وَلَا يَدْرِكُهُ بَصَرٌ

اے وہ جسے فکر (انسان) گھیر نہیں سکتی ، نظر محسوس نہیں کر سکتی

وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَثَرٌ يَا رَازِقَ الْبَشَرِ يَا مُقَدِّرَ

جس سے کوئی نشان پوشیدہ نہیں اے انسانوں کے روزی سماں اے ہر مقدر

كُلِّ قَدَرٍ يَا عَالِي الْمَكَانِ يَا شَدِيدَ الْأَرْكَانِ

کا تعین کرنے والے اے عالی جاہ اے مضبوط طاقتوں والے

يَا مُبَدِّلَ الزَّمَانِ يَا قَابِلَ الْقُرْبَانِ يَا ذَا الْمَنِّ

اے زمانہ بدل دینے والے اے قربانیاں قبول کرنے والے اے صاحب

وَالْإِحْسَانِ يَا ذَا الْعِزِّ وَالسُّلْطَنِ يَا رَحِيمَ

احسان و کرم اے صاحب عزت و سلطنت اے رحیم

يَا رَحْمَنُ يَا مَنْ هُوَ كُلُّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ

اے رحمن اے وہ جو ہر روز نئی شان کا جلوہ دکھاتا ہے

يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ

اے وہ جسے ایک حالت دوسری حالت سے روک نہیں سکتی (یعنی حالاً اس پر طاری نہیں ہوتے)

يَا عَظِيمَ الشَّانِ يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ مَكَانٍ

اے عظیم الشان اے ہر جگہ جلوہ آرا

يَا سَامِعَ الْأَصْوَاتِ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ

اے صدائیں (فراویں) سننے والے اے دعائیں قبول کرنے والے

يَا مُنْجِحَ الطَّلِبَاتِ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ

اے خواہشیں پوری کرنے والے اے حاجتیں بر لائے والے

يَا مُنْزِلَ الْبَرَكَاتِ يَا رَاحِمَ الْعِبْرَاتِ

اے برکتیں نازل کرنے والے اے بہتے ہوئے آنسوؤں پر رحم کرنے والے

يَا مُقِيلَ الْعَثْرَاتِ يَا كَاشِفَ الْكُرْبَاتِ

اے لغزشوں کو نظر انداز کرنے والے اے تکلیفیں دور کرنے والے

يَا وَليَّ الْحَسَنَاتِ يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ

اے نیکیوں کے والی اے درجات بلند کرنے والے

يَا مُوْتِي السُّعْلَاتِ يَا مُحْيِيَ الْأَمْوَاتِ

اے سوال پورا کرنے والے اے مردوں کو زندگی دینے والے

يَا جَامِعَ الشَّيْئَاتِ يَا مُطْلِعَ عَلَي النِّيَّاتِ

اے منتشر چیزوں کو یکجا کرنے والے اے نیتوں سے باخبر

يَا رَادَّ مَا قَدَفَاتِ يَا مَنْ لَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ

اے گم گشتہ چیزوں کو واپس لانے والے اے وہ جس کے لیے آوازیں شبہ کا

الْأَصْوَاتِ يَا مَنْ لَا تُضْجِرُهُ الْمَسْئَلَاتُ

باعث نہیں ہوتیں اے وہ جسے درخواستیں پریشان مزاج نہیں بناتیں

وَلَا تَغْشَاهُ الظُّلُمَاتُ يَا نُورَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ

اور تاریکیاں اس پر غالب نہیں آتیں اے زمین اور آسمانوں کے نور

يَا سَابِعَ النَّعْمِ يَا دَافِعَ النَّقَمِ يَا بَارِيَّ السَّمِ

اے پوری پوری نعمتیں دینے اور غضب دور کرنے والے اے جانوں کے خالق

يَا جَامِعَ الْأُمَمِ يَا شَافِيَ السَّقَمِ يَا خَالِقَ النُّورِ

اے امتوں کی یکجا کرنے والے اے بیماروں کو شفا دینے والے اے نور و تارکی کے

وَالظُّلَمِ يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ يَا مَرُّ

پیدا کرنے والے اے صاحب سخاوت و کرم اے وہ جس کے

لَا يَطَأُ عَرْشَهُ قَدَمٌ يَا أَجُودَ الْأَجُودِينَ

عرش تک کوئی قدم نہیں پہنچ سکتا اے سب سخیوں سے بڑھ کر سخی

يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ يَا أَسْمَعَ السَّمْعِينَ

اے سب بکریوں سے بڑھ کر کریم اے سب سننے والوں سے زیادہ سننے والے

يَا أَبْصَرَ النَّاطِرِينَ يَا جَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ

اے اہل نظر سے زیادہ صاحب نظر اے پناہ گیزوں کو پناہ دینے والے

يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ يَا ظَهَرَ اللَّاحِظِينَ

اے خوفزدہ لوگوں کو امان دینے والے اے فریادیوں کے فریاد رس

يَا وَرَى الْمُؤْمِنِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ

اے مومنوں کے والی اے فریادیوں کے فریاد رس

يَا غَايَةَ الظَّالِمِينَ يَا صَاحِبَ كُلِّ غَرِيبٍ

اے مانگنے والوں کے مقصد و منزل اے ہر بے وطن کے ساتھی

يَا مُنْسَ كُلِّ وَحِيدٍ يَا مَدْجَاءَ كُلِّ طَرِيدٍ

اے ہر ایک کے مونس اے ہر جگہ سے خوار ہو کر نکلے ہوؤں کی منزل (پناہ)

يَا مَأْوَى كُلِّ شَرِيدٍ يَا حَافِظَ كُلِّ ضَالَّةٍ

اے ہر بے وطن کی حفاظت گاہ اے ہر بھٹکے ہوئے کے نگہبان

يَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ يَا رَازِقَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ

اے حد سے زیادہ بڑھے ہوئے پر رحم کرنے والے اے کم سن بچے کو روزی دینے والے

يَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَثِيرِ يَا فَالَكِ كُلِّ أَسِيرٍ

اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے اے اسیروں کو رہائی دینے والے

يَا مُعْنَى الْبَائِسِ الْفَقِيرِ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِ

اے غم نصیب محتاج کو معنی کرنے والے اے ڈرے ہوئے پناہ گیر کے

الْمُسْتَجِيرِ يَا مَنْ لَهُ التَّدْبِيرُ وَالتَّقْدِيرُ

محافظ اے تدبیر و تقدیر کے مالک

يَا مَنْ الْعَسِيرُ عَلَيْهِ سَهْلٌ يَسِيرٌ

اے وہ جس کے لیے ہر مشکل آسان ہے

يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْسِيرٍ يَا مَنْ هُوَ عَلَى

اے وہ جو کسی شرح کا محتاج نہیں اے وہ جو ہر

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ خَبِيرٌ

ہر چیز پر قادر ہے اے وہ جو ہر بات سے باخبر ہے

يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ

اے وہ کہ ہرچیز تیری نظر میں ہے

يَا مُرْسِلَ الرِّيحِ يَا فَالِقَ الْأَصْبَاحِ

اے ہواؤں کے بھیجنے والے اے صبحوں کو نمایاں کرنے والے

يَا بَاعِثَ الْأَرْوَاحِ يَا ذَا الْجُودِ وَالسَّمَّاحِ

اے روجوں کو زندہ کرنے والے اے صاحبِ جود و بخشش

يَا مَنْ بِيَدِهِ كُلُّ مِفْتَاحٍ يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ

اے وہ جس کے ہاتھ میں ہرچیز کی کنجی ہے اے ہر صدا کو سننے والے

يَا سَابِقَ كُلِّ قَوْتٍ يَا مُحْيِيَ كُلِّ نَفْسٍ بَعْدَ الْمَوْتِ

اے ہر آگے بڑھنے والے سے آگے اے ہر ذات کو مرنے کے بعد زندہ کرنے والے

يَا عِدَّتِي فِي شِدَّتِي يَا حَافِظِي فِي غُرْبَتِي

اے میری مشکلوں کے سہارے اے میری مسافرت کے محافظ

يَا مُوْنِسِي فِي وَحْدَتِي يَا وَاوِلِيِّي فِي نِعْمَتِي

اے میری تنہائی کے مونس اے میری نعمتوں کے والی

يَا كَهْفِي حِينَ تُعِينِي الْمَذَاهِبُ

اے میری پناہ جب تدبیر کی راہیں مجھے تھکا دیں

وَتُسَلِّمُنِي الْأَقْرَابُ وَيَخَذُلْنِي كُلُّ صَاحِبٍ

عزیز و اقارب ساتھ چھوڑ دیں اور ہر رفیق ناکام بنا دے

يَا عِمَادَ مَنْ لَا عِمَادَ لَهُ يَا سِنْدَ مَنْ لَا سِنْدَ لَهُ

اے بے سہارا کے سہارے اے بے آسرا کے تکیہ گاہ

يَا ذُخْرَ مَنْ لَا ذُخْرَ لَهُ يَا حُرْزَ مَنْ لَا حُرْزَ لَهُ

اے بے ذخیرہ شخص کے ذخیرے اے بے محافظ کے محافظ

يَا كَهْفَ مَنْ لَا كَهْفَ لَهُ يَا كَنْزَ مَنْ لَا كَنْزَ لَهُ

اے بے گھری پناہ گاہ اے نردوہن کے دهن (دخزانی)

يَا رُكْنَ مَنْ لَا رُكْنَ لَهُ يَا غِيَاثَ مَنْ لَا غِيَاثَ لَهُ

اے بے یار و مددگار کے مددگار اے بے نوا کے فریاد رس

يَا جَارَ مَنْ لَا جَارَ لَهُ يَا جَارِيَ اللَّصِيقِ

اے بے پڑوسی کے پڑوسی اے میرے قریب ترین پڑوسی

يَا رُكْنِي الْوَشِيقِ يَا إِلَهِي بِاللَّحْقِيقِ

اے میرے مضبوط سہارے اے میرے یقینی معبود

يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ يَا شَفِيقُ يَا رَفِيقُ

اے قدیم ترین گھر (کعبہ) کے مالک اے شفیق اے رفیق

فُكِّنِي مِنْ حَلِقِ الْمَضِيقِ وَأَصْرِفْ عَنِّي كُلَّ

مجھے تنگ حلقوں سے چھڑا مجھ سے ہر رنج و غم

هَمٍّ وَغَمٍّ وَضِيقٍ وَأَكْفِنِي شَرَّ مَا لَا أُطِيقُ

اور تنگی پھیر دے اور جس کو میں برداشت نہیں کر سکتا اسکے شر سے مجھے بچا

وَاعِنِّي عَلَى مَا أَطِيقُ يَا سَادَّيُوسُفَ عَلَى يَعْقُوبَ

اور جس ذخیرہ کی طاقت رکھتا ہوں اسپر میری مدد کر لے یوسف کو یعقوب تک ایس لانے والے

يَا كَاشِفَ ضُرِّ أَيُّوبَ يَا غَافِرَ ذَنْبِ دَاوُدَ

لے ایوب کے دکھ کو دور کرنے والے لے داؤد کی خطا کو معاف کرنے والے

يَا رَافِعَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَمُنْجِيَهُ مِنَ أَيْدِي الْيَهُودِ

لے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان پر اٹھالینے اور انھیں یہود کے ہاتھ سے نجات دینے والے

يَا مُجِيبَ نِدَاءِ يُوسُفَ فِي الظُّلْمِ يَا مُصْطَفَى

لے تاریکیوں سے یونس علیہ السلام کی آواز سننے والے لے موسیٰ علیہ السلام

مُوسَىٰ بِالْكَلِمَاتِ يَا مَنْ غَفَرَ لِأَدَمَ مَخْطِئَتَهُ

کو اپنے کلمات کے ذریعہ منتخب کرنے والے لے آدم کے ترک اولیٰ کو معاف کرنے والے

وَرَافِعَ رِيسَ مَكَانًا عَلِيًّا بِرَحْمَتِهِ

اور ادریس کو اپنی رحمت سے بلند منزل (آسمان) پر اٹھانے والے

يَا مَنْ نَجَّى نُوحًا مِنَ الْغَرَقِ يَا مَنْ أَهْلَكَ

لے وہ جس نے نوح کو غرق ہونے سے بچایا لے وہ جس نے ہلاک کیا

عَادَانَ الْأُولَىٰ وَشَمُودَ فَمَا آتَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلِهِ

پہلے عاد اور شمود کو اور نشان بھی باقی نہ رکھا اور ان سے پہلے قوم نوح کا یہی حشر کیا

لَهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ

کیونکہ وہ بہت ظالم اور باغی تھے اور (جس نے) اجڑی بستیوں کو ختم کیا

يَا مَنْ دَمَّرَ عَلَى قَوْمِ لُوطٍ وَدَمَّرَ عَلَى قَوْمِ شُعَيْبٍ

اے وہ جس نے قوم لوط کو تباہ کیا اور قوم شعیب پر عذاب کیا

يَا مَنْ اتَّخَذَ اِبْرَاهِيمَ خَلِيْلًا يَا مَنْ اتَّخَذَ

اے وہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل

مُوسَى كَلِيْمًا يَا مَنْ اتَّخَذَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ

موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ حَبِيْبًا

علیہ وآلہ وعلیہم اجمعین کو اپنا حبیب بنایا

يَا مُوتِي لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ وَالْوَاهِبَ لِسُلَيْمَانَ

اے لقمان کو حکمت عطا کرنے والے اور سلیمان علیہ السلام کو ملک

مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِاحِدٍ مِّنْ بَعْدِهِ يَا مَنْ تَصَرَّ

بخشنے والے جو ان کے بعد کسی کو زیب نہ دے سکا اے وہ جس نے

ذَاقِرْنَيْنِ عَلَى الْمُلُوكِ الْجَبَابِرَةِ يَا مَنْ اَعْطَى

ذواقرین کو قوی سے قوی بادشاہوں کے مقابلے میں مدد دی اے وہ جس نے

الْخِضْرَ الْحَيَوَةَ وَرَادَّ لِيُوشَعَ ابْنَ نُونٍ الشَّمْسَ

خضر کو حیات جاوداں دی اور یوشع بن نون کے لیے سورج کی روشنی دے دینی

بَعْدَ عُرُوبِهَا يَا مَنْ رَبَّطَ عَلَى قَلْبِ اُمِّ مُوسَى

کے بعد واپس کی اے وہ جس نے موسیٰ کی ماں کے دل کو ڈھارس دی

وَاحْصِنِ فَرْجَ مَرْيَمَ ابْنَتِ عِمْرَانَ

اور مریم بنت عمران کی عصمت کی حفاظت کی

يَا مَنْ حَصَّنَ يَحْيَى ابْنَ زَكَرِيَّا مِنَ الذَّنْبِ

اے وہ جس نے یحییٰ بن زکریا کو ارادہ گناہ سے بچایا

وَسَكَّنَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبَ يَا مَنْ بَشَّرَ

اور موسیٰ علیہ السلام کے غصے کو سکون عطا فرمایا اے وہ جس نے زکریا کو

زَكَرِيَّا بِيَحْيَى يَا مَنْ فَدَى إِسْمَاعِيلَ مِنَ

ولادت یحییٰ کی خوشخبری دی اے وہ جس نے اسمعیل علیہ السلام کی قربانی کو

الذَّبِّ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ يَا مَنْ قَبَلَ قُرْبَانَ

ایک بڑی قربانی سے بدل دیا اے وہ جس نے ہابیل کی قربانی

هَابِيلَ وَجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَى قَابِيلَ يَا هَازِمَ

قبول فرما کر قابیل پر لعنت فرمائی اے

الْأَحْزَابِ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کے مقابل گروہوں کو شکست دینے والے

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى جَمِيعِ الْمُرْسَلِينَ

رحمت نازل فرما محمد و آل محمد (صلی اللہ علیہ آلہ وسلم) پر اور تمام رسولوں

وَمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَأَهْلَ طَاعَتِكَ أَجْمَعِينَ

ملائکہ مقربین اور تمام اطاعت گزار بندوں پر

وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ مَسْأَلَةٍ سَأَلْتُكَ بِهَا أَحَدًا

اور (یا اللہ) میں تجھ سے ہر وہ درخواست کرتا ہوں جو تیری مخلوق میں تیرے

مِمَّنْ رَضِيتَ عَنْهُ فَحَتَمْتَ لَهُ عَلَى الْإِجَابَةِ

پسندیدہ بندوں میں سے کسی ایک نے درخواست کی ہو اور تو نے اسے پورا کرنے کا فیصلہ کیا ہو

يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ

اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے رحمن اے رحمن اے رحمن

يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اے رحیم اے رحیم اے رحیم اے صاحب جلال و اکرام

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اے صاحب جلال و اکرام اے صاحب جلال و اکرام

بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ

اسی (نام) کا صبر، اسی کا تصدق، اسی کا وسیلہ، اسی کے ذریعہ، اسی کے واسطے، اسی کے سہارے

أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ

میں تجھ سے مانگتا ہوں ہر وہ نام لے کر جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھ لیا ہو

أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي شَيْءٍ مِّنْ كُتُبِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ

یا تو نے وہ نام اپنی کتابوں میں اتارا ہو یا تو نے اسے اپنے

بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ وَبِمَعَاقِدِ الْعِزِّ

علم غیب میں محفوظ کر لیا ہو اور تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے

مِنْ عَرْشِكَ وَبِمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ

عرش کے باعزت ترین مقامات اور انتہائے رحمت کا

وَبِمَا لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ

اور اس نام کا وسیلہ جسکے لیے فرمایا، اگر روئے زمین پر سب درخت

أَقْلَامٌ وَالْبَحْرِ مِثْلُهَا مِنْ بَعْدِهَا سَبْعَةٌ أَبْحَرُ

قلم اور ساتوں سمندر دوشنائی بن جائیں

مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

جب بھی کلمات الہی ختم نہ ہوں یقیناً اللہ با اختیار صاحب حکمت ہے

وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى الَّتِي نَعَتْهَا

اور تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اسمائے حسنیٰ کے صدقے جن کی تو نے اپنی

فِي كِتَابِكَ فَقُلْتَ وَرَبِّكَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى

کتاب میں تعریف کی اور فرمایا " اور اللہ ہی کے ہیں اسماء حسنیٰ (اچھے اچھے نام)

فَادْعُوهُ بِهَا وَقُلْتَ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

ان کے ذریعہ دعا کرو اور فرمایا " مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا

وَقُلْتَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي

اور تیرا ہی ارشاد ہے " جب میرے بندے (اے رسول) تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں

قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

تو میں ان سے قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں

وَقُلْتَ يَا عَبْدِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ

اور تیرا ہی فرمان ہے "اپنے اوپر ظلم و زیادتی کرنے والے میرے (گنہگار) بندو!

لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ

اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو یقیناً اللہ بخش دے گا

الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

سب گناہوں کو وہ بہت غفور و رحیم ہے۔"

وَأَنَا أَسْأَلُكَ يَا إِلَهِي وَأَدْعُوكَ يَا رَبِّ

یا الہی! میں اب تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ میرے رب میں تجھے پکار رہا ہوں

وَأَرْجُوكَ يَا سَيِّدِي وَأَطْمَعُ فِي إِجَابَتِي

میرے مولا تجھ سے آس لگاتے ہوئے ہوں اور مجھے اپنی دعا قبول ہونے کا لالچ ہے

يَا مَوْلَايَ كَمَا وَعَدْتَنِي وَقَدْ دَعَوْتُكَ

کیونکہ میرے مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور پھر میں تو تجھے اسی طرح پکار رہا ہوں

كَمَا أَمَرْتَنِي فَا فَعَلْتُ بِمِ مَّا أَنْتَ أَهْلُهُ

جس انداز میں تو نے پکارنے کا حکم دیا ہے اب تو جس مرتبہ کا مالک ہے اس کے مطابق میرا فیصلہ فرما

يَا كَرِيمٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اے کریم! اور حمد تو تمام جہانوں کے رب ہی کو زیب ہے

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ

اور اللہ تعالیٰ حضرت محمدؐ اور آپؐ کی آلؑ سب پر رحمت نازل فرماتے

دُعائے جوشن کبیر

اس دعائے مبارکہ کے فضائل و خواص بہت ہیں۔ کتاب "تحفۃ النجیح" میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر سے نکلنے وقت اس دُعا کو پڑھے یا اپنے پاس رکھے تو خدا اسے ہر بلا سے بچائے گا اور جس گھر میں یہ دُعا ہو وہ گھر آتش زدگی اور چوری سے محفوظ رہے گا۔ نیز اس دُعا کو جس مریض پر پُرِ خلوص نیت سے پڑھا جائے خداوندِ عالم اس کو شفا دے گا خواہ وہ مرض جنون ہو یا برس و جذام ہو۔ اور جو کوئی اس دُعا کو کفن پر لکھوائے تو خدا اس پر عذاب نہیں کریگا۔ اس کے علاوہ جو شخص ماہِ مبارکِ رمضان میں یہ دُعا تین مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ آتشِ دوزخ اس پر صرام اور بشت اس پر واجب کریگا۔ اس دُعا میں تنوِ فضلیں ہیں اور ہر فصل کے آخر میں یہ کلمات پڑھے جائیں۔

سُبْحٰنَكَ يَا اِلٰهَ الْاَلٰهَاتِ اَنْتَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ

اے وہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور فریاد رسوں کا فریاد رس ہے

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

نجات دے ہم کو آتشِ دوزخ سے اے پالنے والے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے جو رحمن و رحیم ہے

① اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا اَللّٰهُ

خدایا میں بھیک مانگتا ہوں تیرے نام سے اے اللہ!

يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِیْمُ يَا كَرِیْمُ يَا مُقِیْمُ يَا عَظِیْمُ

اے رحمن اے رحیم اے کرم کرنے والے اے قائم اے بزرگی والے

يَا قَدِیْمُ يَا عَلِیْمُ يَا حَلِیْمُ يَا حَكِیْمُ

اے ہمیشہ رہنے والے اے دانا اے بردبار اے حکمت والے

سُبْحٰنَكَ يَا اِلٰهَ اِلٰهٍ اِلَّا اَنْتَ الْغَوْثُ

اے وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور فریاد رسوں کا

الْغَوْثُ خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ

فریاد رس ہے نجات دے ہم کو آتش دوزخ سے اے پالنے والے!

② يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ يَا مُجِیْبَ الدَّعَوَاتِ

اے سرداروں کے سردار اے دعاؤں کے قبول کرنے والے

يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ يَا وِلٰیَّ الْحَسَنَاتِ

اے مرتبوں کے بلند کرنے والے اے نیکیوں کے والی!

يَا غَافِرَ الْخَطِيْئَاتِ يَا مُعْطٰی الْمَسْأَلَاتِ

اے گناہوں کے بخشنے والے اے عطا کرنے والے سوالات کے

يَا قَابِلَ التَّوْبَاتِ يَا سَامِعَ الْأَصْوَاتِ

اے توبہ قبول کرنے والے اے آوازوں کے سُننے والے

يَا عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ

اے پوشیدہ باتوں کے جاننے والے اے بلاؤں کے دفع کرنے والے

③ يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ يَا خَيْرَ الْفَاتِحِينَ

اے بہترین بخشنے والے اے بہتہ کثافتش کرنے والے

يَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ يَا خَيْرَ الْحَاكِمِينَ

اے بہترین نصرت کرنے والے اے بہترین حکم کرنے والے

يَا خَيْرَ الرَّازِقِينَ يَا خَيْرَ الْوَارِثِينَ

اے بہترین رزق دینے والے اے بہترین وارثوں کے وارث

يَا خَيْرَ الْحَامِدِينَ يَا خَيْرَ الذَّاكِرِينَ

اے بہترین حمد کرنے والے اے بہترین ذکر کرنے والے

يَا خَيْرَ الْمُنْزِلِينَ يَا خَيْرَ الْمُحْسِنِينَ

اے بہترین نازل کرنے والے اے بہترین احسان کرنے والے

④ يَا مَنْ لَهُ الْعِزَّةُ وَالْجَمَالُ يَا مَنْ

اے وہ جس کے واسطے عزت و نیکی ہے اے وہ جس کے

لَهُ الْقُدْرَةُ وَالْكَمَالُ يَا مَنْ لَهُ الْمُلْكُ

واسطے قدرت و کمال ہے اے وہ ذات جو صاحبِ مملکت

وَالْجَلَالُ يَا مَنْ هُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالُ يَا مَنْ شَيْءٌ

بزرگی ہے اے وہ ذات جو بزرگ و عالی مرتبہ ہے اے پیدا کرنے والے

السَّحَابِ الثَّقَالِ يَا مَنْ هُوَ شَدِيدُ الْبِحَالِ

بھاری بھاری بادلوں کے اے وہ خدا جو سب سے زیادہ طاقت ور ہے

يَا مَنْ هُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا مَنْ هُوَ

اے وہ خدا جو جلد حساب لینے والا ہے اے وہ خدا جو

شَدِيدُ الْعِقَابِ يَا مَنْ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

سخت عذاب کرنے والا ہے اے وہ خدا جس کے پاس عمدہ سے عمدہ ثواب ہے

يَا مَنْ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

اے وہ خدا جس کے پاس ام الکتاب ہے

⑤ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا حَنَّانُ

خداوند! یہ تحقیق سوال کرتا ہوں میں تیرے نام سے اے مہربان!

يَا مَنَّانُ يَا دَيَّانُ يَا بَرَّهَانَ يَا سُلْطَنُ

اے احسان کرنے والے اے جزائینے والے اے روشن دلیل اے بادشاہ

يَا رِضْوَانَ يَا غَفْرَانَ يَا سُبْحَانَ يَا مُسْتَعَانَ

اے خوشنود کرنے والے اے بخشنے والے اے پاک اے عاجزوں کے مددگار

يَا ذَا الْمِنَّ وَالْبَيَانِ -

اے صاحبِ نعمت اور ظاہر کرنے والے چیزوں کے

۶) يَا مَنْ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِهِ

اے وہ خدا جو سب پر غالب ہے بسبب اپنی بزرگی کے

يَا مَنْ اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ

اے وہ خدا کہ جس کی قدرت کاملہ سے ہر چیز کی سلامتی و بقا ہے

يَا مَنْ ذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ يَا مَنْ خَضَعَ

اے وہ خدا کہ جس کی بزرگی کے نزدیک ہر چیز ذلیل ہے اے وہ خدا کہ جس کی

كُلُّ شَيْءٍ لِهَيْبَتِهِ يَا مَنْ انْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ

ہیبت سے ہر چیز عاجزی کرتی ہے اے وہ خدا کہ جس کے خوف سے

مَنْ خَشِيَتْهُ يَا مَنْ تَشَقَّتِ الْجِبَالُ مِنْ

ہر چیز تابع فرمان ہے اے وہ خدا کہ پھٹ جاتے ہیں پہاڑ جس کے

مَخَافَتِهِ يَا مَنْ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ بِأَمْرِهِ

خوف سے اے وہ خدا کہ جس کے حکم سے آسمان قائم ہیں

يَا مَنْ اسْتَقَرَّتِ الْأَرْضُونَ بِإِذْنِهِ

اے وہ خدا کہ جس کے حکم سے زمین برقرار ہے

يَا مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ يَا مَنْ

اے وہ خدا جس کی تسبیح فرشتہ رعد حمد کے ساتھ کرتا ہے اور وہ خدا

لَا يَعْتَدِي عَلَى أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ

جو اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا

⑤ يَا غَافِرَ الْخَطَايَا يَا كَاشِفَ الْبَلَايَا

اے گناہوں کے بخشنے والے اے بلاؤں کے دور کرنے والے

يَا مُنْتَهَى الرَّجَايَا يَا مُجْزِلَ الْعَطَايَا يَا وَاهِبَ

اے امیدوں کی انتہا اے بخششوں کے تمام کرنے والے اے نعمتوں کے

الرَّهْدَايَا يَا رَازِقَ الْبُرَايَا يَا قَاضِيَ الْمَنَايَا

عطا کرنے والے اے تمام مخلوق کے روزی دینے والے اے بندوں کے حاکم

يَا سَامِعَ الشَّكَايَا يَا بَاعِثَ الْبُرَايَا

اے شکایتوں کے سننے والے اے مخلوق کے زندہ کرنے والے

يَا مُطْلِقَ الْأَسَارِي

اے اسیروں کے رہا کرنے والے

⑥ يَا ذَا الْحَمْدِ وَالشَّانَاءِ يَا ذَا الْفَخْرِ وَالْبَهَاءِ

اے صاحبِ حمد و ستائش اے صاحبِ فخر و بزرگی

يَا ذَا الْمَجْدِ وَالسَّنَاءِ يَا ذَا الْعَهْدِ وَالْوَفَاءِ

اے صاحبِ عزت و درفت اے صاحبِ عہد و وفا

يَا ذَا الْعَفْوِ وَالرِّضَاءِ يَا ذَا الْمَرِّ وَالْعَطَاءِ

اے صاحبِ بخشش و خوشنودی اے صاحبِ احسان و عطا

يَا ذَا الْفَضْلِ وَالْقَضَاءِ يَا ذَا الْعِزِّ وَالْبَقَاءِ

اے صاحبِ فضیلت و فیصلہ برحق اے صاحبِ بلندی و ہمیشگی

يَا ذَا الْجُودِ وَالسَّخَاءِ يَا ذَا الْأَلَاءِ وَالنِّعْمَاءِ

اے صاحبِ بخشش و سخاوت اے صاحبِ نعماتِ کثیرہ

⑨ اَللّٰهُمَّ رَانِيْ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مَانِعُ

خداوندا میں بیشک تیرے نام کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں اے آفتوں کو روکنے والے

يَا دَافِعُ يَا رَافِعُ يَا صَانِعُ يَا نَافِعُ يَا سَامِعُ

اے بلاؤں کے دور کرنے والے اے بلند کرنے والے اے پیدا کرنے والے اے نفع دینے والے اے سننے والے

يَا جَامِعُ يَا شَافِعُ يَا وَاسِعُ يَا مُوسِعُ

اے جمع کرنے والے اے شفاعت کرنے والے اے بہت بخشنے والے اے نعمتوں کے زیادہ کرنے والے

⑩ يَا صَانِعَ كُلِّ مَصْنُوعٍ يَا خَالِقَ كُلِّ مَخْلُوقٍ

اے ہر شے کو بنانے والے اے ہر مخلوق کے پیدا کرنے والے

يَا رَازِقَ كُلِّ مَرْزُوقٍ يَا مَالِكَ كُلِّ مَمْلُوكٍ

اے ہر روزیٰ حاصل کرنے والے کو روزیٰ دینے والے اے ہر بندے کے مالک

يَا كَاشِفَ كُلِّ مَكْرُوْبٍ يَا فَارِجَ كُلِّ مَهْمُوْمٍ

اے ہر سختی کے دفع کرنے والے اے ہر غمزدہ کو خوش کرنے والے

يَا رَاحِمَ كُلِّ مَرْحُوْمٍ يَا نَاصِرَ كُلِّ مَخْذُوْلٍ

اے ہر لائقِ رحم پر رحم کرنے والے اے ہر ذلیل و خوار کی مدد کرنے والے

يَا سَاتِرَ كُلِّ مَعْيُوْبٍ يَا مُلْجَأَ كُلِّ مَطْرُوْدٍ

اے ہر عیب کی عیب پوشی کرنے والے اے ہر نکلنے والے کو پناہ دینے والے

⑪ يَا عُدَّتِي عِنْدَ شِدَّتِي يَا رَجَائِي عِنْدَ

لے میرے معتمد ہر سختی میں لے ہر نصیبت میں میری

مُصِيبَتِي يَا مُؤْنِسِي عِنْدَ وَحْشَتِي يَا صَاحِبِي

اُمید گاہ لے میری تنہائی میں میرے مؤنس لے میرے ساتھی

عِنْدَ غُرْبَتِي يَا وَلِيِّ عِنْدَ نِعْمَتِي

میري مسافت میں لے میرے دوست میری آسائش کے وقت

يَا غِيَاثِي عِنْدَ كُرْبَتِي يَا دَلِيلِي عِنْدَ حَيْرَتِي

لے میری سختیوں میں میرے فریاد رس لے میری گمراہی میں میرے رہنما

يَا غِنَايِي عِنْدَ افْتِقَارِي يَا مَلْجَأِي

لے میری احتیاج میں میری توانگری لے میرے پناہ

عِنْدَ اضْطِرَارِي يَا مُعِينِي عِنْدَ مَفْزَعِي

میرے اضطراب کے وقت لے میرے مددگار میرے خوف کے وقت

⑫ يَا عَالَمَ الْغُيُوبِ يَا غَفَّارَ الذُّنُوبِ

لے پوشیدگیوں کے جاننے والے لے گناہوں کے بخشنے والے

يَا سَتَّارَ الْعُيُوبِ يَا كَاشِفَ الْكُرُوبِ

لے عیبوں کے چھاننے والے لے غموں کے دفع کرنے والے

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ يَا طَيِّبَ الْقُلُوبِ

لے دلوں کو پھیرنے والے لے دلوں کی دُرا کرنے والے

يَا مُنَوِّرَ الْقُلُوبِ يَا أُنَيْسَ الْقُلُوبِ

اے دلوں کو روشن کرنے والے اے دلوں کے مصاحب

يَا مُفْرِجَ الْهُمُومِ يَا مُنْقِسَ الْغَمُومِ

اے غموں کے کھولنے والے اے غموں کے بظرف کرنے والے

۱۳) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا جَلِيلُ

اے خدا یہ تحقیق میں سوال کرتا ہوں تیرے نام کے ساتھ اے بزرگوار

يَا جَمِيلُ يَا وَكِيلُ يَا كَفِيلُ يَا دَلِيلُ يَا قَبِيلُ

اے نیکوکار اے حفاظت کرنیوالے اے بخشش کرنیوالے اے رہنما اے روزی کے ضامن

يَا مُدِيلُ يَا مُنِيلُ يَا مُقِيلُ يَا مُحِيلُ

اے نعمت دینے والے اے دولت دینے والے اے معاف کرنیوالے اے قوت دینے والے

۱۴) يَا دَلِيلَ الْمُتَحَيِّرِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ

اے بھٹکے ہوؤں کے رہنما اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس

يَا صَرِيحَ الْمُسْتَصْرِخِينَ يَا جَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ

اے فریاد کرنیوالوں کی فریاد سننے والے اے طالبانِ مدد کی مدد کرنے والے

يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ يَا عَوْنَ الْمُؤْمِنِينَ

اے خوفزدوں کو امان دینے والے اے مومنوں کے مددگار

يَا رَاحِمَ الْمَسْكِينِ يَا مَلْجَأَ الْعَاصِينَ

اے مسکینوں پر رحم کرنے والے اے گنہگاروں کے بچھنے والے

يَا غَافِرَ الْمُذْنِبِينَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ

اے گنہگاروں کے بخشنے والے اے دعاؤں کو قبول کرنے والے پریشان لوگوں کی

۱۵) يَا ذَا الْجُودِ وَالْإِحْسَانَ يَا ذَا الْفَضْلِ وَالْإِمْتِنَانَ

اے صاحب بخشش و احسان اے صاحب فضل و امتنان

يَا ذَا الْأَمْنِ وَالْأَمَانَ يَا ذَا الْقُدْسِ وَالسُّبْحَانَ

اے صاحب امن و امان اے صاحب تقدس و پاکی

يَا ذَا الْحِكْمَةِ وَالْبَيَانَ يَا ذَا الرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانَ

اے صاحب حکمت اور ظاہر کرنے والے چیزوں کے اے صاحب رحمت اور خوشنود کرنے والے

يَا ذَا الْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانَ يَا ذَا الْعِظَمَةِ وَالسَّلْطَنَ

اے صاحب دلیل روشن اے صاحب برتری و بادشاہی

يَا ذَا الرَّأْفَةِ وَالْمُسْتَعَانَ يَا ذَا الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانَ

اے صاحب رحم اور مدد کرنے والے اے صاحب عفو و بخشش

۱۶) يَا مَنْ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ يَا مَنْ هُوَ الْوَالِدُ

اے وہ جو پروردگار ہے ہر شے کا اے وہ خدا جو معبود ہے

كُلِّ شَيْءٍ يَا مَنْ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

ہر چیز کا اور اے وہ خدا جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے

يَا مَنْ هُوَ صَانِعُ كُلِّ شَيْءٍ يَا مَنْ هُوَ قَبْلُ

اے وہ خدا جو ہر چیز کا بنانے والا ہے اے وہ خدا جو پہلے ہے

كُلِّ شَيْءٍ يَأْمَنُ هُوَ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ

ہر چیز سے اور اے وہ خدا جو ہر چیز کے بعد بھی رہے گا

يَأْمَنُ هُوَ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ يَأْمَنُ هُوَ عَالِمًا

اے وہ خدا جو ہر چیز سے بڑتر ہے اے وہ خدا جو جاننے والا

بِكُلِّ شَيْءٍ يَأْمَنُ هُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

ہے تمام چیزوں کا اے وہ خدا جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے

يَأْمَنُ هُوَ يَبْقَىٰ وَيَفْنَىٰ كُلُّ شَيْءٍ

اے وہ خدا جو باقی رہنے والا ہے اور ہر چیز فنا ہونے والی ہے

۱۷) اللَّهُمَّ ارِنِي أَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مُؤْمِنُ

خداوند! تحقیق میں سوال کرتا ہوں تیرے نام کیساتھ اے امن دینے والے

يَا مُهَيِّمُنُ يَا مُكُونُ يَا مُلْقِنُ يَا مُبِينُ يَا مُهَوِّنُ

اے نگہبان اے پیدا کرنے والے اے علم دینے والے اے ظاہر کرنے والے اے آسان کرنے والے

يَا مُمَكِّنُ يَا مُزِينُ يَا مُعَلِّنُ يَا مُقَسِّمُ

اے جگہ دینے والے اے زینت دینے والے اے ظاہر کرنے والے اے تقسیم کرنے والے

۱۸) يَأْمَنُ هُوَ فِي مَلِكِهِ مُقِيمٌ يَأْمَنُ هُوَ

اے وہ خدا جو اپنی سلطنت میں قیام کرنے والا ہے اے وہ خدا جو

فِي سُلْطَانِهِ قَدِيمٌ يَأْمَنُ هُوَ فِي جَلَالِهِ

اپنی بادشاہی میں قدیم ہے اے وہ خدا جو اپنی بزرگی میں

عَظِيمٌ يَا مَنْ هُوَ عَلَى عِبَادِهِ رَحِيمٌ يَا مَنْ

بہت بڑا ہے اے وہ خدا جو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے اے وہ

هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ

خدا جو ہر شے جاننے والا ہے اے وہ خدا جو اپنے نافرمان

عَصَهُ حَلِيمٌ يَا مَنْ هُوَ بِمَنْ رَجَاءٌ كَرِيمٌ

بندوں پر بردبار ہے اے وہ خدا جو امیدوں پر کرم کرنے والا ہے

يَا مَنْ هُوَ فِي صُنْعِهِ حَكِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي

اے وہ خدا جو اپنی صنعت کا ملہ میں حکیم ہے اے وہ خدا جو

حِكْمَتِهِ لَطِيفٌ يَا مَنْ هُوَ فِي لُطْفِهِ قَدِيمٌ

اپنی حکمت میں لطف کرنے والا ہے اے وہ خدا جو اپنا لطف کرنے میں قدیم ہے

①۹ يَا مَنْ لَا يُرْجَى إِلَّا فَضْلُهُ يَا مَنْ لَا

اے وہ خدا جس سے امید نہیں کی جاتی مگر فضل کی اے وہ خدا جس سے

يُسْأَلُ إِلَّا عَفْوُهُ يَا مَنْ لَا يُنْظَرُ إِلَّا

سوال نہیں کیا جاسکتا مگر اسکی بخشش کا اے وہ خدا نہیں دیکھی جاتی مگر

بِرُّهُ يَا مَنْ لَا يُخَافُ إِلَّا عَدْلُهُ

اس کی نیکی اے وہ خدا کہ نہیں خوف کیا جاتا مگر اسکے انصاف کا

يَا مَنْ لَا يَدُومُ إِلَّا مُلْكُهُ يَا مَنْ

اے وہ خدا نہیں ہمیشگی رکھتی کوئی چیز مگر اس کی بادشاہی اے وہ خدا

لَا سُلْطَانَ إِلَّا سُلْطَانُهُ يَا مَنْ وَسَّعَتْ

نہیں ہے بادشاہی مگر بادشاہی اس کی لے وہ خدا کہ وسیع ہے

كُلِّ شَيْءٍ رَّحْمَتُهُ يَا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ

ہرچیز سے اس کی رحمت لے وہ خدا پیش دستی کرتی ہے اسکی رحمت

غَضَبُهُ يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ

اسکے غضب لے وہ خدا کہ اسکے علم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے

يَا مَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِثْلَهُ

لے وہ خدا کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے

۲۰ يَا فَارِجَ الْهَمِّ يَا كَاشِفَ الْغَمِّ يَا غَافِرَ

لے رنج کے دور کرنے والے لے غم کے کھولنے والے لے بخشنے والے

الذَّنْبِ يَا قَابِلَ التَّوْبِ يَا خَالِقَ الْخَلْقِ

خطاؤں کے لے توبہ قبول کرنے والے لے خلقت کے پیدا کرنے والے

يَا صَادِقَ الْوَعْدِ يَا مُوفِيَ الْعَهْدِ يَا عَالِمَ

لے سچا وعدہ کرنے والے لے عہد کے وفا کرنے والے لے بھید کے جاننے والے

السِّرِّ يَا فَالِقَ الْحَبِّ يَا سَازِقَ الْأَنَامِ

لے دانہ کے شکافتہ کرنے والے لے مخلوق کو رزق دینے والے

۲۱ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا عَلِيُّ

لے خداوند! بہ تحقیق سوال کرتا ہوں تیرے نام کے ساتھ لے بلند

يَا وَفِيَّ يَا غَنِيُّ يَا مَمْلِيُّ يَا حَفِيُّ يَا رِضِيُّ

اے وفا کرنے والے اے بے نیاز اے تو انگر اے پوشیدہ راز سے واقف اے پسندیدہ تر

يَا شَرِكُ يَا بَدِيُّ يَا قَوِيُّ يَا وَلِيُّ

اے نفس کو پاک کرنے والے اے ہمیشہ رہنے والے اے قوت رکھنے والے اے بہترین دوست

(۲۲) يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ يَا مَنْ سَتَرَ الْقَبِيحَ

اے وہ کہ ظاہر کرتا ہے خوبی بندہ کی اور لے وہ کہ جو برائیوں کو چھپاتا ہے

يَا مَنْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجُرَيْرَةِ يَا مَنْ

اور لے وہ کہ مواخذہ نہیں کرتا بندے کے گناہوں پر اے وہ کہ جو

لَمْ يَهْتِكِ السِّتْرَ يَا عَظِيمَ الْعَفْوِ يَا حَسَنَ

فاش نہیں کرتا پردہ بندوں کا اے بہت عفو کرنے والے اے خوب

التَّجَاوُزِ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ

درگزر کرنے والے اے بہت مغفرت کرنے والے اے کھولنے والے دونوں ہاتھوں

بِالرَّحْمَةِ يَا صَاحِبَ كُلِّ نَجْوَى

کے رحمت بندوں پر اے تمام بھیدوں کے جاننے والے

يَا مَنْ تَهَى كُلِّ شَكْوَى

اے ہر شکوہ کی انتہا

(۲۳) يَا ذَا النِّعْمَةِ السَّابِغَةِ يَا ذَا الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ

اے صاحبِ نعمتِ بے شمار اے صاحبِ رحمتِ بے انتہا

يَا ذَا الْمِنَّةِ السَّابِقَةِ يَا ذَا الْحِكْمَةِ الْبَالِغَةِ

اے صاحبِ منتہائے سابقہ اے صاحبِ حکمتِ کاملہ

يَا ذَا الْقُدْرَةِ الْكَامِلَةِ يَا ذَا الْحُجَّةِ الْقَاطِعَةِ

اے صاحبِ قدرتِ کاملہ اے صاحبِ دلیلِ قاطع

يَا ذَا الْكِرَامَةِ الظَّاهِرَةِ يَا ذَا الْعِزَّةِ الدَّائِمَةِ

اے صاحبِ کرامتِ ظاہرہ اے ہمیشہ رکھنے والے عزت کے

يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمُتَيِّنَةِ يَا ذَا الْعُظْمَةِ الْمُنِيعَةِ

اے صاحبِ قوتِ استوار اے صاحبِ بزرگی و مرتبہ بلند

يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ يَا جَاعِلَ الظُّلُمَاتِ

اے آسمانوں کے خلق کرنے والے اے تاریکیوں کے پیدا کرنے والے

يَا سَاحِمَ الْعَبْرَاتِ يَا مُقِيلَ الْعَثْرَاتِ

اے گریہ و بکا پہ رحم کرنے والے اے لغزشوں کے درگزر کرنے والے

يَا سَاتِرَ الْعَوْرَاتِ يَا مُحْيِيَ الْأَمْوَاتِ

اے بندوں کے عیب چھپانے والے اے مردوں کے زندہ کرنے والے

يَا مُنْزِلَ الْآيَاتِ يَا مُضِعِّفَ الْحَسَنَاتِ

اے نشانیوں کو نازل کرنے والے اے نیکیوں کے زیادہ کرنے والے

يَا مَاحِيَ السَّيِّئَاتِ يَا شَدِيدَ التَّقْمَاتِ

اے بدیوں کے محو کرنے والے اے سخت مواخذہ کرنے والے

۲۵) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مُصَوِّرُ

اے خداوند! یہ تحقیق کہ سوال کرتا ہوں میں تجھ سے تیسے ہی نام کے واسطے سے اے مصو

يَا مُقَدِّرُ يَا مُدَبِّرُ يَا مُظَهِّرُ يَا مُنَوِّرُ يَا مُبَيِّنُ

اے تقدر بنانے والے اے مدبر اے پاکیزہ کرنے والے اے روشن کرنے والے اے آسان کرنے والے

يَا مُبَشِّرُ يَا مُنْذِرُ يَا مُقَدِّمُ يَا مُؤَخِّرُ

اے بشارت دینے والے اے ڈرانے والے اے مقدم کرنے والے اے مؤخر کرنے والے

۲۶) يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَا رَبَّ الشَّهْرِ الْحَرَامِ

اے بیت الحرام کے پروردگار اے ماہ حرام کے پروردگار

يَا رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ يَا رَبَّ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ

اے شہر حرام کے پروردگار اے رکن اور مقام کے مالک

يَا رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ يَا رَبَّ الْمَسْجِدِ

اے مشعر الحرام کے مالک اے مسجد الحرام کے مالک

الْحَرَامِ يَا رَبَّ الْحِجْلِ وَالْحَرَامِ يَا رَبَّ

اے مقام حل و حرام کے پروردگار اے

النُّورِ وَالظُّلَامِ يَا رَبَّ التَّحِيَّةِ وَالسَّلَامِ

روشنی اور تاریکی کے مالک اے تحیة اور سلام کے پروردگار

يَا رَبَّ الْقُدْرَةِ فِي الْأَنَامِ

اے خلق میں قدرت و قوت کے پروردگار

۲۷) يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ يَا أَعْدَلَ الْعَادِلِينَ

اے حاکموں کے مالک اے انصاف کرنے والوں کے منصف تر

يَا أَصْدَقَ الصَّادِقِينَ يَا أَطْهَرَ الطَّاهِرِينَ

اے سچوں کے راست گو تر اے پاکوں کے پاک تر

يَا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ

اے خلق کرنے والوں کے بہترین اے حساب کرنے والوں کے جلد تر حساب کرنے والے

يَا أَسْمَعَ السَّمَاعِينَ يَا أَبْصَرَ الْبَاطِنِينَ

اے سننے والوں کے زیادہ سننے والے اے دیکھنے والوں سے زیادہ دیکھنے والے

يَا أَشْفَعَ الشَّافِعِينَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ

اے شفاعت کرنے والوں سے زیادہ شفاعت کرنے والے اے بزرگوں کے بزرگ تر

۲۸) يَا عِمَادَ مَنْ لِعِمَادِهِ يَا سِنْدَ مَنْ

اے توانائی دینے والے ان کو جو توانائی نہیں رکھتے اے سہارا اسکے جو

لَا سِنْدَ لَهُ يَا ذُخْرَ مَنْ لَذُخْرِهِ يَا حِرْزَ

سہارا نہیں رکھتا اے نگاہ رکھنے والے اسکے جو نگاہ نہیں رکھتا اے جلتے پناہ

مَنْ لَأَحِرْزَ لَهُ يَا غِيَاثَ مَنْ لَأَغْيَاثَ لَهُ

اسکے جو جلتے پناہ نہیں رکھتا اے فریاد رس اسکے جو فریاد رس نہیں رکھتا

يَا فُخْرَ مَنْ لَأَفْخْرَ لَهُ يَا عِزَّ مَنْ لَأَعِزَّ لَهُ

اے مددگار اسکے جو مددگار نہیں رکھتا اے عزت اس کی جو عزت نہیں رکھتا

يَا مُعِينٌ مَنْ لَا مُعِينَ لَهُ يَا أَيُّسَ مَنْ

اے مددگار اس کے جو مددگار نہیں رکھتا اے دوست اس کے جو

لَا أَيُّسَ لَهُ يَا أَمَانَ مَنْ لَا أَمَانَ لَهُ

دوست نہیں رکھتا اے پناہ دینے والے اس کے جو پناہ دہندہ نہیں رکھتا

۲۹) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا عَاصِمُ

خداوند! بہ تحقیق میں تجھ سے تیرے نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں اے محفوظ رکھنے والے

يَا قَائِمُ يَا دَائِمُ يَا رَاحِمُ يَا سَالِمُ يَا حَاكِمُ

اے قائم رکھنے والے اے ہمیشہ رہنے والے اے رحم کرنے والے اے سلامتی والے اے حاکم

يَا عَالِمُ يَا قَاسِمُ يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ

اے جاننے والے اے تقسیم کرنے والے اے بند کرنے والے اے کھولنے والے

۳۰) يَا عَاصِمُ مَنْ اسْتَعَصَمَهُ يَا رَاحِمُ مَنْ

اے التجا کرنے والوں کے جہائے پناہ اے رحمت چاہنے والوں

اسْتَرْحَمَهُ يَا غَافِرٌ مَنْ اسْتَغْفَرَهُ

کے رحم کرنے والے اے بخشش چاہنے والوں کو بخشنے والے

يَا نَاصِرٌ مَنْ اسْتَنْصَرَهُ يَا حَافِظٌ مَنْ

اے مدد چاہنے والوں کے مددگار اے حفاظت چاہنے والوں کے

اسْتَحْفَظَهُ يَا مُكْرِمٌ مَنْ اسْتَكْرَمَهُ

حفاظت کرنے والے اے کرم چاہنے والوں کے کرم کرنے والے

يَا مُرْشِدَ مَنْ اسْتَرْشَدَهُ يَا صَرِيحَ مَنْ

اے ہدایت چاہنے والوں کے ہدایت کرنے والے اے داد رسی چاہنے والوں

اسْتَصْرَحَهُ يَا مُعِينَ مَنْ اسْتَعَانَهُ

کے داد رس اے مدد چاہنے والوں کے مددگار

يَا مُغِيثَ مَنْ اسْتَعَاثَهُ

اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رسی کرنے والے

(۳۱) يَا عَزِيزًا لَا يُضَامُ يَا لَطِيفًا لَا يُرَامُ

اے وہ زبردست جو مغلوب نہیں ہوتا اے وہ لطیف جو دیکھا نہیں جاتا

يَا قَيُّومًا لَا يَنَامُ يَا دَائِمًا لَا يَفُوتُ

اے وہ توانا جو سوتا نہیں اے وہ ہمیشہ رہنے والے جو فوت نہیں ہوتا

يَا حَيًّا لَا يَمُوتُ يَا مَلِكًا لَا يَزُولُ

اے وہ زندہ جو مرتا نہیں اے وہ بادشاہ جس کی سلطنت کو زوال نہیں

يَا بَاقِيًا لَا يَفْنَىٰ يَا عَالِمًا لَا يَجْهَلُ

اے وہ باقی رہنے والے جو فنا نہیں ہوتا اے وہ عالم جو بھولت نہیں

يَا صَمَدًا لَا يُطْعَمُ يَا قَوِيًّا لَا يَضْعَفُ

اے وہ بے نیاز جو کھانے پینے سے مبرا ہے اے وہ قوی جو ضعیف نہیں ہوتا

(۳۲) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا اَحَدُ

خداوند! بہ تحقیق میں تجھ سے تیرے نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں اے یگانہ

يَا وَاحِدٌ يَا شَاهِدٌ يَا مَا جَدُّ يَا حَامِدٌ يَا رَاشِدٌ

لے بچتا لے حاضر لے صاحب معرفت لے بزرگ لے راہ دکھانے والے

يَا بَاعِثٌ يَا وَارِثٌ يَا ضَا سِرٌّ يَا نَافِعٌ

لے اٹھانے والے لے وارث لے ضرر پہنچانے والے لے نفع پہنچانے والے

يَا اَعْظَمَ مِنْ كُلِّ عَظِيمٍ يَا اَكْرَمَ مِنْ

لے سب بزرگوں سے بزرگ تر لے سب مہربانوں

كُلِّ كَرِيمٍ يَا اَرْحَمَ مِنْ كُلِّ رَحِيمٍ يَا اَعْلَمَ

سے مہربان لے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے لے سب جاننے

مِنْ كُلِّ عَالِمٍ يَا اَحْكَمَ مِنْ كُلِّ حَكِيمٍ

والوں سے زیادہ جاننے والے لے دانائے تمام عقلاء سے

يَا اَقْدَمَ مِنْ كُلِّ قَدِيمٍ يَا اَكْبَرَ مِنْ كُلِّ

لے قدیم تر سب قدیم تروں سے لے بزرگ دیر تر سب

كَبِيرٍ يَا اَلطَّفَ مِنْ كُلِّ لَطِيفٍ يَا اَجَلَ

بزرگوں سے لے پاکیزہ تر سب پاکیزہ تروں سے لے بزرگ تر

مِنْ كُلِّ جَلِيلٍ يَا اَعَزَّ مِنْ كُلِّ عَزِيزٍ

سب بزرگوں سے لے عزیز تر سب عزیزوں سے

يَا كَرِيمَ الصَّفْحِ يَا عَظِيمَ الْمَرْءِ

لے کریم درگذر کرنے والے گناہوں کے لے بڑے احسان کرنے والے

يَا كَثِيرَ الْخَيْرِ يَا قَدِيمَ الْفَضْلِ يَا دَائِمَ

لے صاحبِ خیر کثیر لے ہمیشہ سے فضل کرنے والے لے ہمیشہ سے

اللطيفِ يَا لَطِيفَ الصَّنْعِ يَا مُنْقِسَ الْكُرْبِ

لطیف کرنے والے لے لطیف پیدا کرنے والے لے رنج کے دغ کرنے والے

يَا كَاشِفَ الضَّرِّ يَا مَلِكَ الْمُلْكِ

لے صزر کو دور کرنے والے لے مُلک کے مالک

يَا قَاضِيَ الْحَقِّ

لے راستی سے حکم کرنے والے

③۵ يَا مَنْ هُوَ فِي عَهْدِهِ وَفِيَّ يَا مَنْ هُوَ فِيَّ

لے وہ خدا جو اپنے عہد میں کاہل ہے لے وہ خدا جو

وَفَاعِيهِ قَوِيَّ يَا مَنْ هُوَ فِي قُوَّتِهِ عَلِيٌّ

اپنی توانائی میں برتر ہے لے وہ خدا جو اپنی قوت میں بزرگ ہے

يَا مَنْ هُوَ فِي عُلُوِّهِ قَرِيبٌ يَا مَنْ هُوَ فِي

لے وہ خدا جو اپنی برتری میں سب سے قریب تر ہے لے وہ خدا جو

قُرْبِهِ لَطِيفٌ يَا مَنْ هُوَ فِي لَطْفِهِ شَرِيفٌ

اپنے قرب میں لطیف ہے لے وہ خدا جو اپنی لطافت میں شریف ہے

يَا مَنْ هُوَ فِي شَرَفِهِ عَزِيزٌ يَا مَنْ هُوَ فِي

لے وہ خدا جو اپنی بزرگی میں عزیز تر ہے لے وہ خدا جو

عِزَّةٌ عَظِيمٌ يَا مَنْ هُوَ فِي عَظَمَتِهِ مَجِيدٌ

اپنی قوت میں بزرگ ہے اے وہ خدا جو اپنی عظمت میں بزرگ ہے

يَا مَنْ هُوَ فِي مَجْدِهِ حَمِيدٌ

اے وہ خدا جو اپنی بزرگی میں حمد کیا گیا ہے

۳۲) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا كَافٍ

خداوند! بہ تحقیق میں سوال کرتا ہوں تجھ سے میرے نام کیسے اے کفایت کرنے والے

يَا شَافِيٌ يَا وَاوِيٌ يَا مُعَافِيٌ يَا هَادِيٌ

اے صحت دینے والے اے دفا کرنے والے اے معاف کرنے والے اے ہدایت کرنے والے

يَا دَاعِيٌ يَا قَاضِيٌ يَا رَاضِيٌ يَا عَالِيٌ يَا بَاقِيٌ

اے بلانے والے اے حکم کرنے والے اے خوش ہونے والے اے بلند مرتبہ اے باقی

۳۳) يَا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ خَاضِعٌ لَكَ يَا مَنْ

اے وہ خدا کہ جس کے لیے ہر چیز خضوع کرنے والی ہے اے وہ خدا

كُلُّ شَيْءٍ خَاشِعٌ لَكَ يَا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ

کہ جس کے لیے ہر چیز خشوع کرنے والی ہے اے وہ خدا کہ جس کے لیے ہر چیز

كَائِنٌ لَكَ يَا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ مَّوْجُودٌ بِكَ

ثابت ہے اے وہ خدا کہ جس کے لیے ہر شے موجود ہے

يَا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ مَّنِيْبٌ اِلَيْهِ يَا مَنْ كُلُّ شَيْءٍ

اے وہ خدا کہ ہر چیز جس کی طرف رجوع کرنے والی ہے اے وہ خدا کہ ہر شے

خَائِفٌ مِّنْهُ يَأْمَنُ كُلُّ شَيْءٍ قَائِمٌ بِهِ

جس سے خائف ہے اے وہ خدا کہ جس کی ہر شے قائم ہے

يَأْمَنُ كُلُّ شَيْءٍ صَاحِرٌ إِلَيْهِ يَأْمَنُ كُلُّ شَيْءٍ

اے وہ خدا کہ جس سے ہر شے بچنے والی ہے اے وہ خدا کہ جس کی ہر شے

لَيْسَ بِحُجْرَةٍ بِمَحْمُودَةٍ يَأْمَنُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

تبیح کرتی ہے اسکی حمدیں اے وہ خدا کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اسکی ذات کے

يَأْمَنُ لَا مَفْرَأَ إِلَّا إِلَيْهِ يَأْمَنُ لَا مَفْرَأَ

اے وہ کہ سولے جس کی طرف کے کہیں مفر نہیں؟ اے وہ کہ چلے پناہ سولے

إِلَّا إِلَيْهِ يَأْمَنُ لَا مَقْصِدَ إِلَّا إِلَيْهِ

جس کی طرف نہیں؟ اے وہ کہ راہ راست سولے جس کی طرف کے نہیں ہے

يَأْمَنُ لَا مَنْجَامِنْدُهُ إِلَّا إِلَيْهِ يَأْمَنُ لَا

اے وہ کہ جس کے بھاگ کر کہیں اور پناہ نہیں؟ اے وہ کہ

يُرْغَبُ إِلَّا إِلَيْهِ يَأْمَنُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

رغبت نہیں کی جاتی مگر اسکی طرف اے وہ قوت و توانائی کہ سولے تیرے کسی

بِهِ يَأْمَنُ لَا يَسْتَعَانُ إِلَّا بِهِ يَأْمَنُ لَا

میں نہیں اے وہ کہ سوا جس کے کسی سے مدد نہیں مانگتے اے وہ کہ سوا جس کے

يَتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَيْهِ يَأْمَنُ لَا يُرْجَى إِلَّا هُوَ

کسی اور پر اعتماد نہیں کیا جاتا اے وہ کہ سوا جس کے کسی اور سے امید نہیں کی جاتی

يَا مَنْ لَا يُعْبَدُ إِلَّا هُوَ

اے وہ کسوا جس کے کسی کی پرستش نہیں کی جاتی

۳۹) يَا خَيْرَ الْمَرْهُوبِينَ يَا خَيْرَ الْمَرْغُوبِينَ

اے بہترین ان کے جن سے خوف کیا جاتا ہے اے بہترین ان کے جن سے رغبت کی جاتی ہے

يَا خَيْرَ الْمَطْلُوبِينَ يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ

اے بہترین ان کے جو طلب کیے جاتے ہیں اے بہترین ان کے جن سے سوال کیا جاتا ہے

يَا خَيْرَ الْمُقْصُودِينَ يَا خَيْرَ الْمَذْكُورِينَ

اے بہترین ان کے جن کا قصد کیا جاتا ہے اے بہترین ان کے جن کا ذکر کیا جاتا ہے

يَا خَيْرَ الْمُشْكُورِينَ يَا خَيْرَ الْمُحْبُوبِينَ

اے بہترین ان کے جن کا شکر کیا جاتا ہے اے بہترین ان کے جن سے محبت کی جاتی ہے

يَا خَيْرَ الْمُدْعُومِينَ يَا خَيْرَ الْمُسْتَأْنِسِينَ

اے بہترین ان کے جن کو پکارا جاتا ہے اے بہترین ان کے جن سے اس کیا جاتا ہے

۴۰) اللَّهُمَّ ارِنِي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا غَافِرُ

خداوند! یہ تحقیق میں سوال کرنا ہوں تجھ سے ترے نام کے ساتھ اے بخشنے والے

يَا سَاتِرُ يَا قَادِرُ يَا قَاهِرُ يَا فَاطِرُ يَا كَاسِرُ

اے چھپانے والے اے قدرت والے اے صاحبِ قہر اے پیدا کرنے والے اے توڑنے والے

يَا جَابِرُ يَا ذَاكِرُ يَا نَاطِرُ يَا نَاصِرُ

اے جوڑنے والے اے ذکر کرنے والے اے دیکھنے والے اے مدد کرنے والے

﴿۴۱﴾ يَا مَنْ خَلَقَ فَسَوَّىٰ يَا مَنْ قَدَّرَ رَهْدًا

اے وہ جس نے پیدا کیا اور موزوں بنایا اے وہ خدا کہ مقدر کیا اور ہدایت کی

يَا مَنْ يَكْشِفُ الْبَلْوَىٰ يَا مَنْ يَسْمَعُ الذُّجُوٰ

اے وہ کہ دور کرتا ہے اپنے بندوں کی بلاؤں کو اے وہ کہ سب کے راز سنتا ہے

يَا مَنْ يُنْقِذُ الْغُرَّةَ يَا مَنْ يُنْجِي الْهَلَكَةَ

اے وہ خدا کہ جوڑ دیتے ہوؤں کو پار لگاتا ہے اے وہ خدا جو بچاتا ہے بیماروں کو

يَا مَنْ يَشْفِي الْمَرِيضَ يَا مَنْ أَضْحَكَ وَأَبْعَدَ

اے وہ خدا جو صحت دیتا ہے بیماروں کو اے وہ خدا جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے

يَا مَنْ أَمَاتَ وَأَحْيَىٰ يَا مَنْ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ

اے وہ خدا جو مارتا ہے اور چلاتا ہے اے وہ خدا جو مرد اور عورت کا

الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ

جوڑا پیدا کرتا ہے

﴿۴۲﴾ يَا مَنْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ سَبِيلُهُ

اے وہ خدا کہ خشکی اور تری میں جس کی راہ ہے

يَا مَنْ فِي الْأَفَاقِ آيَتُهُ يَا مَنْ فِي الْآيَةِ بُرْهَانُهُ

اے وہ خدا کہ زمانے میں جس کی نشانیاں ہیں اے وہ خدا کہ جبکی نشانیوں میں روشن دلیل ہے

يَا مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ قُدْرَتُهُ يَا مَنْ فِي الْقُبُورِ

اے وہ خدا کہ موت میں جس کی قدرت ہے اے وہ خدا کہ قبروں میں

عِبْرَتُهُ يَا مَنْ فِي الْقِيَمَةِ مُلْكُهُ يَا مَنْ فِي

جسکا نوز سے لے وہ خدا کہ روزِ قیامت جس کا مُلک ہے لے وہ خدا کہ

الْحِسَابِ هَيْبَتُهُ يَا مَنْ فِي الْمِيزَانِ قَضَائُهُ

حساب میں جس کی ہیبت ہے لے وہ خدا کہ ترازو میں جس کا فرمان ہے

يَا مَنْ فِي الْجَنَّةِ ثَوَابُهُ يَا مَنْ فِي النَّارِ عِقَابُهُ

لے وہ خدا کہ جنت میں جس کا ثواب ہے لے وہ خدا کہ دوزخ میں جس کا عذاب ہے

يَا مَنْ إِلَيْهِ يَهْرَبُ الْخَائِفُونَ يَا مَنْ إِلَيْهِ

لے وہ خدا کہ جس کی طرف بھاگتے ہیں ڈرنے والے لے وہ خدا کہ جسکی طرف

يَفْزَعُ الْمُنْذِبُونَ يَا مَنْ إِلَيْهِ يَقْصِدُ الْمُنِيبُونَ

پناہ لیتے ہیں گنہ گار لے وہ خدا کہ جس کی طرف قصد کرتے ہیں توبہ کرنے والے

يَا مَنْ إِلَيْهِ يَرْغَبُ الزَّاهِدُونَ يَا مَنْ إِلَيْهِ

لے وہ خدا کہ پرہیزگار جس کی طرف رغبت کرتے ہیں لے وہ خدا کہ جس کی طرف

يَدْجَأُ الْمُتَحَيِّرُونَ يَا مَنْ بِهِ يَسْتَأْنِسُ

پناہ لیتے ہیں حیرت شدہ لے وہ خدا کہ جس سے انس حاصل کرتے ہیں

الرَّامِدُونَ يَا مَنْ بِهِ يَفْتَخِرُ الْمُحِبُّونَ

ارادہ کرنے والے لے وہ خدا کہ فخر کرتے ہیں جس سے محبت کرنے والے

يَا مَنْ فِي عَفْوِهِ يَطْمَعُ الْخَاطِئُونَ يَا مَنْ إِلَيْهِ

لے وہ خدا کہ جس کی بخشش میں گنہ گار امید رکھتے ہیں لے وہ خدا کہ جس سے

يَسْكُنُ الْمُؤَقِنُونَ يَا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

تسکین پاتے ہیں یقین رکھنے والے لے د خدا کہ جس پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے

(۲۲) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا حَبِيبُ

خداوند! میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے نام کے ساتھ لے دوست

يَا طَبِيبُ يَا قَرِيبُ يَا رَقِيبُ يَا حَسِيبُ يَا مَهِيْبُ

لے دوا کرنے والے لے نزدیک لے نگہبان لے حساب لینے والے لے خوف دلانے والے

يَا مَثِيبُ يَا مُجِيبُ يَا خَيْرُ يَا بَصِيرُ

لے عقوبت دلانے والے لے قبول کرنے والے لے خبردار لے دیکھنے والے

(۲۵) يَا أَقْرَبَ مِنْ كُلِّ قَرِيبٍ يَا أَحَبَّ مِنْ كُلِّ

لے نزدیک تر ہر نزدیک تر سے لے دوست تر سب

حَبِيبٍ يَا أَبْصَرَ مِنْ كُلِّ بَصِيرٍ يَا أَخْبَرَ مِنْ

دوستوں سے لے زیادہ دیکھنے والے سب دیکھنے والوں سے لے خبردار تمام

كُلِّ خَيْرٍ يَا أَشْرَفَ مِنْ كُلِّ شَرِيفٍ

خیر رکھنے والوں سے لے بزرگ تر سب بزرگوں سے

يَا أَرْفَعَ مِنْ كُلِّ رَفِيعٍ يَا أَقْوَى مِنْ كُلِّ

لے بلند مرتبہ سب اہل رفعت سے لے قوی تر سب قوت والوں

قَوِيٍّ يَا أَعْنَى مِنْ كُلِّ غَنِيٍّ يَا أَجْوَدَ مِنْ كُلِّ

سے لے غنی تر سب تو بخیروں سے لے سخی تر سب سخیوں

جَوَادٍ يَا أَسْرَافَ مِنْ كُلِّ رَعْوَفٍ

سے اے مہربان تر سب مہربانوں سے

۴۶) يَا غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوبٍ يَا صَانِعًا غَيْرَ مَصْنُوعٍ

اے وہ غالب جو مغلوب نہیں ہوتا اے وہ صانع جس کو کسی نے نہیں بنایا

يَا خَالِقًا غَيْرَ مَخْلُوقٍ يَا مَالِكًا غَيْرَ مَمْلُوكٍ

اے وہ خالق جس کو کسی نے خلق نہیں کیا اے وہ بادشاہ جس پر کسی کی حکومت نہیں

يَا قَاهِرًا غَيْرَ مَقْهُورٍ يَا سَافِعًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ

اے وہ قاہر جو کم مقہور نہیں ہوتا اے وہ بلند جو پست نہیں ہوتا

يَا حَافِظًا غَيْرَ مَحْفُوظٍ يَا نَاصِرًا غَيْرَ مَنْصُورٍ

اے وہ نگہبان جو حفاظت کا محتاج نہیں اے وہ مددگار جو مدد کا محتاج نہیں

يَا شَاهِدًا غَيْرَ غَائِبٍ يَا قَرِيبًا غَيْرَ بَعِيدٍ

اے وہ ظاہر جو غائب نہیں ہوتا اے وہ قریب جو دور نہیں ہوتا

۴۷) يَا نُورَ النُّورِ يَا مُنَوَّرَ النُّورِ يَا خَالِقَ

اے نور کے نور اے سب نوروں کے روشن کینولے اے نور کے پیدا کرنے والے

النُّورِ يَا مُدَبِّرَ النُّورِ يَا مُقَدِّرَ النُّورِ يَا نُورَ

اے نور کی تدبیر کرنے والے اے نور کی تقدیر کرنے والے اے نور

كُلِّ نُورٍ يَا نُورًا قَبْلَ كُلِّ نُورٍ يَا نُورًا بَعْدَ

کے نور اے وہ نور کہ پہلے ہے ہر نور سے اے وہ نور کہ بعد

كُلُّ نُورٍ يَأْتِيهِ نُورٌ اَفْوَتْ كُلُّ نُورٍ

میں ہے گا ہر نور سے لے وہ نور کہ برتر ہے ہر نور سے

يَأْتِيهِ نُورٌ اَلَيْسَ كَمِثْلِهِ نُوْرٌ

لے وہ نور کہ جس کا مانند کوئی دوسرا نور نہیں ہے

۲۸) يَا مَنْ عَطَاكَ شَرِيْفٌ يَا مَنْ فَعَلَهُ

لے وہ خدا کہ بخشش جس کی بزرگ ہے لے وہ خدا کہ فعل جس کا

لَطِيْفٌ يَا مَنْ لَطَفَهُ مُقِيْمٌ يَا مَنْ اِحْسَانُهُ

لطیف ہے لے وہ خدا کہ مہربانی جس کی ہمیشہ ہے لے وہ خدا کہ احسان جس کا

قَدِيْمٌ يَا مَنْ قَوْلُهُ حَقٌّ يَا مَنْ وَعْدُهُ صِدْقٌ

ہمیشہ ہے لے وہ خدا کہ قول جس کا حق ہے لے وہ خدا کہ وعدہ جس کا سچا ہے

يَا مَنْ عَفْوُهُ فَضْلٌ يَا مَنْ عَذَابُهُ عَدْلٌ

لے وہ خدا کہ معافی جس کی فضل ہے لے وہ خدا کہ عذاب جس کا محض انصاف ہے

يَا مَنْ ذِكْرُهُ حُلُوٌّ يَا مَنْ فَضْلُهُ عَمِيْمٌ

لے وہ خدا کہ یاد جس کی شیریں ہے لے وہ خدا کہ فضل جس کا عام ہے

۲۹) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مُسَهِّلُ

خداوند! بہ تحقیق کہ سوال کرتا ہوں میں تجھ سے تیرے نام کے ساتھ لے آسان کرنے والے

يَا مُفَصِّلُ يَا مُبَدِّلُ يَا مُدَلِّلُ يَا مُنْزِلُ يَا مُنْوِلُ

لے جدا کرنے والے لے بدل دینے والے لے غوار کرنے والے لے آواز کرنے والے لے احسان کرنے والے

يَا مُفْضِلُ يَا مُجْزِلُ يَا مُهْلُ يَا مُجِيلُ

اے فضل کرنے والے اے احسان کرنے والے اے ہمت دینے والے اے نیکی کرنے والے

۵۰ يَا مَنْ تَرَى وَلَا يَرَى يَا مَنْ تَخْلُقُ

اے وہ خدا جو دیکھتا ہے اور دکھائی نہیں دیتا اے وہ خدا جو پیدا کرتا ہے

وَلَا يَخْلُقُ يَا مَنْ يَهْدِي وَلَا يَهْدِي

اور جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اے وہ خدا جو ہدایت کرتا ہے اور کسی نے جس کو ہدایت نہیں کی

يَا مَنْ يُحْيِي وَلَا يَحْيِي يَا مَنْ يُسْأَلُ

اے وہ خدا کہ جو زندہ کرتا ہے اور کسی جس کو زندہ نہیں کیا اے وہ خدا جو لوگوں سے باز پرس کرتا ہے

وَلَا يُسْأَلُ يَا مَنْ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعَمُ يَا مَنْ

اور کسی نے اس سے باز پرس نہیں کی اے وہ خدا جو رزق دیتا ہے اور خود نہیں کھاتا اے وہ خدا

يُجِيرُ وَلَا يَجَارُ عَلَيْهِ يَا مَنْ يَقْضِي وَلَا يَقْضِي

جو پناہ دیتا ہے اور کسی کی پناہ نہیں لیتا اے وہ خدا کہ جو فیصلہ کرتا ہے اور جس کوئی ٹھکرانہ نہیں

عَلَيْهِ يَا مَنْ يُحْكَمُ وَلَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ

اے وہ خدا جو خود حاکم ہے اور اور جس کا کوئی حاکم نہیں ہے

يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

اے وہ خدا کہ نہ کوئی جس سے پیدا ہوا ہے اور نہ کسی نے اس کو پیدا کیا اور نہ کوئی اس کا

كُفُوًا أَحَدٌ

شبیہ و نظیر ہے

۵۱) يَا نِعْمَ الْحَسِيبُ يَا نِعْمَ الظَّيْبُ يَا نِعْمَ

اے بہترین حساب کرنے والے اے بہترین دوا کرنے والے اے بہترین

الرَّقِيبُ يَا نِعْمَ الْقَرِيبُ يَا نِعْمَ الْمُجِيبُ

واقف کار اے بہترین عزیز و قریب اے بہترین قبول کرنے والے

يَا نِعْمَ الْحَبِيبُ يَا نِعْمَ الْكَفِيلُ يَا نِعْمَ الْوَكِيلُ

اے بہترین دوست اے بہترین ضامن اے بہترین وکالت کرنے والے

يَا نِعْمَ الْمَوْلَىٰ يَا نِعْمَ النَّصِيرُ

اے بہترین مالک اے بہترین مددگار

۵۲) يَا سُرُورَ الْعَارِفِينَ يَا مَنَى الْمُحِبِّينَ

اے عارفوں کی خوشی اے دوستوں کی آرزو

يَا أَنيسَ الْمُرِيدِينَ يَا حَبِيبَ التَّوَائِبِينَ

اے طلب کرنے والوں کے رفیق اے توبہ کرنے والوں کے دوست

يَا رَازِقَ الْمُقْلِينَ يَا رَجَاءَ الْمُنْذِبِينَ يَا قُرَّةَ

اے فقیروں کے رازق اے گنہگاروں کی امید گاہ اے

عَيْنَ الْعَابِدِينَ يَا مَنْقَسَ عَنِ الْمَكْرُوبِينَ

عبادت کرنے والوں کی آنکھ کی ٹھنکی اے غمزدوں کے سختی دور کرنے والے

يَا مُفْرَجَ عَنِ الْمَغْمُومِينَ يَا إِلَهَ

اے غمناکوں کے خوشی عطا کرنے والے اے

الْأُولَئِينَ وَالْآخِرِينَ

انگوں اور پھلوں کے مہربان خدا

۵۳) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا رَبَّنَا

خداوند! برحقیت کہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے تیرے نام کے ساتھ اے رب ہمارے

يَا إِلَهِنَا يَا سَيِّدَنَا يَا مَوْلَانَا يَا نَاصِرَنَا

اے خدا ہمارے اے سردار ہمارے اے مالک ہمارے اے مددگار ہمارے

يَا حِفْظَنَا يَا دَلِيلَنَا يَا مَعِينَنَا يَا حَبِيبَنَا يَا طَيِّبَنَا

اے نگہبان ہمارے اے رہنما ہمارے اے یادگار ہمارے اے دوست ہمارے اے طیب ہمارے

۵۴) يَا رَبَّ الْتَّيِّبِينَ وَالْأَبْرَارِ يَا رَبَّ

اے پیغمبروں اور نیکوکاروں کے پروردگار اے

الصَّادِقِينَ وَالْأَخْيَارِ يَا رَبَّ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ

سچے اور برگزیدہ لوگوں کے پروردگار اے بہشت اور دوزخ کے پروردگار

يَا رَبَّ الصَّغَارِ وَالْكِبَارِ يَا رَبَّ الْحُبُوبِ وَالشَّمَارِ

اے چھوٹے اور بڑوں کے پروردگار اے دانوں اور میوؤں کے پروردگار

يَا رَبَّ الْأَنْهَارِ وَالْأَشْجَارِ يَا رَبَّ الصَّحَارِيِّ

اے نہروں اور درختوں کے پروردگار اے جنگلوں اور بیابانوں

وَالْقِفَارِ يَا رَبَّ الْبُرَارِيِّ وَالْبِحَارِ يَا رَبَّ

کے پروردگار اے خشکیوں اور دریاؤں کے پروردگار اے

الَّيْلِ وَالنَّهَارِ يَا رَبِّ الْأَعْلَانِ وَالْأَسْرَارِ

رات اور دن کے پروردگار اے ظاہر اور پوشیدہ کے پروردگار

⑤۵ يَا مَنْ تَفَدَّرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَمْرُهُ

اے وہ خدا جس کا حکم ہر شے میں جاری ہے

يَا مَنْ لِحَقِّ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُهُ

اے وہ خدا جس کے حکم نے ہر شے کو احاطہ کیا ہوا ہے

يَا مَنْ بَلَغَتْ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ قُدْرَتُهُ

اے وہ خدا جس کی قدرت ہر شے میں پہنچتی ہے

يَا مَنْ لَا تَحْصِي الْعِبَادُ نِعْمَتَهُ يَا مَنْ لَا

اے وہ خدا جس کی نعمتیں اس کے بندے شمار نہیں کر سکتے۔ اے وہ خدا

تَبْلُغُ الْخَلَائِقُ شُكْرَهُ يَا مَنْ لَا تَدْرِكُ

جس کا شکر خلقت ادا نہیں کر سکتی اے وہ خدا جس کی بزرگی کو

الْأَفْهَامُ جَلَالَهُ يَا مَنْ لَا تَنَالُ الْأَوْهَامُ كُنْهَهُ

کوئی نہیں سمجھ سکتا اے وہ خدا جس کی کنہ کو وہم نہیں پاتا

يَا مَنْ الْعُظْمَةُ وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِعُهُ يَا مَنْ

اے وہ خدا جس کی ردا عظمت اور بزرگی ہے اے وہ خدا

لَا تَرُدُّ الْعِبَادُ قَضَاءَهُ يَا مَنْ لَا مَلِكَ

جس کا فیصلہ بندے رو نہیں کر سکتے اے وہ خدا کہ جس کے سوا

الْأَمْلَكُ يَا مَنْ لَا عَطَاءَ إِلَّا عَطَاةُ

کسی کی بادشاہی نہیں ہے لے وہ خدا جس کی بخشش کے سوا کوئی بخشش نہیں ہے

۵۶) يَا مَنْ لَّهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى يَا مَنْ لَّهُ

لے وہ خدا کہ جس کے واسطے بلند مثالیں ہیں لے وہ خدا کہ جس کے لیے

الْصِّفَاتُ الْعُلْيَا يَا مَنْ لَّهُ الْأَخِرَةُ وَالْأُولَى

بلند و برتر صفاتیں ہیں لے وہ خدا کہ جس کے لیے اول و آخر ہے

يَا مَنْ لَّهُ الْجَنَّةُ الْمَأْوَى يَا مَنْ لَّهُ الْآيَةُ

لے وہ خدا کہ اسی کی برکت ہے جو جنت فرد و سنگاہ مومنین ہے لے وہ خدا کہ جس کی نشانیاں

الْكُبْرَى يَا مَنْ لَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يَا مَنْ لَّهُ

بزرگ ہیں لے وہ خدا کہ جس کے لیے بہترین نام ہیں لے وہ خدا کہ جس کے لیے

الْحُكْمُ وَالْقَضَاءُ يَا مَنْ لَّهُ الْهَوَاءُ وَالْفِضَاءُ يَا مَنْ

حکم اور قضا ہے لے وہ خدا کہ جس کے لیے ہے ہوا اور محل لے وہ

لَّهُ الْعَرْشُ وَالثَّرَى يَا مَنْ لَّهُ السَّمَوَاتُ الْعُلَى

خدا کہ جس کے لیے ہے عرش اور زمین لے وہ خدا کہ جس کے لیے آسمان ہلے بلند ہیں

۵۷) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا عَفْوُ

خداوند! بہ تحقیق میں تیرے نام سے سوال کرتا ہوں لے عفو کرنے والے

يَا عَفْوُ يَا صَبُورُ يَا شَكُورُ يَا رَوْفُ يَا عَطُوفُ

لے بخشنے والے لے صبر دینے والے لے شکر کرنے والے لے مہربان لے با رحم

يَا مُسْئِلُ يَا دَوْدُ يَا سُبُوْحُ يَا قُدُّوْسُ

اے وہ جس کے بزرے سوال کرتے ہیں اے دوست اے اے بے عیب اے پک سب جلالی سے

⑤۸ يَا مَنْ فِي السَّمَاءِ عَظَمَتُهُ يَا مَنْ فِي الْأَرْضِ

اے وہ خدا کہ آسمانوں میں ہے بزرگی جس کی اے وہ خدا کہ زمین میں ہے

أَيْتُهُ يَا مَنْ فِي كُلِّ شَيْءٍ دَلَالَتُهُ يَا مَنْ

نشانی جس کی اے وہ خدا کہ ہر شے جس کے وجود پر دلالت کرتی ہے اے وہ خدا

فِي الْبِحَارِ عَجَائِبُهُ يَا مَنْ فِي الْجِبَالِ خَزَائِنُهُ

کہ دریاؤں میں جس کے عجائب ہیں اے وہ خدا کہ پہاڑوں میں جس کے خزانے ہیں

يَا مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ يَا مَنْ إِلَيْهِ

اے وہ خدا جس نے پیدا کیا پھر زندہ کرے گا اے وہ خدا کہ جس کی طرف

يَرْجِعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا يَا مَنْ أَظْهَرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ

سب امور کی بازگشت ہے اے وہ خدا جس کی مہربانی ہر چیز سے ظاہر

لُطْفَهُ يَا مَنْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

ہوتی ہے اے وہ خدا کہ نیک ہے جس کی ہر شے پیدا کی ہوئی

يَا مَنْ تَصَوَّرَ فِي الْخَلَائِقِ قُدْرَتَهُ

اے وہ خدا کہ تصرف رکھتی ہے خلائق میں قدرت جس کی

⑤۹ يَا حَبِيبَ مَنْ لَا حَبِيبَ لَهُ يَا طَيِّبَ مَنْ

اے دوست اسکے جیسا کوئی دوست نہیں اے دو اکرنے والے اسکے جیسا

لَا طَيْبَ لَهُ يَا مُجِيبَ مَنْ لَا مُجِيبَ لَهُ

کوئی دوا کرنے والا نہیں ہے قبول کرنے والے اس کے جس کا کوئی قبول کرے والا نہیں

يَا شَفِيقَ مَنْ لَا شَفِيقَ لَهُ يَا رَفِيقَ مَنْ لَا

اے شفیق اسکے جس کا کوئی شفیق نہیں ہے طرف دار اس کے جس کا

رَفِيقَ لَهُ يَا مُغِيثَ مَنْ لَا مُغِيثَ لَهُ يَا دَلِيلَ

کوئی طرفدار نہیں ہے فریاد رس اس کے جس کا کوئی فریاد رس نہیں ہے راہنما

مَنْ لَا دَلِيلَ لَهُ يَا اِنْيَسَ مَنْ لَا اِنْيَسَ لَهُ

اسکے جس کا کوئی راہنما نہیں ہے ساتھی اس کے جس کا کوئی ساتھی نہیں

يَا رَاحِمَ مَنْ لَا رَاحِمَ لَهُ يَا صَاحِبَ مَنْ لَا

اے رحم کرنے والے اسکے جس پر کوئی رحم نہیں کرتا ہے ہمدرد اس کے جس کا کوئی

صَاحِبَ لَهُ

ہمدرد نہیں

④ يَا كَافِيَ مَنْ اسْتَكْفَاهُ يَا هَادِيَ

اے کفایت کرنے والے کفایت طلب کرنے والوں کے اے ہدایت کرنے والے

مَنْ اسْتَهْدَاهُ يَا كَالِيَ مَنْ اسْتَكَلَاهُ

ہدایت طلب کرنے والوں کے اے حفاظت دینے والے حفاظت طلب کرنے والوں کے

يَا رَاعِيَ مَنْ اسْتَرْعَاهُ يَا شَافِيَ مَنْ اسْتَشْفَاهُ

اے رعایت کرنے والے رعایت طلب کرنے والوں کے اے شفا دینے والے شفا طلب کرنے والوں کے

يَا قَاضِيَ مَن اسْتَقْضَاهُ يَا مَغْنِي مَن

اے حکم کرنے والے اسکے جو حکم طلب کرے اے تو نگری دینے والے تو نگری

اسْتَعْنَدُ يَا مُوفِي مَن اسْتَوْفَاهُ يَا مُقْوِي

چاہنے والوں کے اے تمام کرنے والے تمامی طلب کرنے والوں کے اے قوت دینے والے

مَن اسْتَقْوَاهُ يَا وَليَّ مَن اسْتَوْلَاهُ

قوت چاہنے والوں کے اے مددگار مدد چاہنے والوں کے

۶۱) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا خَالِقُ

خداوند! بہ تحقیق کہ میں سوال کرتا ہوں تیرے نام کے ساتھ اے پیدا کرنے والے

يَا سَارِقُ يَا نَاطِقُ يَا صَادِقُ يَا فَالِقُ يَا فَارِقُ

اے روزی دینے والے اے گویا اے راست گو اے شگاف دینے والے اے جدا کرنے والے

يَا فَاتِقُ يَا سَارِقُ يَا سَابِقُ يَا سَامِقُ

اے جدا اور ہم کرنے والے اشیا کے اے سب سے پہلے اے بلند مرتبہ

۶۲) يَا مَن يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ يَا مَن جَعَلَ

اے وہ خدا جو پلٹتا ہے رات اور دن کو اے وہ خدا جس نے

الظُّلْمِ وَالْاَنْوَارَ يَا مَن خَلَقَ الظِّلَّ وَالْحَرُورَ

پیدا کیا تاریکیوں کو اور روشنی کو اے وہ خدا جس نے پیدا کیا سایے کو اور گرمی آفتاب کو

يَا مَن سَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ يَا مَن قَدَّارُ

اے وہ خدا جس کے تابع ہیں سورج اور چاند اے وہ خدا جس نے تقدیر کیا ہے

الْخَيْرِ وَالشَّرِّ يَا مَنْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ

نیکی اور بدی کو اے وہ خدا جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو

يَا مَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ

اے وہ خدا جس کیلئے ہے علم جسم اور عالم ارواح اے وہ خدا جو نہیں رکھتا ہے

صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي

عورت اور فرزند اے وہ خدا کہ نہیں ہے کوئی شریک اس کی

الْمَلِكِ يَا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا

بادشاہی میں اے وہ خدا کہ نہیں ہے واسطے اسکے کوئی دوست ذلت سے

(۶۳) يَا مَنْ يَعْلَمُ مَرَادَ الْمُرِيدِينَ يَا مَنْ

اے وہ خدا جو جانتا ہے مطلب ارادہ کرنے والوں کا اے وہ خدا جو

يَعْلَمُ ضَمِيرَ الصَّامِتِينَ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ نَالَةٌ

جانتا ہے خواہش خاموشوں کی اے وہ خدا جو سنتا ہے نالہ

الْوَاهِنِينَ يَا مَنْ يَرَى بُكَاءَ الْخَائِفِينَ

عاجزوں کا اے وہ خدا جو دیکھتا ہے رونا ڈرنے والوں کا

يَا مَنْ يَمْلِكُ حَوَائِجَ السَّاعِلِينَ يَا مَنْ يَقْبَلُ

اے وہ خدا جو برآوردہ ہے سوال کرنیوالوں کی حاجتوں کا اے وہ خدا جو قبول کرتا ہے

عُذْرَ السَّاعِيْنَ يَا مَنْ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ

عذر توبہ کرنے والوں کا اے وہ خدا جو نیک نہیں گردانتا اعمال

الْمُفْسِدِينَ يَا مَنْ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

مفسدوں کے لئے وہ خدا جو نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا

يَا مَنْ لَا يَبْعُدُ عَنْ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ

لے وہ خدا جو دُور نہیں ہے عارفوں کے دلوں سے

يَا أَجُودَ الْأَجُودِينَ

لے صاحبِ بخشش بخشش کرنے والوں کے

٦٣ يَا ذَا عَمَلِ الْبَقَاءِ يَا سَامِعَ الدُّعَاءِ يَا وَاسِعَ

لے ہمیشہ باقی رہنے والے لے سُننے والے دُعا کے لے وسراخ

الْعَطَاءِ يَا غَافِرَ الْخَطَاةِ يَا بَدِيعَ السَّمَاءِ

بخشش والے لے بخشنے والے گناہوں کے لے پیدا کرنے والے آسمانوں کے

يَا حَسَنَ الْبُلَاءِ يَا جَمِيلَ الثَّنَاءِ يَا قَدِيمَ

لے بہترین آزمائش کرنے والے لے بہت تعریف کے لائق لے ہمیشہ سے

السَّنَاءِ يَا كَثِيرَ الْوَفَاءِ يَا شَرِيفَ الْجَزَاءِ

بزرگ لے بے حد وفا کرنے والے لے بہترین بدلہ دینے والے

٦٤ اللَّهُمَّ رَأَوْكَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا سِتَّارَ

خداوند! سوال کرتا ہوں میں تجھ سے تیرے نام کے ساتھ لے چھپانے والے

يَا غَفَّارَ يَا قَهَّارَ يَا جَبَّارَ يَا صَبَّارَ يَا بَاسَّارَ

لے بخشنے والے لے قہر کرنے والے لے تلافی کرنے والے لے صبر کرنے والے لے نیکی کرنے والے

يَا مُخْتَارُ يَا فَتَّاحُ يَا نَفَّاحُ يَا مُرْتَحِقُ

اے برگزیدہ اے کھولنے والے اے ہواؤں کے چلانے والے اے راحتوں کے دینے والے

(۶۳) يَا مَنْ خَلَقَنِي وَسَوَّيَنِي يَا مَنْ رَزَقَنِي

اے وہ خدا جس نے مجھے پیدا کیا اور عمدہ پیدا کیا ہے مجھ کو اے وہ خدا جس نے مجھ کو رزق

وَسَرَّبَنِي يَا مَنْ اطْعَمَنِي وَسَقَّيَنِي يَا مَنْ

دیا ہے اور تربیت کیا ہے اے وہ خدا جس نے طعام دیا مجھ کو اور سیراب کیا ہے اے وہ خدا جس

قَرَّبَنِي وَادْنَبَنِي يَا مَنْ عَصَمَنِي وَكَفَّنِي

نے مجھ کو قرب کر دیا ہے اے وہ خدا جس نے مجھ کو محفوظ رکھا اور بچایا ہے

يَا مَنْ حَفِظَنِي وَكَلَّمَنِي يَا مَنْ اعَزَّنِي

اے وہ خدا جس نے بچایا ہے مجھ کو اور نگہبانی کی میری اے وہ خدا جس نے مجھ کو

وَاعْزَّنِي يَا مَنْ وَفَّقَنِي وَهَدَانِي يَا مَنْ

عزیز و توانگر کیا ہے اے وہ خدا جس نے مجھ کو توفیق دی اور راہ دکھائی ہے اے وہ خدا

النَّسْنِي وَآوَانِي يَا مَنْ أَمَاتَنِي وَأَحْيَانِي

جس نے میری رفاقت کی اور چلنے پناہ دی ہے اے وہ خدا جو میرا موت دینے والا اور زندہ کرنے والا ہے

(۶۴) يَا مَنْ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَالْمِيتَةِ يَا مَنْ

اے وہ خدا جو حق کو اپنے کلام سے قائم کرتا ہے اے وہ خدا جو

يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ يَا مَنْ يَحُولُ بَيْنَ

اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اے وہ خدا جو حائل ہے درمیان

الْمَرَّةَ وَقَلْبِهِ يَا مَنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا

آدمی اور اسکے دل کے لئے وہ خدا کہ نفع نہیں دیتی شفاعت مگر

بِإِذْنِهِ يَا مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

اسکے اذن سے لے وہ خدا کہ جو جاننے والا ہے ان کا جو راستے سے ہٹک گئے ہیں

يَا مَنْ لَا مَعْقَبَ لِحُكْمِهِ يَا مَنْ لَا سَادَّ

لے وہ خدا کہ کوئی نہیں بل کھتا اسکے حکم کو لے وہ خدا کہ نہیں روک سکتا کوئی

لِقَضَائِهِ يَا مَنْ أَنْقَادَ كُلِّ شَيْءٍ لِأَمْرِهِ يَا مَنْ

اسکے فیصلے کو لے وہ خدا کہ ہر شے تلک ہے اس کے حکم کی لے وہ خدا

السَّمَوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ يَا مَنْ يُرْسِلُ

کہ آسمان لپٹے ہوئے ہیں اسکے قبضہ قدرت میں لے وہ خدا کہ بھیجتا ہے

الرِّيحَ بِشَرِّ أَيْدِي رَحْمَتِهِ

ہواؤں کو خوش خبری دینے وال اس کی رحمت کی

يَا مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ مَهَادًا يَا مَنْ جَعَلَ

لے وہ خدا جس نے زمین کو بچھونا گرا دانا ہے لے وہ خدا جس نے

الْجِبَالَ أَوْتَادًا يَا مَنْ جَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

پہاڑوں کو پیئیں بنایا ہے لے وہ خدا جس نے آفتاب کو چراغ کی طرح روشن بنایا ہے

يَا مَنْ جَعَلَ الْقَمَرَ نُورًا يَا مَنْ جَعَلَ اللَّيْلَ

لے وہ خدا جس نے چاند کو رات کی روشنی گرا دانا ہے لے وہ خدا جس نے رات کو

لِبَاسًا يَا مَنْ جَعَلَ النَّهَارَ مَعَاشًا يَا مَنْ

عمل آرام و راحت بنایا اے وہ خدا جس نے دن کو معاش کے لئے بنایا اے وہ خدا

جَعَلَ النَّوْمَ سُبَاتًا يَا مَنْ جَعَلَ السَّمَاءَ بِنَاءً

جس نے نیند کو راحت قرار دیا اے وہ خدا جس نے آسمان کو قائم کیا

يَا مَنْ جَعَلَ الْأَشْيَاءَ أَنْزَاجًا يَا مَنْ جَعَلَ

اے وہ خدا جس نے ہر چیز کو جوڑا پیدا کیا اے وہ خدا جس نے

النَّارَ مَرَصَادًا

دوزخ کو مقام درودِ خلافت کیا

④۹ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا سَمِيعٌ

خداوند! میں تیرے ہی نام سے تجھ سے مانگتا ہوں اے سنیے والے

يَا شَافِعٌ يَا رَفِيعٌ يَا مَنِيْعٌ يَا سَرِيعٌ يَا بَدِيعٌ

اے شفاعت کرنے والے اے بلند مرتبہ اے منع کرنے والے اے حساب جلد کرنے والے اے زندہ

يَا كَبِيرٌ يَا قَدِيرٌ يَا خَبِيرٌ يَا مُجِيرٌ

اے بزرگ اے قدرت والے اے خبر رکھنے والے اے پناہ دینے والے

⑤۰ يَا حَيًّا قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ يَا حَيًّا بَعْدَ كُلِّ حَيٍّ

اے زندہ پہلے سب زندوں سے اے زندہ بعد ہر زندہ کے

يَا حَيُّ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ حَيٌّ يَا حَيُّ الَّذِي

اے زندہ وہ کہ جس کے مانند کوئی زندہ نہیں اے وہ زندہ کہ جس کا

لَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ يَا أَحَىُّ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى

کوئی شریک نہیں ہے وہ زندہ جو کسی کی زندگی کا محتاج نہیں

حَيٌّ يَا أَحَىُّ الَّذِي يُمِيتُ كُلَّ حَيٍّ يَا أَحَىُّ

ہے وہ زندہ جو ہر صاحبِ حیات کو موت دیتا ہے ہے وہ زندہ

الَّذِي يَرْزُقُ كُلَّ حَيٍّ يَا حَيًّا لَمْ يَرِثِ الْحَيَاةَ

جو ہر صاحبِ حیات کو رزق دیتا ہے ہے وہ زندہ جس نے کسی زندہ سے

مِنْ حَيٍّ يَا أَحَىُّ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى

زندگی نہیں پاتی ہے وہ زندہ جو مردوں کو زندہ کرتا ہے

يَا أَحَىُّ يَا قَيُّوْمٌ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

ہے وہ زندہ ہے وہ قائم جو نہ اونگھتا ہے نہ سوتا ہے

﴿٤﴾ يَا مَنْ لَّهُ ذِكْرٌ لَا يُنْسَىٰ يَا مَنْ لَّهُ نُورٌ لَا

ہے وہ خدا کہ جس کا ذکر فراموش نہیں ہوتا ہے وہ خدا کہ جس کا نور نہیں

يُطْفِئُ يَا مَنْ لَّهُ نِعَمٌ لَا تُعَدُّ يَا مَنْ لَّهُ مَلَكٌ

بجھتا ہے وہ خدا جس کی نعمتیں شمار نہیں ہوتیں ہے وہ خدا جس کا مالک

لَا يَزُولُ يَا مَنْ لَّهُ ثَنَاءٌ لَا يُحْصَىٰ يَا مَنْ لَّهُ

لا زوال ہے ہے وہ خدا جس کی تعریف لا انتہا ہے ہے وہ خدا

جَلَالٌ لَا يُكَيَّفُ يَا مَنْ لَّهُ كَمَالٌ لَا يَدْرَكُ

جس کی بزرگی کو زوال نہیں ہے وہ خدا جس کا کمال سمجھ سے باہر ہے

يَا مَنْ لَهُ قَضَاءٌ لَا يُرَدُّ يَا مَنْ لَهُ صِفَاتٌ

اے وہ خدا جس کا حکم رد نہیں ہوتا اے وہ خدا جس کی صفاتیں

لَا تَبْدَلُ يَا مَنْ لَهُ نَعْوَةٌ لَا تُغَيِّرُ

تبدیل نہیں ہوتیں اے وہ خدا جس کی تعریف میں تغیر نہیں ہوتا

(۴۲) يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُلِكَ يَوْمِ الدِّينِ

اے عالموں کے بالنے والے اے قیامت کے مالک

يَا غَايَةَ الظَّالِمِينَ يَا ظَهَرَ اللّٰجِئِينَ

اے مراد طلب کرنے والوں کی انتہا اے پناہ چاہنے والوں کے پشت پناہ

يَا مُدْرِكَ الْهَارِبِينَ يَا مَنْ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

اے بھاگے ہوؤں کے بالنے والے اے صبر کرنے والوں کے چاہنے والے

يَا مَنْ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ يَا مَنْ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

اے توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والے اے پاکیزہ لوگوں کو دوست رکھنے والے

يَا مَنْ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا مَنْ هُوَ أَعْلَمُ

اے نیکو کاروں کے حبیب اے ہدایت یافتہ لوگوں

بِالْمُهْتَدِينَ

کو بہتر جاننے والے

(۴۳) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ وَاسْئَلُكَ بِاسْمِكَ يَا شَفِيقٌ

خداوندنا! میں تیرے نام پر تجھ سے سوال کرتا ہوں اے شفقت کرنے والے

يَا رَفِيقُ يَا حَفِيظُ يَا مَحِيْطُ يَا مُقِيْتُ

اے ساتھ رہنے والے اے حفاظت کرنے والے اے احاطہ کرنے والے اے قوت دینے والے

يَا مُغِيْثُ يَا مُعْزِ يَا مُذِلُّ يَا مُبْدِيُّ يَا مُعِيْدُ

اے فریاد رس اے عزت دینے والے اے ذلت دینے والے اے پیدا کرنے والے اے لوٹانے والے

(۴۲) يَا مَنْ هُوَ اَحَدٌ بِلَا ضِدٍّ يَا مَنْ هُوَ قَرْدٌ

اے وہ خدا جو ایک ہے بلا ضد کے اے وہ خدا جو اللہ ہے

بِلَا نِدٍّ يَا مَنْ هُوَ صَمَدٌ بِلَا عَيْبٍ يَا مَنْ

بلا شریک کے اے وہ خدا جو بے نیاز ہے اور بے عیب ہے اے وہ خدا

هُوَ وَتَرَبُّبًا كَيْفٍ يَا مَنْ هُوَ قَابِضٌ بِلَا حَيْفٍ

جو یگانہ ہے اور یکساں ہے اے وہ خدا جو حکم کرتا ہے بلا ستم کے

يَا مَنْ هُوَ رَبُّ بِلَا وِزِيْرٍ يَا مَنْ هُوَ عَزِيْزٌ

اے وہ خدا جو پروردگار ہے بلا وزیر کے اے وہ خدا جو صاحب عزت ہے

بِلَا ذُلٍّ يَا مَنْ هُوَ غَنِيٌّ بِلَا فُقْرٍ يَا مَنْ هُوَ

بغیر ذلت کے اے خدائے توانا مگر بلا فقر کے اے

مَلِكٌ بِلَا عَزْلِ يَا مَنْ هُوَ مَوْصُوفٌ بِلَا شَبِيْهِ

بادشاہ بلا ازوال اے وہ خدا جس کی صفت بے مثل ہے

(۴۵) يَا مَنْ ذِكْرُهُ شَرَفٌ لِّلَّذِيْنَ اَكْرَمِيْنَ

اے وہ خدا جس کا ذکر ذکر کرنے والوں کا شرف ہے

يَا مَنْ شُكْرُهُ فَوْزٌ لِلشَّاكِرِينَ يَا مَنْ حَمْدُهُ

اے وہ خدا کہ شکر اس کا شکر کرنے والوں کے لیے باعثِ نجات ہے اے وہ خدا کہ حمد اسکی

عِزٌّ لِلْحَامِدِينَ يَا مَنْ طَاعَتُهُ نَجَاةٌ

حمد کرنے والوں کے لیے عزت ہے اے وہ خدا کہ اطاعت اس کی نجات ہے

لِلطَّاعِينَ يَا مَنْ بَابُهُ مَفْتُوحٌ لِلطَّالِبِينَ

اطاعت کرنے والوں کے لیے اے وہ خدا جس کا دروازہ ڈھونڈنے والوں کے لیے کھلا ہے

يَا مَنْ سَبِيلُهُ وَاضِحٌ لِلْمُنِيبِينَ يَا مَنْ آيَتُهُ

اے وہ خدا جس کی راہ تو یہ کرنے والوں کے لیے روشن ہے اے وہ خدا کہ جسکی نشانیاں

بُرْهَانٌ لِلنَّاظِرِينَ يَا مَنْ كِتَابُهُ تَذَكُّرٌ

دیکھنے والوں کے لیے دلیل ہیں اے وہ خدا کہ جس کی کتاب نصیحت ہے

لِلْمُتَّقِينَ يَا مَنْ سَرَّازُهُ عُمُومٌ لِلطَّائِعِينَ

پرہیزگاروں کے لیے اے وہ خدا جس کا رازق عام ہے فرماں برداروں

وَالْعَاصِينَ يَا مَنْ رَحْمَتُهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

اور نافرمانوں کے لیے اے وہ خدا کہ رحمت جس کی قریب ہے نیکوکاروں سے

(۷۶) يَا مَنْ تَبَارَكَ اسْمُهُ يَا مَنْ تَعَالَى جَدُّهُ

اے وہ خدا کہ بركت والا ہے نام جسکی اے وہ خدا کہ عزت جس کی بلند ہے

يَا مَنْ لَا إِلَهَ غَيْرُهُ يَا مَنْ جَلَّ ثَنَاءُهُ

اے وہ خدا کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں اے وہ خدا کہ جس کی ستائش بزرگ ہے

يَا مَنْ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاعُهُ يَا مَنْ يَدُورُ بِقَاعُهُ

اے وہ خدا کہ جس کے نام پاک ہیں اے وہ خدا کہ جس کو ہمیشہ بقل ہے

يَا مَنْ الْعُظْمَةُ بِهَاءِهَا يَا مَنْ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائُهَا

اے وہ خدا کہ بزرگی جس کا زیور ہے اے وہ خدا کہ بڑائی جس کی ردا ہے

يَا مَنْ لَا تَحْصَى الْآيَاتُ يَا مَنْ لَا تَعُدُّ نِعْمَاتُهُ

اے وہ خدا کہ نعمتیں جس کی شمار نہیں ہو سکتیں اے وہ کھلا کہ کرامتیں جسکی شمار نہیں ہو سکتیں

﴿٤٤﴾ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مُعِينُ

اے بار الہا میں تیرے نام سے سوال کرتا ہوں اے مددگار

يَا أَمِينُ يَا مُبِينُ يَا مَتِينُ يَا مَكِينُ

اے امانت دار اے کلام روشن اے متانت دار اے قوت مند

يَا رَشِيدُ يَا حَمِيدُ يَا حَمِيدُ يَا شَدِيدُ يَا شَهِيدُ

اے بزرگی والے اے سزاوار (محمد) اے شان والے اے سخت گجر اے شہادت دینے والے

﴿٤٥﴾ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا ذَا الْقَوْلِ السَّيِّدِ

اے صاحب عرش بزرگ اے سچ کہنے والے

يَا ذَا الْفِعْلِ الرَّشِيدِ يَا ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ

اے کارِ عظیم کے انجام دینے والے اے سخت پکڑنے والے

يَا ذَا الْوَعْدِ الْوَعِيدِ يَا مَنْ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ

اے رحمت و عذاب کے وعدہ کرنے والے اے وہ خدا جو لائق حمد و ثنا ہے

يَا مَنْ هُوَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ يَا مَنْ هُوَ قَرِيبٌ ۝۹

اے وہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اے وہ خدا جو نزدیک ہے

غَيْرِ بَعِيدٍ يَا مَنْ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۰

دُور نہیں اے وہ خدا جو ہر شے پر گواہ ہے

يَا مَنْ هُوَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝۱۱

اے وہ خدا جو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا

۝۹ يَا مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا وَزِيرٌ يَا مَنْ لَا

اے وہ خدا کہ جس کا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی وزیر ہے اے وہ خدا کہ جسکی

شَبِيهٌ لَهُ وَلَا نَظِيرٌ يَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ۝۱۲

نہ کوئی شبیہ ہے اور نہ نظیر اے پیدا کرنے والے آفتاب کے اور روشن

الْمُنِيرِ يَا مُغْنِيَ الْبَائِسِ الْفَقِيرِ يَا رَازِقَ

ماہتاب کے اے پریشان حال محتاج کو مالدار بنانے والے اے

الطِّفْلِ الصَّغِيرِ يَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ۝۱۳

چھوٹے بچوں کو رزق پہنچانے والے اے بزرگوں پر رحم کھانے والے

يَا جَابِرَ الْعِظْمِ الْكَسِيرِ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِ ۝۱۴

اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے اے خوفزدہ پناہ چاہنے والے

الْمُسْتَجِيرِ يَا مَنْ هُوَ بِعِبَادِهِ خَيْرٌ بَصِيرٌ ۝۱۵

کے بچاؤ اے وہ خدا جو اپنے بندوں کی خیر رکھتا ہے اور ان کا دیکھنے والا

يَا مَنْ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

اے وہ خدا جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے

۸۰) يَا ذَا الْجُودِ وَالنِّعَمِ يَا ذَا الْفَضْلِ وَالْكَرَمِ

اے نعمتوں کے بخشنے والے اے فضل و کرم والے

يَا خَالِقَ اللُّوحِ وَالنُّوحِ وَالْقَلَمِ يَا بَارِعَ الذَّرِّ وَالنَّسَمِ

اے لوح و قلم کے پیدا کرنے والے اے چوہنچی اور آدمی کے پیدا کرنے والے

يَا ذَا الْبَأْسِ وَالنِّقَمِ يَا مُلْهَمَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ

اے عذاب کرنے والے اور انتقام لینے والے اے عرب و عجم کے اہام کرنے والے

يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَالْأَلَمِ يَا عَالِمَ السِّرِّ وَالْهَمَمِ

اے سختیوں اور رنج کے دور کرنے والے اے پوشیدہ باتوں کے جاننے والے

يَا رَبَّ الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ يَا مَنْ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ

اے کعبہ کے مالک اے عدم سے چیزوں کو وجود

مِنَ الْعَدَمِ

میں لانے والے

۸۱) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا فَاعِلٌ

اے پروردگار میں تیرے نام کے ساتھ تجھ سے بھیک مانگتا ہوں اے کردگار

يَا جَاعِلٌ يَا قَابِلٌ يَا كَامِلٌ يَا فَاصِلٌ يَا وَاصِلٌ

اے پیدا کرنے والے اے قبول کرنے والے اے کامل اے جدا کرنے والے اے ملانے والے

يَا عَادِلُ يَا غَالِبُ يَا طَالِبُ يَا وَاهِبُ

اے انصاف کرنے والے اے غلبہ حاصل کرنے والے اے مطالبہ کرنے والے اے بخشش کرنے والے

(۸۲) يَا مَنْ أَنْعَمَ بِطَوْلِهِ يَا مَنْ أَكْرَمَ بِجُودِهِ

اے وہ خدا جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں نصیب میں اے وہ خدا جو بخشش و انعام دینے والا ہے

يَا مَنْ جَادَ بِلَطْفِهِ يَا مَنْ تَعَزَّرَ بِقُدْرَتِهِ

اے وہ خدا جس نے اپنے فضل سے انعام فرمایا اے وہ خدا جس نے اپنی قدرت سے ہمیں عزت بخشی

يَا مَنْ قَدَّرَ بِحِكْمَتِهِ يَا مَنْ حَكَمَ بِتَدْبِيرِهِ

اے وہ خدا جو اپنی حکمت سے قادر ہے اے وہ خدا جو اپنی تدبیر سے حکیم ہے

يَا مَنْ دَبَّرَ بِعِلْمِهِ يَا مَنْ تَجَاوَزَ بِحِلْمِهِ

اے وہ خدا جو اپنے علم سے تدبیر کرنے والا ہے اے وہ خدا جو اپنے حلم سے درگزر کرتا ہے

يَا مَنْ دَنَى قِيَّ عُلُوَّهُ يَا مَنْ عَلَا فِي دُنُوهِ

اے وہ خدا جو اپنے مرتبے کی وجہ سے نزدیک ہے اے وہ خدا جو اپنی قدرت کی وجہ سے نہایت بلند مرتبہ ہے

(۸۳) يَا مَنْ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَا مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

اے وہ خدا جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے اے وہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے

يَا مَنْ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ يَا مَنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ

اے وہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اے وہ خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ پھینک دیتا ہے

يَا مَنْ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ يَا مَنْ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ

اے وہ خدا جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اے وہ خدا جس کو چاہتا ہے بخشش دیتا ہے

يَا مَنْ يُعِزُّ مَنْ يُشَاءُ يَا مَنْ يُذِلُّ مَنْ يُشَاءُ

اے وہ خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اے وہ خدا جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے

يَا مَنْ يُصَوِّرُ فِي الْأَرْضِ حَامِرَ مَا يُشَاءُ يَا مَنْ

اے وہ خدا جو ہم (مادریں میں جیسی چاہتا ہے صورت بنا آ ہے اے وہ خدا

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يُشَاءُ

جو اپنی رحمت جس کو چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے

(۸۷) يَا مَنْ لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا يَا مَنْ

اے وہ خدا جس کے لیے زن و سرزند نہیں اے وہ خدا

جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا يَا مَنْ لَا يُشْرِكُ فِي

جس نے ہر چیز کے لیے اندازہ کیا اے وہ خدا جو اپنے حکم میں کسی کو

حُكْمَهُ أَحَدًا يَا مَنْ جَعَلَ الْمَلَأَكَةَ رَسُولًا

شریک نہیں کرتا اے وہ خدا جس نے فرشتوں کو پیغامبر مقرر کیا

يَا مَنْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا يَا مَنْ جَعَلَ

اے وہ خدا جس نے آسمانوں میں بروج بنائے اے وہ خدا جس نے

الْأَرْضَ قَرَارًا يَا مَنْ خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا

زمین کو آرام گاہ قرار دیا اے وہ خدا جس نے نطفے سے آدمی بنایا

يَا مَنْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ أَمَدًا يَا مَنْ أَحَاطَ

اے وہ خدا جس نے ہر چیز کے لیے ایک مدت معین کی اے وہ خدا جو

بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا يَا مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

جس کا علم ہر چیز پر محیط ہے لے وہ خدا جو ہر چیز کے اعداد و شمار سے واقف ہے

۸۵) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا أَوَّلُ

لے پانچ والے میں تیرے ہی نام پر تجھ سے بھیک مانگتا ہوں لے سب سے پہلے

يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا بَرُّ يَا حَقُّ

لے سب سے بعد لے ظاہر لے مخفی لے سخی لے حق و صداقت

يَا فَرْدُ يَا وَتَرُ يَا صَمَدُ يَا سَرْمَدُ

لے یگانہ لے بے مثل لے بے نیاز لے ہمیشہ رہنے والے

۸۶) يَا خَيْرَ مَعْرُوفٍ عَرُوفٍ يَا أَفْضَلَ مَعْبُودٍ عِبَادٍ

لے بہتر پہلنے ہوئے جو لائق پہنانے کے ہے لے سب سے بہتر معبود جو عبادت کے لائق ہے

يَا أَجَلَ مَشْكُورٍ شَاكِرٍ يَا أَعَزَّ مَذْكُورٍ ذِكْرٍ

لے بہترین مشکور جو شکر کا سزاوار ہے لے عزت والے جو یاد کیا جاتا ہے

يَا أَعْلَى مَحْمُودٍ حَمِيدٍ يَا أَقْدَمَ مَوْجُودٍ طَلِبٍ

لے بہترین محمود جس کی حمد کی جاتی ہے لے سب سے قدیم موجود جس کی طلب کی جاتی ہے

يَا أَرْفَعَ مَوْصُوفٍ وَصِفٍ يَا أَكْبَرَ مَقْصُودٍ قَصْدٍ

لے بلند ترین موصوف جس کی تعریف کی جاتی ہے لے بزرگ ترین مقصود جس کی طرف قصد کیا جاتا ہے

يَا أَكْرَمَ مَسْئُولٍ سَعْلٍ يَا أَشْرَفَ مَحْبُوبٍ عِلْمٍ

لے سب سے بہتر مسئول جس کے سوال کیا جاتا ہے لے محبوب ترین دوست جس کی معرفت کرائی جاتی ہے

۸۷) يَا حَيِّبَ الْبَاكِينَ يَا سَيِّدَ الْمُتَوَكِّلِينَ

اے رونے والوں کے دوست اے توکل کرنے والوں کی جلئے پناہ

يَا هَادِيَ الْمُضِلِّينَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ

اے گمراہوں کو ہدایت کرنے والے اے ایمان والوں کے دوست

يَا أَيُّسَ الذَّاكِرِينَ يَا مَفْرَعَ الْمَلْهُوفِينَ

اے عبادت کرنے والوں کے مونس اے عاجزوں کی جلئے پناہ

يَا مُنْجِيَ الصَّادِقِينَ يَا أَقْدَرَ الْقَادِرِينَ

اے سچوں کے نجات دلائیے والے اے سب سے بہتر قدرت رکھنے والے

يَا أَعْلَمَ الْعَالَمِينَ يَا إِلَهَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ

اے سب سے بہتر جاننے والے اے تمامی خلقت کے پیدا کرنے والے

۸۸) يَا مَنْ عَلَا فَقَهَرَ يَا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ

اے وہ جو بلند ہو کر غالب رہا اے وہ جو مالک ہو کر صاحب قدرت رہا

يَا مَنْ بَطَّنَ فَخَبَّرَ يَا مَنْ عُبِدَ فَشَكَرَ

اے وہ جو پوشیدہ ہو کر باخبر رہا اے وہ جسکی پرستش کی گئی اور جس نے جزا دی

يَا مَنْ عَصَى فَغَفَرَ يَا مَنْ لَا تَحْوِيهِ الْفِكَرُ

اے وہ جس نے نافرمانی پر بھی بخشا اے وہ جسے فکریں گھیر نہیں سکتیں

يَا مَنْ لَا يَدْرِكُهُ بَصَرٌ يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَسْرُ

اے وہ کہ جس کو آنکھ دیکھ نہیں سکتی اے وہ کہ جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں

يَا سَازِقَ الْبَشَرِ يَا مُقَدِّرَ كُلِّ قَدَرٍ

اے انسانوں کو رزق دینے والے اے قسموں کی قتیر کرنے والے

۸۹) اللَّهُمَّ ارِنِي وَاسْأَلِكِ بِاسْمِكَ يَا حَافِظُ

اے پالنے والے میں تیرے ہی نام پر تجھ سے مانگتا ہوں اے حفاظت کرنے والے

يَا بَارِيُّ يَا ذَارِيُّ يَا بَاذِخُ يَا فَارِجُ يَا فَاتِحُ

اے پیدا کرنے والے اے بلند مرتبہ اے کھولنے والے اے خوش بکھرنے والے اے فتح کرنے والے

يَا كَاشِفُ يَا ضَامِنُ يَا أَمْرُ يَا نَاهِيُّ

اے ظاہر کرنے والے اے کفالت کرنے والے اے نہیں کا حکم کرنے والے اے بُرائی سے روکنے والے

۹۰) يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ

اے وہ خدا کہ نہیں جانتا غیب کوئی تیرے سوا اے وہ خدا کہ

لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يَخْلُقُ

نہیں پھیرتا بلاؤں کو کوئی تیرے سوا اے وہ خدا کہ نہیں خلق کیا

الْخُلُقَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ إِلَّا هُوَ

مخلوق کو مگر تو نے اے وہ خدا کہ نہیں بخشتا کوئی گناہوں کو تیرے سوا

يَا مَنْ لَا يَتِمُّ النِّعْمَةَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يَقْلِبُ

اے وہ خدا کہ کوئی تمام نہیں کرتا نعمتوں کو تیرے سوا اے وہ خدا کہ نہیں پھیرتا

الْقُلُوبَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يَدْبِرُ الْأَمْرَ إِلَّا هُوَ

کوئی دلوں کو تیرے سوا اے وہ خدا کہ نہیں تدبیر کرتا کوئی کام تیرے سوا

يَا مَنْ لَا يُنَزِّلُ الْغَيْثَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يَبْسُطُ

لے وہ خدا کہ نہیں بھیجتا بارانِ رحمت مگر تو لے وہ خدا کہ نہیں کٹا دہ کرتا

الرِّزْقَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا يَحْيِي الْمَوْتَى إِلَّا هُوَ

کوئی روزی کو تیرے سوا لے وہ خدا کہ نہیں زندہ کرتا کوئی مرنے کو تیرے سوا

۹۱) يَا مُعِينُ الضُّعْفَاءِ يَا صَاحِبَ الْغُرَبَاءِ

لے کمزوروں کی مدد کرنے والے لے غریبوں کے مالک

يَا نَاصِرَ الْأَوْلِيَاءِ يَا قَاهِرَ الْأَعْدَاءِ يَا رَافِعَ

لے دوستوں کی مدد کرنے والے لے دشمنوں پر غلبہ پانے والے لے آسمانوں

السَّمَاءِ يَا أَيْنِسَ الْأَصْفِيَاءِ يَا حَبِيبَ الْأَتْقِيَاءِ

کے بلند کرنے والے لے برگزیدہ بندوں کو درست رکھنے والے لے پرہیزگار بندوں سے محبت رکھنے والے

يَا كَنْزَ الْفُقَرَاءِ يَا إِلَهَ الْأَغْنِيَاءِ يَا أَكْرَمَ الْكُرَمَاءِ

لے محتاجوں کے خزانے لے تو نیکوں کے خدا لے کرم تر سب کرمیوں کے

۹۲) يَا كَافِيًا مِّنْ كُلِّ شَيْءٍ يَا قَائِمًا عَلَى كُلِّ

لے کافی ہر شے سے لے قائم ہر چیز پر

شَيْءٍ يَا مَنْ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ يَا مَنْ لَا يَزِيدُ

لے وہ خدا جس کی مانند کوئی شے نہیں لے وہ خدا کہ جس کی

فِي مُلْكِهِ شَيْءٌ يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ

بادشاہی کو کوئی چیز زیادہ نہیں کرتی لے وہ خدا کہ جس پر کوئی چیز پہنچا نہیں

يَا مَنْ لَا يَنْقُصُ مِنْ خَزَائِعِهِ شَيْءٌ ۙ

اے وہ خدا کہ جس کے خزانے سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی

يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۙ يَا مَنْ لَا يَعْرَبُ

اے وہ خدا جس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے وہ خدا جس کے علم سے

عَنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ۙ يَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ بِكُلِّ شَيْءٍ ۙ

کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے وہ خدا کہ ہر شے سے واقف ہے

يَا مَنْ وَسِعَتْ رَحْمَتُهُ كُلَّ شَيْءٍ ۙ

اے وہ خدا کہ جس کی رحمت ہر شے کے لیے شامل ہے

۹۳) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا مُكْرِمٌ

اے خداوند تجھ سے میرے ہی نام پر سوال کرتا ہوں اے کرم کرنے والے

يَا مُطْعِمٌ يَا مُنْعِمٌ يَا مُعْطِيٌّ يَا مُغْنِيٌّ يَا مُقْنِيٌّ

اے کھلانے والے اے نعمت دینے والے اے مال دینے والے اے غنی کرنے والے اے پناہ دینے والے

يَا مُفْنِيٌّ يَا مُحْيِيٌّ يَا مُرْضِيٌّ يَا مُنْجِيٌّ

اے مارتے والے اے زندہ کرنے والے اے مسرور کرنے والے اے نجات دینے والے

۹۴) يَا اَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ ۙ وَّ اٰخِرَهُ يَا اِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ ۙ

اے ہر شے سے اول اور ہر شے سے آخر اے ہر شے کے اللہ

وَمَلِيْكَهٗ يَا رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ۙ وَصَانِعَهُ

اور ہر شے کے مالک اے ہر شے کے بنانے والے اور ہر شے کے بنانے والے

يَا بَارِي كُلِّ شَيْءٍ وَخَالِقَهُ يَا قَائِضَ كُلِّ شَيْءٍ

لے ہر شے کے پیدا کرنے والے اور ہر شے کے خالق لے ہر شے کے روکنے والے

وَبَاسِطَهُ يَا مُبْدِي كُلِّ شَيْءٍ وَمُعِيدَهُ

اور ہر شے کے دینے والے لے ہر شے کی ابتدا کرنے والے اور ہر شے کا اعادہ کرنے والے

يَا مُنْشِئَ كُلِّ شَيْءٍ وَمُقَدِّرَهُ يَا مُكُونِ

لے ہر شے کے موجود کرنے والے اور ہر شے کا اندازہ کرنے والے لے ہر شے کے ایجاد

كُلِّ شَيْءٍ وَمُحَوِّلَهُ يَا مُحْيِيَ كُلِّ شَيْءٍ وَوَا

کرنے والے اور ہر شے کے تغیر کرنے والے لے ہر شے کے زندہ کرنے والے اور

مُمِيتَهُ يَا خَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ وَوَايْرَ شَهْ

مارنے والے لے ہر شے کے پیدا کرنے والے اور مالک

۹۵) يَا خَيْرَ ذَا كِرٍّ وَمَذْكَوْرٍ يَا خَيْرَ شَاكِرٍ

لے سب ذکر کرنے والوں سے بہتر اور جن کا ذکر کیا گیا لے سب شکر گزاروں کے بہتر

وَمَشْكُوْرٍ يَا خَيْرَ حَامِدٍ وَمَحْمُوْدٍ يَا خَيْرَ

اور جن کا شکر کیا گیا لے سب حمد کرنے والوں سے بہتر اور جن کی بے پناہ حمد کی گئی لے بہترین

شَاهِدٍ وَمَشْهُوْدٍ يَا خَيْرَ دَاعٍ وَمَدْعُوِّ

شاہدوں اور مشہودوں کے لے بہترین بلانے والوں اور بلائے ہتوں کے

يَا خَيْرَ مُجِيبٍ وَمُجَابٍ يَا خَيْرَ مُوَسِّسٍ

لے بہترین قبول کرنے والوں اور مقبولوں کے لے بہترین مصاحبوں

وَ اٰنِيسٍ يٰ اٰخِيْرَ صَاحِبٍ وَ وَّجَلِيْسٍ يٰ اٰخِيْرَ

اور دوستوں کے لئے بہترین صحبت رکھنے والوں اور ہم نشینوں کے لئے بہترین

مَقْصُوْدٍ وَ مَطْلُوْبٍ يٰ اٰخِيْرَ حَبِيْبٍ وَ مَحْبُوْبٍ

مقصود و مطلوب کے لئے بہترین دوستوں اور محبوبوں کے

۹۶) يٰ اَمَنْ هُوَ لِمَنْ دَعَا لَهُ مُجِيْبٌ يٰ اَمَنْ هُوَ

لے وہ خدا جو دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرنے والا ہے لے وہ خدا جو

لِمَنْ اَطَاعَهُ حَبِيْبٌ يٰ اَمَنْ هُوَ اِلٰى مَنْ

فرمایا برداروں کا دوست ہے لے وہ خدا جو اپنے

اَحَبَّهُ قَرِيْبٌ يٰ اَمَنْ هُوَ مَنْ اَسْتَحْفَظُهُ رَقِيْبٌ

دوستوں کے نزدیک ہے لے وہ خدا جو حفاظت کرنے والوں کا نگہدار ہے

يٰ اَمَنْ هُوَ لِمَنْ رَجَاهُ كَرِيْمٌ يٰ اَمَنْ هُوَ لِمَنْ

لے وہ خدا جو امیدواروں کے لیے کریم ہے لے وہ خدا جو

عَصَهُ حَلِيْمٌ يٰ اَمَنْ هُوَ فِى عَظَمَتِهِ رَحِيْمٌ

گنہ گاروں کے لیے بردبار ہے لے وہ خدا جو باوجود اپنی بزرگی کے مہربان ہے

يٰ اَمَنْ هُوَ فِى حِكْمَتِهِ عَظِيْمٌ يٰ اَمَنْ هُوَ فِى

لے وہ خدا جو حکمت کی رو سے بزرگ ہے لے وہ خدا

اِحْسَانِهِ قَدِيْمٌ يٰ اَمَنْ هُوَ بِمَنْ اَسْرَادَهُ عَلِيْمٌ

جس کا احسان قدیم ہے لے وہ خدا جو ان لوگوں سے آگاہ ہے جو انکی معرفت کا قصد رکھتے ہیں

۹۷) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْۤ اَسْـَٔلُكَ بِاسْمِكَ یَا مُسَبِّبُ

اے خدا میں تجھ سے تیرے ہی نام پر بھیجک مانگتا ہوں اے سبب پیدا کرنے والے

یَا مُرْعِبُ یَا مُقَلِّبُ یَا مُعَقِّبُ یَا مُرْتَبُ

اے رغبت دینے والے اے دلوں کو پھیرنے والے اے عذاب کرنے والے اے ترتیب دینے والے

یَا مُخَوِّفُ یَا مُحَذِّرُ یَا مُذَكِّرُ یَا مُسَخِّرُ یَا مُغَيِّرُ

اے ڈرانے والے اے بچانے والے اے یاد دلائے والے اے طبع کرنے والے اے تبدیل کرنے والے

۹۸) یَا مَنْ عَلِمَهُ سَابِقُ یَا مَنْ وَعَدَهُ صَادِقُ

اے وہ خدا جو ابتدا سے عالم ہے اے وہ خدا جو وعدہ کا سچا ہے

یَا مَنْ لَطْفُهُ ظَاهِرُ یَا مَنْ أَمْرُهُ غَالِبُ

اے وہ خدا جس کی مہربانی ظاہر ہے اے وہ خدا جس کا فرمان غالب ہے

یَا مَنْ كِتَابُهُ مُحْكَمُ یَا مَنْ قَضَائُهُ كَائِنُ

اے وہ خدا کتاب جس کی محکم ہے اے وہ خدا جس کا حکم ہو کے رہتا ہے

یَا مَنْ قُرْآنُهُ مُجِيدُ یَا مَنْ مُلْكُهُ قَدِيمُ

اے وہ خدا جس کا قرآن بزرگ ہے اے وہ خدا جس کی بادشاہی قدیم ہے

یَا مَنْ فَضْلُهُ عَمِيمُ یَا مَنْ عَرْشُهُ عَظِيمُ

اے وہ خدا فضل جس کا عام ہے اے وہ خدا عرش جس کا عظیم ہے

۹۹) یَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ سَمْعٌ عَنْ سَمْعٍ

اے وہ خدا کہ جس کو کوئی چیز سننا مشغول نہیں کرتا

يَا مَنْ لَا يَمْنَعُهُ فِعْلٌ عَنْ فِعْلٍ

اے وہ خدا کہ جس کو ایک فعل دوسرے سے باز نہیں رکھتا

يَا مَنْ لَا يُلْهِيهُ قَوْلٌ عَنْ قَوْلٍ

اے وہ خدا کہ جس کو ایک قول دوسرے قول سے غافل نہیں رکھتا اے وہ خدا

لَا يُغْلِطُهُ سُؤَالٌ عَنْ سُؤَالٍ يَا مَنْ لَا

کہ جس کو ایک سوال دوسرے سوال سے نہیں بھلاتا اے وہ خدا کہ جس کو

يُحْجِبُهُ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ يَا مَنْ لَا يُبْرِمُهُ

ایک چیز دوسری چیز کے دیکھنے سے مانع نہیں ہوتی اے وہ خدا کہ جس کو رونے

الْحَا حُ الْمُلْحِجِينَ يَا مَنْ هُوَ غَايَةُ مُرَادٍ

والوں کی گریہ و زاری عاجز نہیں کرتی اے وہ خدا کہ جو دوستوں کی مراد کا

الْمُرِيدِينَ يَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَى هَمِّ الْعَارِفِينَ

انتہا ہے اے وہ خدا کہ جو عارفوں کی ہمتوں کا مقصود ہے

يَا مَنْ هُوَ مُنْتَهَى طَلِبِ الطَّالِبِينَ

اے وہ خدا کہ جو اپنے چاہنے والوں کی چاہست کا مرکز ہے

يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَرَّةٌ فِي الْعَالَمِينَ

اے وہ خدا کہ جس سے عالمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں

①٠٠ يَا حَلِيمًا لَا يَعْجَلُ يَا جَوَادًّا لَا يَبْخُلُ

اے وہ بردبار جو جلدی نہیں کرتا اے صاحب بخشش جو بخل نہیں کرتا

يَا صَادِقًا لَا يُخْلِفُ يَا وَهَّابًا لَا يَمَلُّ

اے وہ سچے جو وعدہ خلائی نہیں کرتا اے وہ بخشنے والے جو ملال نہیں رکھتا

يَا قَاهِرًا لَا يُغْلَبُ يَا عَظِيمًا لَا يُوصَفُ

اے وہ زبردست جو مغلوب نہیں ہوتا اے وہ بزرگ جو صفت میں نہیں آسکتا

يَا عَدْلًا لَا يَحِيفُ يَا غَنِيًّا لَا يَفْتَقِرُ

اے وہ عادل جو ظلم نہیں کرتا اے وہ توںگر جو محتاج نہیں ہوتا

يَا كَبِيرًا لَا يَصْغُرُ يَا حَافِظًا لَا يَغْفَلُ

اے وہ بزرگ جو چھوٹا نہیں ہوتا اے وہ نگہبان جو غافل نہیں ہوتا

سُبْحٰنَكَ يَا اِلٰهَ الْاَلٰهَاتِ الْغَوْثِ الْغَوْثِ

پاک ہے تو اے وہ خدا کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں فریاد ہے فریاد ہے

خَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ

ہم سب کو عذابِ دوزخ سے نجات دے اے پالنے والے اے پالنے والے اے پروردگار میرے

دُعَاۃٌ وَسْعَتِ رِزْقِ

اگر کوئی صبح شام تین مرتبہ اس دُعا کو پڑھے گا تو اس کی برکت سے سات پشت تک محتاج نہ ہوگا۔

يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا اَللّٰهُ يَا رَبُّ يَا رَبُّ يَا رَبُّ

اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے میرے پالنے والے

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

اے وہ ذات کہ جو ہمیشہ زندہ اور قائم و دائم ہے اے صاحبِ عظمت و جلالت

اَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيْمِ الْاَعْظَمِ اَنْ

میں تیرے اسمِ اعظم کے واسطے سے تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ

تَرْزُقْنِيْ رِزْقًا وَّاسِعًا حَلَالًا طَيِّبًا بِرَحْمَتِكَ

مجھ کو اپنی رحمت سے ایسی روزی وسیع عنایت کر جو حلال اور پاک و پاکیزہ ہو

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط

اے رحم کرنے والوں سے زائد رحم کرنے والے

والدین کی اطاعت واجب ہے

عجز و انکاری میں ہی عزت ہے

دُعائے توسل

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ

یا اللہ! میں تجھ سے سوال اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی،

نَبِيِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

رحمت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے

يَا أَبَا الْقَاسِمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا إِمَامَ الرَّحْمَةِ

اے ابوالقاسم! یا رسول اللہ! اے رحمتوں کے امام!

يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا

اے ہمارے سید و مولا! ہم آپ کی طرف متوجہ، آپ کی شفاعت کی طلبگار

وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَدْ مَنَّاكَ بَيْنَ يَدَيْ

اور آپ کو اللہ کے حضور میں وسیلہ بنا کر اور آپ کو اپنی حاجتوں کے آگے پیش کر کے اللہ سے سفارش

حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهًا عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ

کی درخواست کرتے ہیں اے خدا کے نزدیک صاحب عزت! اللہ سے ہماری سفارش فرمائیے!

يَا أَبَا الْحَسَنِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ يَا عَلِيَّ

اے ابوالحسن یا امیر المؤمنین اے علی

ابن ابی طالب یا حُجَّةَ اللہِ عَلٰی خَلْقِهِ

ابن ابی طالب اے دُنیا پر اللہ کی حجت

یا سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا

اے ہمارے سید و مولا ! ہم آپ کی طرف متوجہ، آپ کی شفاعت کے طلب گار

وَتَوَسَّلْنَا بِكَ اِلَى اللّٰهِ وَقَدْ مَنَّكَ بَيْنَ يَدَيِ

اور آپ کے اللہ کے حضور میں وسیلہ بنا کر اور آپ کو اپنی حاجتوں کے آگے پیش کر کے اللہ سے سفارش

حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهًا عِنْدَ اللّٰهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللّٰهِ

کی درخواست کرتے ہیں اے خدا کے نزدیک صاحبِ عزت ! اللہ سے ہماری سفارش فرمائیے !

يَا فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ يَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الرَّسُولِ

اے فاطمہ زہرا ! اے محمد کی صاحبزادی اے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک

یا سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا

اے ہماری سردار و مخدومہ ! ہم آپ کی طرف متوجہ، آپ کی شفاعت کے طلب گار

وَتَوَسَّلْنَا بِكَ اِلَى اللّٰهِ وَقَدْ مَنَّكَ بَيْنَ يَدَيِ

اور آپ کو اللہ کے حضور میں وسیلہ بنا کر اور آپ کو اپنی حاجتوں کے آگے پیش کر کے اللہ سے سفارش کی

حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهَةً عِنْدَ اللّٰهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللّٰهِ

درخواست کرتے ہیں اے خدا کے نزدیک صاحبِ عزت ! اللہ سے ہماری سفارش فرمائیے !

يَا اَبَا مُحَمَّدٍ يَا حَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ اَيُّهَا الْمُجْتَبِيُّ

اے ابو محمد ! اے حسن بن علی ! اے مجتبیٰ !

يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ

اے فرزندِ رسولِ اللہ اے دنیا پر اللہ کی حجت

يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا

اے ہمارے سید و مولا! ہم آپ کی طرف متوجہ آپ کی شفاعت کے طلب گار

وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَدْ مَنَّكَ بَيْنَ يَدَيِ

اور آپ کو اللہ کے حضور میں وسیلہ بنا کر اور آپ کو اپنی حاجتوں کے آگے پیش کر کے اللہ سے سفارش کی

حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهًا عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ

درخواست کرتے ہیں اے خدا کے نزدیک صاحبِ عزت اللہ سے ہماری سفارش فرمائیے!

يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَا حُسَيْنَ ابْنَ عَلِيٍّ

اے ابو عبد اللہ اے حسین بن علی

أَيُّهَا الشَّهِيدُ الْمَظْلُومُ

اے شہیدِ مظلوم

يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ

اے فرزندِ رسولِ اللہ اے دنیا پر اللہ کی حجت

يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا

اے ہمارے سید و مولا! ہم آپ کی طرف متوجہ آپ کی شفاعت کے طلب گار

وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَدْ مَنَّكَ بَيْنَ يَدَيِ

اور آپ کو اللہ کے حضور میں وسیلہ بنا کر اور آپ کو اپنی حاجتوں کے آگے پیش کر کے اللہ سے سفارش کی

حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهًا عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ

درخواست کرتے ہیں اے خدا کے نزدیک صاحبِ عزت! اللہ سے ہماری سفارش فرمائیے!

يَا اَبَا مُحَمَّدٍ يَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ

اے ابو محمد اے علی بن حسین!

يَا زَيْنَ الْعَابِدِينَ اَيُّهَا السَّجَّادُ

اے زین العابدین اے سجاد

يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

اے فرزندِ رسول اللہ! اے دنیا پر اللہ کی حجت

يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا

اے ہمارے سید و مولا! ہم آپ کی طرف متوجہ، آپ کی شفاعت کے طلب کار

وَتَوَسَّلْنَا بِكَ اِلَى اللَّهِ وَقَدْ مَنَّكَ بَيْنَ يَدَيِ

اور آپ کو اللہ کے حضور میں وسیلہ بنا کر اور آپ کو اپنی صاحبوں کے آگے پیش کر کے اللہ سے سفارش کی

حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهًا عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ

درخواست کرتے ہیں اے خدا کے نزدیک صاحبِ عزت! اللہ سے ہماری سفارش فرمائیے

يَا اَبَا جَعْفَرٍ يَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ اَيُّهَا الْبَاقِرُ

اے ابو جعفر! اے محمد بن علی اے باقر

يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

اے فرزندِ رسول اللہ اے دنیا پر اللہ کی حجت

يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا

اے ہمارے سید و مولا! ہم آپ کی طرف توجہ، آپ کی شفاعت کے طلبگار

وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَدْ مَنَّكَ بَيْنَ يَدَيَّ

اور آپ کو اللہ کے حضور میں لے کر آیا اور آپ کو اپنی حاجتوں کے آگے پیش کر کے اللہ سے سفارش کی

حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهًا عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ

درخواست کرتے ہیں اے خدا کے نزدیک صاحبِ عزت! اللہ سے ہماری سفارش فرمائیے

يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَا جَعْفَرًا ابْنَ مُحَمَّدٍ أَيُّهَا الصَّادِقُ

اے ابو عبد اللہ اے جعفر بن محمد اے صادق

يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

اے فرزندِ رسول اللہ! اے دنیا پر اللہ کی حجت

يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا

اے ہمارے سید و مولا! ہم آپ کی طرف توجہ، آپ کی شفاعت کے طلبگار

وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَدْ مَنَّكَ بَيْنَ يَدَيَّ

اور آپ کو اللہ کے حضور میں لے کر آیا اور آپ کو اپنی حاجتوں کے آگے پیش کر کے اللہ سے سفارش کی

حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهًا عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ

درخواست کرتے ہیں اے خدا کے نزدیک صاحبِ عزت! اللہ سے ہماری سفارش فرمائیے

يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ يَا مُوسَى ابْنَ جَعْفَرٍ

اے ابو ابراہیم اے موسیٰ بن جعفر

يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

اے فرزندِ رسولِ اللہ اے دنیا پر اللہ کی حجت

يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا

اے ہمارے سید و مولا! ہم آپ کی طرف متوجہ، آپ کی شفاعت کے طلبگار

وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَدْ مَنَّاكَ بَيْنَ يَدَيِ

اور آپ کو اللہ کے حضور میں وسیلہ بنا کر اور آپ کو اپنی حاجتوں کے آگے پیش کر کے اللہ سے سفارش کی

حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهًا عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ

درخواست کرتے ہیں اے خدا کے نزدیک صاحبِ عزت! اللہ سے ہماری سفارش فرمائیے

يَا أَبَا الْحَسَنِ يَا عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا

اے ابوالحسن اے علی بن موسیٰ رضا

يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

اے فرزندِ رسولِ اللہ اے دنیا پر اللہ کی حجت

يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا

اے ہمارے سید و مولا! ہم آپ کی طرف متوجہ، آپ کی شفاعت کے طلبگار

وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَدْ مَنَّاكَ بَيْنَ يَدَيِ

اور آپ کو اللہ کے حضور میں وسیلہ بنا کر اور آپ کو اپنی حاجتوں کے آگے پیش کر کے اللہ سے سفارش کی

حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهًا عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ

درخواست کرتے ہیں اے خدا کے نزدیک صاحبِ عزت اللہ سے ہماری سفارش فرمائیے

يَا اَبَا جَعْفَرٍ يَا مُحَمَّدَ ابْنَ عَلِيٍّ اِنْ جَوَادُ

اے ابو جعفر اے محمد بن علی جواد (تقی)

يَا ابْنَ رَسُولِ اللّٰهِ يَا حُجَّةَ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهِ

اے فرزندِ رسول اللہ اے دنیا پر اللہ کی حجت

يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا

اے ہمارے سید و مولا! ہم آپ کی طرف متوجہ، آپ کی شفاعت کے طلب گار

وَتَوَسَّلْنَا بِكَ اِلَى اللّٰهِ وَقَدْ مَنَّاكَ بَيْنَ يَدَيَّ

اور آپ کو اللہ کے حضور میں وسیلہ بنا کر اور آپ کو اپنی حاجتوں کے آگے پیش کر کے اللہ سے سفارش کی

حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهًا عِنْدَ اللّٰهِ اشفعْ لَنَا عِنْدَ اللّٰهِ

درخواست کرتے ہیں اے خدا کے نزدیک صاحبِ عزت اللہ سے ہماری سفارش فرمائیے

يَا اَبَا الْحَسَنِ يَا عَلِيَّ ابْنَ مُحَمَّدٍ اَيُّهَا الْهَادِي

اے ابو الحسن علی بن محمد ہادی تقی

النَّقِيِّ يَا ابْنَ رَسُولِ اللّٰهِ يَا حُجَّةَ اللّٰهِ عَلٰى خَلْقِهِ

اے فرزندِ رسول اللہ اے دنیا پر اللہ کی حجت

يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا

اے ہمارے سید و مولا! ہم آپ کی طرف متوجہ، آپ کی شفاعت کے طلب گار

وَتَوَسَّلْنَا بِكَ اِلَى اللّٰهِ وَقَدْ مَنَّاكَ بَيْنَ يَدَيَّ

اور آپ کو اللہ کے حضور میں وسیلہ بنا کر اور آپ کو اپنی حاجتوں کے آگے پیش کر کے اللہ سے سفارش کی

حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهًا عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ

درخواست کرتے ہیں اے خدا کے نزدیک صاحبِ عزت اللہ سے ہماری سفارش فرمائیے

يَا اَبَا مُحَمَّدٍ يَا حَسَنَ ابْنَ عَلِيٍّ اَيُّهَا الْعَسْكَرِيُّ

اے ابو محمد اے حسن بن علی اے عسکری

يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

اے فرزندِ رسول اللہ اے دنیا پر اللہ کی حجت

يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا

اے ہمارے سید و مولا ہم آپ کی طرف متوجہ، آپ کی شفاعت کے طلب گار

وَتَوَسَّلْنَا بِكَ اِلَى اللَّهِ وَقَدْ مَنَّاكَ بَيْنَ يَدَيَّ

اور آپ کو اللہ کے حضور میں پہلے بنا کر اور آپ کو اپنی حاجتوں کے آگے پیش کر کے اللہ سے سفارش کی

حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهًا عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ

درخواست کرتے ہیں اے خدا کے نزدیک صاحبِ عزت اللہ سے ہماری سفارش فرمائیے

يَا وَصِيَّ الْحُسَيْنِ الْخَلْفُ الصَّالِحِ الْحُجَّةُ اَيُّهَا

اے حسن (عسکری) کے وصی اور صالح خلف، حجت، اے

الْقَائِمِ الْمُنْتَظَرِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَا حُجَّةَ اللَّهِ

قائم منتظر (وہ زندہ جن کا انتظار آمدگ) اے فرزندِ رسول اللہ اے دنیا پر اللہ کی

عَلَى خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا

حجت اے ہمارے سید و مولا! ہم آپ کی طرف متوجہ، آپ کی شفاعت کے طلب گار

وَتَوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللَّهِ وَقَدْ مَنَّكَ بَيْنَ يَدَيَّ

اور آپ کو اللہ کے حضور میں وسیلہ بنا کر اور آپ کو اپنی حاجتوں کے آگے پیش کر کے اللہ سے سفارش کی

حَاجَاتِنَا يَا وَجِيهًا عِنْدَ اللَّهِ اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ

درخواست کرتے ہیں اے خدا کے نزدیک صاحب عزت اللہ سے ہماری سفارش فرمائیے!

پھر اپنی حاجتیں بیان کرے۔ ان شار اللہ پوری ہونگی

یا سَادَاتِي وَمَوَالِيَّ

ایک روایت میں ہے کہ دعا مانگنے کے بعد یہ پڑھے۔

اِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكُمْ اِيْمَتِي وَعُدَّتِي لِيَوْمِ

میں آپ کی طرف متوجہ ہوں آپ میرے امام، آپ میری محتاجی اور میری مسکینی،

فَقْرِي وَفَاقَتِي وَحَاجَتِي اِلَى اللَّهِ

میری حاجتوں کو اللہ کے حضور میں پیش کرنے کا ذخیلہ ہیں

وَتَوَسَّلْتُ بِكُمْ اِلَى اللَّهِ وَاسْتَشْفَعْتُ بِكُمْ اِلَى

میں آپ کو اللہ کے حضور میں وسیلہ بناؤ، آپ سے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت

اللَّهِ فَاشْفَعُوا لِي عِنْدَ اللَّهِ وَاسْتَنْقِذُونِي مِنْ

کا طلب گار ہوں، اللہ سے میری سفارش کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں مجھے

ذُنُوبِي عِنْدَ اللَّهِ فَإِنَّكُمْ وَسِيْلَتِي اِلَى اللَّهِ

گناہوں سے بچائیے آپ اللہ کے دربار میں میرا وسیلہ ہیں

وَبِحُبِّكُمْ وَبِقُرْبِكُمْ اَرْجُو نَجَاةً مِّنَ اللَّهِ

آپ کی محبت اور آپ کے تقرب کی وجہ سے مجھے اللہ کی عدالت سے معافی کی امید ہے

فَكُونُوا عِنْدَ اللَّهِ رَجَائِي يَا سَادَاتِي يَا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ

پس اللہ کی بارگاہ میں میری امید بن جاؤ گے میرے سردارو گے اولیاء اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی ان سب پر

وَلَعَنَ اللَّهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ ظَالِمِيهِمْ مِّنَ

اور اللہ کے دشمنوں اور ان پر ظلم کرنے والوں پر اللہ نے لعنت کی

الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

(اول و آخر سب پر) اے جہانوں کے پروردگار! دعا قبول فرما

دُعائے عدیلہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ

اللہ گواہ ہے کہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے

وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

اور اہل علم (بھی گواہ ہیں) قائم ہیں حق کے ساتھ اس کے سوا کوئی معبود نہیں

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

وہ صاحبِ قہر و حکمت ہے بیشک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے

وَإِنَّا الْعَبْدُ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْمَذْنُوبُ

اور میں ایک کمزور بندہ ذلیل گناہ گار

الْعَاصِي الْحَقِيرُ الْمُحْتَاجُ الْفَقِيرُ أَشْهَدُ

خطا کار حقیر محتاج فقیر میں اپنے

لِمُنْعَمِي وَخَالِقِي وَرَازِقِي وَمُكْرَمِي

انعام دینے والے پیدا کرنے والے روزی دینے والے اور عزت دینے والے کا اس طرح

كَمَا شَهِدَ لِذَاتِهِ وَشَهِدَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ

گواہ ہوں جیسے اس نے خود اپنی ذات کی گواہی دی اور اور فرشتوں نے اور اس کے

وَأُولُوا الْعِلْمِ مِنْ عِبَادِهِ يَا نَبِيَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

بندوں میں سے صاحبان علم نے گواہی دی ہے کہ بلاشبہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں

ذُو النِّعَمِ وَالْإِحْسَانِ وَالْكَرَمِ وَالْإِمْتِنَانِ

نعمتوں والا احسان والا ہر مہربانی والا عنایت والا

قَادِرٌ أَزَلِيٌّ عَالِمٌ أَبَدِيٌّ حَيٌّ أَحَدِيٌّ

قادر ازلی عالم ابدی زندہ یکتا

مَوْجُودٌ سَرْمَدِيٌّ سَمِيعٌ بَصِيرٌ مُرِيدٌ

موجود ہمیشہ رہنے والا سنے والا دیکھنے والا صاحب ارادہ

كَأَنَّهَا مُدْرِكٌ صَمَدِيٌّ يَسْتَحِقُّ هَذِهِ

جیسے اعمال کو ناپسند کرنے والا، ہر چیز کو سمجھنے والا، بے نیاز ہے وہ ان تمام صفتوں کا اہل

الصِّفَاتِ وَهُوَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ فِي عَزِّ صِفَاتِهِ

ہے اور وہ تمام صفتوں کی بہتر سے بہتر حقیقت کا مالک ہے

كَانَ قَوِيًّا قَبْلَ وَجُودِ الْقُوَّةِ وَالْقُدْرَةَ

وہ جو قوت اور قدرت کے وجود سے پہلے قوی (اور قادر) تھا

وَكَانَ عَلِيمًا قَبْلَ إِجَادِ الْعِلْمِ وَالْعِلَّةِ

وہ علم اور علت کی ایجاد سے پہلے علم (اور علت) کا مالک تھا

لَمْ يَزَلْ سُلْطَانًا إِذْ لَا مَمْلُكَةَ وَلَا مَالَ

اس کی سلطانی دولت و مملکت کی محتاج نہیں

لَمْ يَزَلْ سُبْحَانًا عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ

وہ ذات پاک تمام حالتوں پر ہمیشہ سے غالب ہے

وَجُودُهُ قَبْلَ الْقَبْلِ فِي أَنْزَلِ الْأَزَالِ

اس کا وجود مسعود ازل ازل اور پہلے سے بھی پہلے سے ہے

وَبَقَاءُهُ بَعْدَ الْبَعْدِ مِنْ غَيْرِ انْتِقَالٍ وَلَا زَوَالٍ

اور اس کا بقا "بعد" کے بعد بھی ہے نہ وہ جگہ بدلتا ہے نہ اسے زوال ہے

غَنِيٌّ فِي الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ مُسْتَعْنٍ فِي الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ

وہ ابتداء اور انتہا میں بے نیاز ہے ، ظاہر و باطن میں بے نیاز ہے

لَا جَوْرَ فِي قَضِيَّتِهِ وَلَا مَيْلَ فِي مَشِيَّتِهِ

نہ اس کے فیصلے میں زیادتی ، نہ اس کی مشیت میں کسی کی طرف داری

لَا ظُلْمَ فِي تَقْدِيرِهِ وَلَا مَهْرَبَ مِنْ حُكُومَتِهِ

نہ اس کے اندازوں میں ظلم ہے ، نہ اس کی حکومت سے بھاگنے کا کوئی ٹھکانا

وَلَا مَدْجًا مِنْ سَطَوَاتِهِ وَلَا مَبْجًا مِنْ نِقْمَاتِهِ

نہ اس کی گرفت سے چھپنے کی کوئی جگہ ، نہ اس کے غضب سے بچنے کی کوئی جگہ

سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ وَلَا يَفُوتُهُ أَحَدٌ إِذَا طَلَبَهُ

اس کی رحمت اسکے غضب سے آگے (برہ گئی) ہے، وہ کسی کو طلب کرے تو وہ بھاگ کر نہیں سکتا

إِذَا حَالَ الْعَلَلُ فِي التَّكْلِيفِ وَسَوَى التَّوْفِيقِ

اس نے انسان کو احکام کا پابند کیا تو مشکلات دور کر کے بے عزت (مکروہ) اور

بَيْنَ الضَّعِيفِ وَالشَّرِيفِ مَكَّنَ آدَاءَ الْمَأْمُورِ

عزت دار لوگوں میں اپنی توفیق برابر تقسیم کی ، احکام کی ادائیگی کو ممکن بنایا

وَسَهَّلَ سَبِيلَ اجْتِنَابِ الْمَحْظُورِ

حرام کاریوں سے بچنے کا راستہ آسان فرمایا

لَمْ يُكَلِّفِ الطَّاعَةَ إِلَّا دُونَ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ

طاقت اور قدرت سے کم درجے کی اطاعت کی تکلیف دی

سُبْحَنَهُ مَا أَبَيْنَ كَرَمَهُ وَأَعْلَى شَانَهُ

وہ ذات پاک ہے اسکا کرم کس قدر واضح اور اس کی شان کتنی بلند ہے

سُبْحَنَهُ مَا أَجَلَّ نَيْلَهُ وَأَعْظَمَ إِحْسَانَهُ

وہ ذات پاک ہے اس کی عطا کتنی پر جلال اور اس کا احسان کتنا پر عظمت ہے

بَعَثَ الْأَنْبِيَاءَ لِيُبَيِّنَ عَدْلَهُ وَنَصَبَ الْأَوْصِيَاءَ

اس نے نبی بھیجے تاکہ اس کا عدل ثابت ہو، نبی کے وصی (امام) معین کئے کہ

لِيُظْهِرَ طَوْلَهُ وَفَضْلَهُ وَجَعَلَنَا مِنْ أُمَّةٍ

اس کا احسان ظاہر ہو اور ہمیں

سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَخَيْرِ الْأَوْلِيَاءِ وَأَفْضَلِ الْأَصْفِيَاءِ

نبیوں کے سردار ولیوں کے مختار منتخب لوگوں میں افضل

وَأَعْلَى الْأَزْكَيَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالِإِلَهِ

پاک لوگوں میں بلند مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا

أُمَّتَابِهِ وَبِمَادَعَانَا إِلَيْهِ وَبِالْقُرْآنِ الَّذِي

ہم آپ پر، جس بات کی طرف آپ نے بلایا اس پر اور خدا کی طرف سے آپ پر نازل

أَنْزَلَهُ إِلَيْهِ وَبِوَصِيَّتِهِ الَّذِي نَصَبَهُ يَوْمَ

کردہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور اس وصی پر (ایمان رکھتے ہیں) جسے غدیر کے دن

الْغَدِيرِ وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ هَذَا عَلَيَّ إِلَيْهِ

مقرر کیا اور "یہ علیؑ ہیں" کہہ کر ان کی طرف اشارہ کیا

وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَيُّمَةَ الْأَبْرَارَ وَالْخُلَفَاءَ الْأَخْيَارَ

میں اقرار کرتا ہوں کہ پاک امام اور نیک عمل خلیفہ

بَعْدَ الرَّسُولِ الْمُخْتَارِ عَلَيَّ قَامِعُ الْكُفَّارِ

رسولؐ مختار کے بعد علیؑ ہیں جو کافروں کا قلع قمع کرنے والے ہیں

وَمَنْ بَعْدَهُ سَيِّدُ أَوْلَادِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ

اور ان کے بعد ان کی اولاد کے سردار حسن ابن علیؑ

ثُمَّ أَخُوهُ السَّبِطُ التَّابِعُ لِمَرْضَاتِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ

پھر ان کے بھائی، رضائے الہی کے پابند، حضرت سبط امام حسینؑ

ثُمَّ الْعَابِدُ عَلِيُّ

پھر حضرت عابد علیؑ

ثُمَّ الصَّادِقُ جَعْفَرُ

پھر امام جعفر صادقؑ

ثُمَّ الرَّضَا عَلِيُّ

پھر حضرت رضا علیؑ

ثُمَّ التَّقِيُّ عَلِيُّ

پھر حضرت تقی علیؑ

ثُمَّ الْحُجَّةُ الْخَلْفُ الْقَائِمُ الْمُنْتَظَرُ الْمَهْدِيُّ

ان کے بعد حضرت حجت الخلف، القائم، المنتظر، المہدی امام ہیں

الْمُرْجِيُّ الَّذِي يَبْقَا فِيهِ بَقِيَّةُ الدُّنْيَا وَيَمْنُهُ

جن کی امتیاد اور جن کی ذات سے دنیا کا وجود وابستہ ہے، جن کی برکت

رُزِقَ الْوَدَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَّتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ

دنیا کو ریزی ملتی ہے، جن کے وجود سے زمین و آسمان قائم ہے

وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا

اور انہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا

بَعْدَ مَا مَلَأَتْ ظُلْمًا وَجُورًا وَأَشْهَدُ أَنْ

جب وہ ظلم و ستم سے لبریز ہو چکی ہوگی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ

أَقُولُ اللَّهُمَّ حُجَّةٌ وَأُمَّتُكَ لَهُمْ فَرِيضَةٌ وَ

ان حضرات کے فرمان بلاشبہ حجت ہیں جن کی تعمیل فرض ہے

طَاعَتُهُمْ مَفْرُوضَةٌ وَمُودَتُهُمْ لَازِمَةٌ مَقْضِيَةٌ

جن کی اطاعت واجب اور جن کی محبت لازمی اور حتمی ہے

وَالْإِقْتِدَاءُ بِهِمْ مُنْجِيَةٌ وَمُخَالَفَتُهُمْ مُرْدِيَةٌ

ان حضرات کی پیروی باعث نجات اور ان کی مخالفت ہلاکت کا سبب ہے

وَهُمْ سَادَاتُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَجْمَعِينَ

یہ حضرات تمام اہل جنت کے سردار ہیں

وَشَفَعَاءُ يَوْمَ الدِّينِ وَأَئِمَّةُ أَهْلِ الْأَرْضِ

اور قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہیں اور یقینی طور پر اہل زمین کے امام

عَلَى الْيَقِينِ وَأَفْضَلُ الْأَوْصِيَاءِ الْمَرْضِيِّينَ

اور پسندیدہ اولیاء ہیں، سب سے بہتر ہیں

وَأَشْهَدُ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَالْقَبْرَ حَقٌّ

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ موت برحق ہے اور قبر (میں جانا) حق ہے

وَسْؤَالَ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ فِي الْقَبْرِ حَقٌّ

اور قبر میں منکر نکیر کے سوال جواب حق ہے ،

وَالْبُعْثَ حَقٌّ وَالنُّشُورَ حَقٌّ وَالصِّرَاطَ حَقٌّ

دوبارہ جی اٹھنا حق ہے ، میدانِ حشر میں سب کا جمع ہونا حق ہے ، پل صراط ہے

وَالْمِيزَانَ حَقٌّ وَالْكِتَابَ حَقٌّ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ

میزان حق ہے ، حساب کتاب حق ہے جنت حق ہے

وَالنَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّأَسْرَابٍ

جہنم حق ہے ساعتِ قیامت آئے گی اس میں شکِ شبہ کی

فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

گنجائش نہیں اور یقیناً اللہ قبر والوں کو اٹھائے گا

اللَّهُمَّ فَضْلُكَ رَجَائِي وَكَرَمُكَ وَرَحْمَتُكَ

یا اللہ! مجھے تیرے فضل و کرم کا آسرا ہے تیری رحمت

وَعَفْوُكَ أَمَلِي لِأَعْمَلِي أَسْتَجِيبُ بِهِ الْجَنَّةَ

اور معافی کی امید ہے میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسکی بنا پر جنت کا حقدار ٹھہروں

وَلَا طَاعَةَ لِي أَسْتَوْجِبُ بِهِ الرِّضْوَانَ

نہ اپنی اطاعت گزارگی ایسی جس کی وجہ سے رضائے الہی کا مستحق بنوں

إِلَّا أَنِّي أَعْتَقَدْتُ تَوْحِيدَكَ وَعَدْلَكَ

سوائے اس کے کہ میں تیری توحید و عدل کا اعتقاد رکھتا ہوں

وَارْتَجَيْتُ إِحْسَانَكَ وَفَضْلَكَ وَتَشَقَّعْتُ إِلَيْكَ

میں تیرے فضل و احسان کا امیدوار ہوں اور تیرے نبیؐ اور ان کی آلؑ

بِالنَّبِيِّ وَالْإِلَهِ مِنْ أَحِبَّتِكَ وَأَنْتَ أَكْرَمُ

کی شفاعت کا وسیلہ رکھتا ہوں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں اور تو خود عزت والوں سے بہت

الْأَكْرَمِينَ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ

زیادہ عزت والا اور رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے اور اللہ نے رحمت فرمائی

نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَالْإِلَهِ أَجْمَعِينَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

ہمارے نبی محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ان کے تمام طیب و طاہر اہل بیت پر

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

کوئی قوت و طاقت نہیں ہے مگر خدائے بزرگ و برتر کے لیے

اللَّهُمَّ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِنِّي أَدْعُكَ يَقِينًا

یا اللہ! اے ارحم الراحمین میں اپنا بیان کردہ عقیدہ تیری امانت میں دیتا

هَذَا وَثَبَاتٍ دِينِي وَأَنْتَ خَيْرُ مُسْتَوْدِعٍ وَقَدْ

ہوں تو امانت داری کا سب سے زیادہ اہل ہے تو نے ہمیں

أَمَرْتَنَا بِحِفْظِ الْوَدَاعِ فَرُدَّهُ عَلَيَّ وَقَدْ حَضُرَ

حکم دیا ہے کہ امانتوں کو محفوظ رکھیں۔ پس میری امانت موت کے وقت مجھے واپس

مَوْتِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

کو دینا تجھے تیری رحمت کا واسطہ اے ارحم الراحمین

دُعائے ”یامن تحل“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

يَا مَنْ تَحَلُّ بِهٖ عَقْدُ الْمَكَارِهٖ

اے وہ جس کی مدد سے مشکوں کی الجھنوں پر قابو حاصل ہو جاتا ہے

وَيَا مَنْ يُفْتَشِ بِهٖ حَدُّ الشَّدَائِدِ

اور اے وہ جس سے سختیوں کی بارگاہ کُند ہو جاتی ہے

وَيَا مَنْ يُلْتَمَسُ مِنْهٗ الْمَخْرَجُ اِلَى رَوْحِ الْفَرَجِ

اور اے وہ جس سے زحمتوں کی تنگیوں سے دستوں کے سکون میں آنے کی التجا کی جاتی ہے

ذَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ الصَّعَابُ وَتَسَبَّبَتْ بِلُطْفِكَ

تیری قدرت کے آگے مشکلیں آسان اور تیری ہی مہربانیوں کی وجہ سے اسباب پیدا

الْاَسْبَابُ وَجَرَى بِقُدْرَتِكَ الْقَضَاءُ

ہوتے ہیں تیری قدرت سے ”قضا“ (قطع فیصلے) جاری ہوئے

وَمَصَّتْ عَلٰی اِرَادَتِكَ الْاَشْيَاءُ فَهِيَ

اور تیرے ارادے ہی کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے سب چیزیں

بِمَشِيَّتِكَ دُونَ قَوْلِكَ مُؤْتَمِرَةٌ وَّبِاِسْرَادَتِكَ

تیرے کہنے سے پہلے تیری مشیت پر عمل پیرا ہیں اور تیرے ارادے کے مطابق

دُونَ نَهَيْكَ مُنْزَجْرَةً ۖ أَنْتَ الْمُدْعُوُّ لِلْمِهْمَاتِ

تیری ہی سے پہلے ہی رکھی ہوئی ہے (تو ہی) اہم معاملات میں پکارا جاتا ہے

وَأَنْتَ الْمَفْزَعُ فِي الْمَلِمَاتِ لَا يَنْدَفِعُ مِنْهَا

اور تو ہی مصائب میں پناہ گاہ ہے فقط وہی (بلا) دور ہو سکتی ہے

إِلَّا مَا دَفَعْتَ وَلَا يَنْكَشِفُ مِنْهَا إِلَّا مَا كَشَفْتَ

جسے تو دور کرے اور کوئی (مصیبت کا بادل) نہیں چھٹاتا مگر وہ جسے تو صاف کرے

وَقَدْ نَزَلَ بِي يَا رَبِّ مَا قَدْ تَكَادَنِي ثِقَلُهُ

لے پروردگار! میرے اوپر وہ بلا نازل ہوئی جس کے بوجھ نے مجھے ہلکان کر دیا

وَالْمَرِيءُ مَا قَدْ بَهَظَنِي حَمْلُهُ

اور مجھ پر ایسی بھیت آئی جس کا اٹھانا میرے لیے دشوار ہے

وَبِقُدْرَتِكَ أوردتُّ عَلَىٰ وَبِسُلْطَنِكَ وَجَّهْتَهُ إِلَىٰ

تیری قدرت نے ہی مجھ پر مصیبت ڈالی ہے اور تیری بالادستی نے اسے میری طرف متوجہ کیا ہے

فَلَا مُصْدِرَ لِمَا أوردتُّ وَلَا صَارِفَ لِمَا وَجَّهْتَهُ

اب اس آئی ہوئی (مصیبت) کو تو ہی ٹال سکتا ہے اور جسے تو نے متوجہ کیا اسے تو ہی پھیر سکتا ہے

وَلَا فَاتِحَ لِمَا أَغْلَقْتَ وَلَا مُغْلِقَ لِمَا فَتَحْتَ

جسے تو بند کرنے سے کوئی کھولنے والا نہیں اور جسے تو کھول دے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں

وَلَا مُبَسِّرَ لِمَا عَسَّرْتَ وَلَا نَاصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ

جسے تو مشکل بنا دے اسے کوئی آسان نہیں بنا سکتا اور جسے تو نے چھوڑ دیا اس کا مددگار کوئی نہیں

فَصَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَافْتَحْ لِي يَا رَبِّ

پس محمدؐ اور آلِ محمدؐ پر رحمتیں نازل فرما اور اے میرے پروردگار! مجھ پر

بَابُ الْفَرَجِ بِطَوْلِكَ وَاكْسِرْ عَنِّي سُلْطَانَ الْهَمِّ

اپنے احسان سے کشادگی کا دروازہ کھول دے، اپنی قوت سے مجھ پر ہوئے غم کے غلبہ کو توڑ دے

بِحَوْلِكَ وَاِنْلِنِي حُسْنَ النَّظْرِ فِيمَا شَكُوتُ

اور جو فریاد کر رہا ہوں اس پر نظرِ کرم فرما

وَاذِقْنِي حَلَاوَةَ الصَّنْعِ فِيمَا سَأَلْتُ

جو سوال کر رہا ہوں اس میں احسان کی لذت سے بہرہ یاب کر

وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَفَرَجًا هَنِئًا

مجھے اپنی بارگاہ سے رحمت و خوشگوار کشائش عطا کر

وَاجْعَلْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَخْرَجًا وَحَيًّا

اپنے خاص کرم سے جلد جلد کوئی راہ پیدا فرمائے (کو کسی غیر کی طرف نظر نہ اٹھے)

وَلَا تَشْغَلْنِي بِالْاِهْتِمَامِ عَنْ تَعَاهُدِ

تیرے فرائض کی تعمیل اور سنت کی پابندی کی بجائے

فِرْوَضِكَ وَاسْتِعْمَالِ سُنَّتِكَ فَقَدْ ضِقْتُ

کسی اور چیز میں نہ الجھنے دے اے پروردگار! جو رنج و فکر

لِمَا نَزَلَ بِي يَا رَبِّ ذُرْعًا وَاُمْتَلَأَتْ بِحَمَلِ

مجھ پر نازل ہوئی ہے سینہ اس سے تنگی کر رہا ہے اور جو غم رونما ہوا ہے اس کے

مَا حَدَّثَ عَلِيَّ هَمًّا وَأَنْتَ الْقَادِرُ عَلَيَّ

اٹھانے سے دل سیر ہو چکا اور تو فت در ہے

كَشَفَ مَا مَنَيْتُ بِهِ وَدَفَعَ مَا وَقَعْتُ فِيهِ

جس آزمائش سے میں دوچار ہوں اسے بھڑکنے پر اور جس صورتحال میں گرفتار ہوں اسے

فَأَفْعَلُ بِي ذَلِكَ وَإِنْ لَّمْ أَسْتَوْجِبْهُ مِنْكَ

دُور کرنے پر۔ پس مجھ پر کرم فرمائی کہ اگرچہ (مجھے اقرار ہے) کہ میں تمہیں ضرور میں اسکا مستحق نہیں

يَا ذَا الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ط

اے عرشِ عظیم کے مالک

ہر پریشانی اور مشکل میں پڑھنے کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

یا اللہ میں تجھ سے محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

کہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما

وَأَنْ تُنْجِيَنِي مِنْ هَذَا الْغَمِّ ط

اور مجھے اس غم سے نجات عطا کر

واجب نمازوں کا کوئی بدل نہیں ہے۔ دوسری تمام نمازیں

صرف ثواب اور معرفت حاصل کرنے کیلئے ہیں

مُتَفَرِّقُ دُعَائِينَ

دُعَائے کمیل ابن زیاد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

یا اللہ! میں سوال کرتا ہوں

بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ۝

تیری رحمت سے جو ہر چیز سے وسیع ہے

وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ ۝

اور تیری قوت سے جو ہر چیز پر غالب ہے

وَوَخَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ ۝ وَذَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ ۝

اور ہر چیز اس کے حضور سر جھکائے اور گردن خم کئے ہوئے ہے

وَبِجَبْرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ ۝

اور تیری اس عظمت کے صدقے جس کے ذریعے تو ہر شے پر غالب ہے

وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ ۝

اور تیری اس عزت سے جس کے برابر کوئی چیز نہیں آ سکتی

وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ ۝

اور تیری عظمت سے جس سے ہر چیز لبریز ہے

وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلَا كُلَّ شَيْءٍ ۝

اور تیری سر بلندی سے جو ہر چیز سے زیادہ ہے

وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ ۝

اور تیری اس ذات باقی کے طفیل جو ہر چیز کے مٹ جانے کے بعد بھی باقی رہے گی

وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَعْتَ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ ۝

اور تیرے ناموں کے صدقے جنہوں نے ہر شے کی توانائیوں کو سرشار فرمایا ہے

وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ ۝

اور تیرے علم کے صدقے جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے

وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۝

اور تیرے نور ذات کے صدقے جس کی بدولت ہر چیز منور ہے

يَا نُورُ يَا قُدُّوسُ

اے نور! اے سراپا پاکیزگی!

يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ وَيَا آخِرَ الْآخِرِينَ

اے سب پہلوں سے پہلے اے سب اخیروں سے اخیر

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ الْعِصَمَ

خدایا! میرے گناہوں کو معاف کر دے جو آبروریز ہیں

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَنْزِلُ النَّقْمَ

خدایا! میرے گناہوں کو معاف کر دے جن سے تیرا غضب نازل ہوتا ہے

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ الزَّعَمَ

خدایا! میرے گناہوں کو معاف کر دے جن سے نعمتیں بدل جاتی ہیں

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعَاءَ

خدایا! میرے گناہوں کو معاف کر دے جن سے دُعا آگے نہیں بڑھ سکتی

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتِي تَنْزِلُ الْبَلَاءَ

خدایا! میرے گناہوں کو معاف کر دے جن سے بلائیں آتی ہیں

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَكُلَّ خَطِيئَةٍ أَخْطَأْتُهَا

خدایا! میرے تمام کردہ گناہوں اور سرزد غلطیوں کو بخش دے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِذِكْرِكَ

خدایا! میں تیرے ذکر کے ذریعے تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں

وَأَسْتَشْفَعُ بِكَ إِلَى نَفْسِكَ وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ

اور تیری بارگاہ میں تجھ کو ہی سفارشی بناتا ہوں اور تیری سخاوت کے صدقے دعا کرتا ہوں

أَنْ تُدْنِيَنِي مِنْ قُرْبِكَ وَأَنْ تُؤَيِّزَ عَنِّي

کہ مجھے اپنے قرب سے نوازے، مجھے اپنا شکر کرنے کی

شُكْرَكَ وَأَنْ تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ

توفیق دے اور مجھے اپنا ذکر کرنے کی تعلیم دے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ سُؤَالَ خَاضِعٍ مُتَذَلِّلٍ خَاشِعٍ

یا اللہ! میں تجھ سے ڈرتے ہوئے عاجزی اور بیچارگی کے ساتھ دعا کرتا ہوں

أَنْ تُسَامِحَنِي وَتَرْحَمَنِي وَتَجْعَلَنِي بِقِسْمِكَ

کہ مجھ سے درگزر فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے اپنی تقسیم پر

سَارِضِيًا قَانِعًا وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ مُتَوَاضِعًا

راضی و قانع رکھ اور تمام حالات میں نرم دل و نرم خو بنا دے

اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ سُؤَالَ مَنْ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ

خدایا اور میں اس شخص کی طرح تجھ سے سوال کرتا ہوں جسکی ضرورتیں انتہائی پریشان کن

وَأَنْزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدَائِدِ حَاجَتَهُ

ہوں اور اس نے حد سے زیادہ پریشانی کے موقع پر اپنی حاجتیں تجھ سے بیان کی ہوں

وَعَظُمَ فِيمَا عِنْدَكَ رَغْبَتُهُ

اور جو کچھ تیری بارگاہ میں ہے اس سے بہت زیادہ وابستہ ہو چکا ہو

اللَّهُمَّ عَظُمَ سُلْطَانُكَ وَعَلَا مَكَانُكَ

خدایا! تیری قدرت عظیم، تیری تیری منزل بلند،

وَخَفِيَ مَكْرُوكٌ وَظَهَرَ أَمْرُكَ وَغَلَبَ قَهْرُكَ

تیری تدبیریں عقل کی رسائی سے باہر، تیسے احکام واضح، تیری توانائی غالب،

وَجَرَتْ قُدْرَتُكَ وَلَا يُمَكِّنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ

تیری قدرت جاری اور تیری فرماں روائی سے بچ نکلنا ممکن نہیں ہے

اللَّهُمَّ لَا أَجِدُ لِي ذَنْبًا غَافِرًا

بارِ اِلهَا! مجھے میرے گناہوں کا بخشنے والا کوئی نظر نہیں آتا ،

وَلَا لِقَبَائِحِي سَاتِرًا وَلَا لِشَيْءٍ مِّنْ

میری برائیوں کا پردہ پوش کوئی نہیں ، اور نہ میری بدکاریوں کو

عَمَلِي الْقَبِيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلًا غَيْرَكَ

خوش کرداری سے بدلنے والی تیرے سوا کوئی ذات ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَيُحْمَدُكَ

تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور تیری ہی حمد کرتا ہوں

ظَلَمْتُ نَفْسِي وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي

میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنی جہالت سے جرات کی

وَسَكَنْتُ إِلَى قَدِيمِ ذِكْرِكَ لِي وَمَنَّكَ عَلَيَّ

اور میں تیری گزشتہ نعمتوں اور ماضی کے احسانات یاد کرتا رہا ہوں

اللَّهُمَّ مَوْلَايَ كَمْ مِّنْ قَبِيحٍ سَتَرْتَهُ

خدایا! میرے مولا کتنے عیب تھے کہ تو نے چھپا لیے

وَكَمْ مِّنْ فَادِحٍ مِّنَ الْبَلَاءِ أَقَلْتَهُ

کتنی ہولناک بلائیں تھیں کہ تو نے نال دین

وَكَمْ مِّنْ عِثَارٍ وَقِيَّتَةٍ وَكَمْ مِّنْ مَّكْرٍ وَكَدَفْعَةٍ

کتنی ٹھوکروں سے تو نے بچا لیا اور کتنی ناپسندیدہ چیزوں کو تو نے دور کیا

وَكَمْ مِنْ شَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشْرَتُهُ

کتنی ہی عمدہ تعریفیں تھیں جن کا میں اہل نہ تھا مگر تو نے انہیں پھیلا دیا

اللَّهُمَّ عَظْمَ بِلَالِي وَأَفْرَاطَ بَنِي سُوءٍ حَالِي

خدا یا! مری بلائیں بڑی سخت ہیں ، بد حالی نے مجھ پر بڑے ستم ڈھائے ہیں

وَقَصْرَتُ بَنِي أَعْمَالِي وَقَعَدَتُ بَنِي أَغْلَالِي

اعمال کی کمزوریوں نے ، (ہوا و ہوس کی) زنجیروں کے بوجھ نے

وَحَبْسِنِي عَنْ تَفْعِي بَعْدَ امْلِي فُخْدَ عَتْنِي

اور اُمیدوں کی وسعتوں نے مجھے قید کر رکھا ہے

الدُّنْيَا بَغْرُورِهَا وَنَفْسِي بِجِنَايَتِهَا وَمِطَالِي

دنیا نے اپنے فریبوں اور میرے نفس نے اپنی خیانت و کاہلی سے مجھے دھوکہ دیا

يَا سَيِّدِي فَاسْأَلْكَ بِعِزَّتِكَ أَنْ لَا يَحْجُبَ

لہذا میرے آقا میں تیری قدرت کے صدقے تجھ سے سوالی ہوں کہ میری بد اعمالی و

عَنْكَ دُعَائِي سُوءَ عَمَلِي وَفِعَالِي

بد کاری میری دعا کو تیری بارگاہ تک رسائی سے نہ روکے

وَلَا تَفْضَحْنِي بِخَفِيِّ مَا أَطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْ سِرِّي

اور ان پوشیدہ رازوں کی وجہ سے مجھے رسوا نہ فرما جو تجھ پر عیاں ہیں

وَلَا تَعَا جِلْنِي بِالْعُقُوبَةِ عَلَى مَا عَمِلْتُهُ

اور خلوتوں میں کمی ہوئی بد اعمالیوں کی وجہ سے مجھ پر عذاب کرنے میں جلدی

فِي خَلَوَاتِي مِنْ سُوءِ فِعْلِي وَإِسَاءَتِي وَدَوَامِ

ذکر میں نے غلطیاں کیں ، مسلسل زیادتیاں

تَفْسِ يُطِي وَجْهَالَتِي وَكَثْرَةِ شَهَوَاتِي وَعَفْلَتِي

کرتا رہا مگر وہ میری جہالت ، خواہشات کی زیادتی اور غفلت کی وجہ سے ہوا

وَكَوْنِ اللّٰهِمَّ بِعِزَّتِكَ لِي فِي الْأَحْوَالِ كُلِّهَا رَوْفًا

یا اللہ! اپنی عزت کے صدقے میں میرے تمام حالات میں مجھ پر رحم فرما

وَعَلَىٰ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ عَطُوفًا

اور میرے تمام معاملات میں مجھ پر توجہ فرما

إِلٰهِیْ وَسَابِّیْ مَنْ لَّمْ يَغْيُرْكَ أَسْأَلُهُ

میرے معبود لے میرے پروردگار تیرے سوا میرا کون ہے جس سے

كَشَفَ ضُرِّي وَالنَّظَرَ فِيَّ أَمْرِي

اپنی زحمتوں کو دور کرنے اور اپنے معاملات میں نظر کرنے کی درخواست کروں

إِلٰهِیْ وَمَوْلَايَ أَجْرِيَتْ عَلَيَّ حُكْمًا اتَّبَعْتُ

میرے اللہ میرے مولا تونے مجھے حکم (شرعیات) دیا مگر میں نے

فِيهِ هَوَىٰ نَفْسِي وَلَمْ أَحْتَرِسْ فِيهِ

اپنی خواہش نفس پر عمل کیا اور ایسا کرتے ہوئے مجھے خیال نہ آیا

مَنْ تَزَيُّينَ عَدُوِّي فَغَرَّنِي بِمَا أَهْوَىٰ

اپنے دشمن کی فریب کاری کا لہذا اس (دل) نے اپنی خواہشوں کے ذریعے مجھے دھوکہ دیا

وَأَسْعَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَضَاءِ فَتَجَاوَزَتْ بِمَا جَرَى

اور قسمت نے اس سلسلے میں اس کی مدد کی خیر، نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے

عَلَى مِنْ ذَلِكَ بَعْضَ حُدُودِكَ وَخَالَفْتُ بَعْضَ

تیری (مقرر کردہ) کچھ حدوں سے تجاوز کیا اور تیرے کچھ احکام کی

أَوْ أَمْرِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ

خلاف ورزی کی پس اب ان تمام منہزلوں میں تیری حمد کرتا ہوں

وَلَا حُجَّةَ لِي فِي مَا جَرَى عَلَيَّ فِيهِ قَضَاؤُكَ

ہیرا جو فیصلہ میرے خلاف صادر ہو چکا اس میں لب کشائی کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں

وَالرَّحْمَنُ مِنِّي حُكْمُكَ وَبَلَاؤُكَ وَقَدْ أَتَيْتُكَ

تیرا حکم مجھ پر فرض اور آزمائشیں لازمی ہو چکیں اور میں حاضر ہوا ہوں

يَا إِلَهِي بَعْدَ تَقْصِيرِي وَإِسْرَافِي عَلَىٰ نَفْسِي

یا اللہ! اپنی ان کوتاہیوں پر اور اپنے نفس پر ڈھائے ہوئے ظلموں پر

مُعْتَذِرًا نَادِمًا مُنْكَسِرًا مُسْتَقْبِلًا

معذرت کرتا، نادم، انکساری کے ساتھ، توبہ کرتا

مُسْتَغْفِرًا مَنِيبًا مُقِرًّا مَذْعَنًا مُعْتَرِفًا

بخشش مانگتا، عاجزانہ انداز میں اقرار کرتا، لوے یقین اور دلی اعتراف کے ساتھ

لَا أَحَدٌ مَفْرَأٌ مِمَّا كَانَ مِنِّي وَلَا مَفْرَعًا أَتَوْجَّهُ

جو کہ چکا اُس سے مفر نہیں اور نہ کوئی ایسا ہے کہ اپنے معاملات میں

إِلَيْهِ فِي أَمْرِي غَيْرَ قَبُولِكَ عُنْزِرِي

اس کا رخ کروں ، صرف تو ہی میرا عذر مان سکتا ہے ،

وَادْخَالِكَ إِيسَىٰ فِي سَعَةِ مِنْ رَحْمَتِكَ

تو ہی اپنی وسیع رحمتوں میں مجھے داخل کر سکتا ہے

اللَّهُمَّ فَاقْبَلْ عُنْزِرِي وَأَرْحَمْ شِدَّةَ

خدایا ! میری معذرت قبول فرما ، میری سخت پریشانیوں پر

ضُرِّي وَفُكِّنِي مِنْ شِدِّ وَثَاقِي

رحم فرما اور میری مضبوط بندشوں کو کھول دے

يَا رَبِّ ارْحَمْ ضَعْفَ بَدَنِي وَرِقَّةَ جِلْدِي

میرے پروردگار ! میرے جسم کی کمزوری ، کھال کی نرمی

وَدِقَّةَ عَظْمِي يَا مَرُّهُ بَدَأَ خَلْقِي

اور ہڈیوں کی نزاکت پر رحم کر لے وہ جس نے میری خلقت کا آغاز فرمایا

وَذِكْرِي وَتَرْبِيَّتِي وَبِرِّي وَتَعْذِيَّتِي

ذکر جہاری کیا ، پرورش فرمائی ، احسانات کیے ، روزی دی

هَبْنِي لِابْتِدَاءِ كَرَمِكَ وَسَالِفِ بَرِّكَ بِي

اب اپنے ابتدائی کرم اور گزشتہ احسانات کی بنا پر بخش دے

يَا إِلَهِي وَسَيِّدِي وَسَمِّيَّ أَتْرَاكَ مُعَذِّبِي

اے میرے معبود ، میرے آقا و پروردگار کیا تو مجھے آگ میں جلتا

بِنَارِكَ بَعْدَ تَوْحِيدِكَ وَبَعْدَ مَا انْطَوَى

دیکھے گا حالانکہ میں تیری توحید کا اقرار کر چکا اور

عَلَيْهِ قَلْبِي مِنْ مَّعْرِفَتِكَ وَلِهَجَّ بِهِ لِسَانِي

میرے دل میں تیری معرفت موجود ہے اور میری زبان کو

مِنْ ذِكْرِكَ وَاعْتَقَدَهُ ضَمِيرِي مِنْ حُبِّكَ

تیرے ذکر سے عشق ہے اور تیری محبت کا میرے ضمیر کو اعتقاد ہے

وَبَعْدَ صِدْقِ اعْتِرَافِي وَدُعَائِي خَاضِعًا لِرُبُوبِيَّتِكَ

اور سچے اعتراف کا اظہار کر چکا اور میری دعا تیری ربوبیت کے سامنے گردن جھکانے ہے

هِيَ هَاتِ أَنْتَ أَكْرَمُ مَنْ أَنْ تَضَيِّعَ

تو بہ! تو بہ! تو اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ اسے بیکار کر دے

مَنْ رَّبِّيَّتَهُ أَوْ تَبَعْدَ مَنْ أَدْنَيْتَهُ

جسے تو نے (خود) پالا ہو، جسے اپنے قریب کیا ہو اُسے دُور کر دے،

أَوْ تَشَرَّدَ مَنْ أَوَيْتَهُ أَوْ تَسَلَّمَ إِلَى الْبَلَاءِ

جسے پناہ دی ہو اسے نکال دے، جس کی سربراہی کی ہو اور

مَنْ كَفَيْتَهُ وَرَحِمْتَهُ وَلَيْتَ شِعْرِي

رحمت کی ہو اسے بلاؤں کے سپرد کر دے کاش مجھے علم ہوتا

يَا سَيِّدِي وَاللَّهِ وَمَوْلَايَ اتَّسَلَّطَ النَّاسَ

اے میرے آقا، اے میرے معبود، اے میرے مولا! کیا تو جہنم مسلط کر دے گا

عَلَىٰ وَجْوهِ خَرَّتْ لِعَظَمَتِكَ سَاجِدَةً

ان چہروں پر جو تیری عظمت کے سامنے سجدہ بیز ہوں

وَعَلَىٰ السُّرِّ نَطَقْتُ بِتَوْحِيدِكَ صَادِقَةً وَبِشُكْرِكَ

اور ان زبانوں پر جو سچائی کے ساتھ تیری توحید کا اقرار اور شکر میں تیری مدح و ثناء

مَا دِحَّةً وَعَلَىٰ قُلُوبٍ اعْتَرَفْتُ بِأَلِهِيَّتِكَ مُحِقَّةَةً

کھجکی ہوں اور ان دلوں پر جو تیری خدائی کا یقین کے ساتھ اقرار کر چکے ہوں

وَعَلَىٰ ضَمَائِرِ حَوْتٍ مِنَ الْعِلْمِ بِكَ حَتَّىٰ صَارَتْ خَاشِعَةً

اور ان ضمیروں پر جو تمہے بلے میں علم سے لبریز ہو کر جھک چکے ہوں

وَعَلَىٰ جَوَارِحِ سَعَتٍ إِلَىٰ أَوْطَانِ تَعْبُدُكَ طَائِعَةً

اور ان اعضاء پر جو تیری بندگی کے مرکزوں تک دوڑائے ہوں

وَأَشَارَتْ بِاسْتِغْفَارِكَ مُذْعِنَةً

اور بڑے یقین کے ساتھ تجھ سے مغفرت طلب کر چکے ہوں

مَا هَكَذَا الظَّنُّ بِكَ وَلَا أَخْبِرْنَا بِفَضْلِكَ عَنكَ

تیرے بلے میں میرا تو یہ گمان نہیں ہو سکتا نہ تیرے فضل کے بارے میں ہمیں ایسی کوئی خبر دی گئی ہے

يَا كَرِيمُ يَا رَبِّ وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي

اے کریم! اے پروردگار! تجھے خوب معلوم ہے کہ میں

عَنْ قَلِيلٍ مِّنْ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعُقُوبَاتِهَا

دنیا کی معمولی سے معمولی بلا اور یہاں کی سزاؤں

وَمَا يَجْرِي فِيهَا مِنَ الْمَكَارِهِ عَلَىٰ أَهْلِهَا

یا دنیا والوں پر جو سختیاں گزرتی ہیں انھیں برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا

عَلَىٰ أَتَ ذَٰلِكَ بَلَاءٌ ۖ وَمَكْرُوهٌ

حالانکہ یہ تکلیفیں اور بلائیں

قَلِيلٌ مَّا كُنْتُمْ بِسِيرَتِكُمْ أَهْلًا ۖ قَصِيرٌ مَّدَاتُهُ

کم اور ان کا ثبات و قرار مختصر، ان کی مدتیں کوتاہ ہیں

فَكَيْفَ إِحْتِمَالِي لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ وَجَلِيلٍ

پھر آخرت کی بلاؤں اور وہاں کی نافرمانیوں پر

وَقَوِّعِ الْمَكَارِهِ فِيهَا وَهُوَ بَلَاءٌ ۖ تَطُولُ مَدَاتُهُ

دشواریوں کا کیا حال ہوگا کہ وہ بلائیں تو مدتوں برقرار

وَيَدُومُ مَقَامُهُ ۖ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ

اور ہمیشہ باقی رہیں گی آخرت والوں پر ان بلاؤں میں کوئی کمی نہ ہوگی

لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنِ غَضَبِكَ وَإِنْتِقَامِكَ

کیونکہ وہاں تو یہ باتیں تیرے غضب، انتقام اور ناراضگی کی وجہ

وَسَخَطِكَ وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ

سے ہوں گی اور یہ ایسی وجہ ہے جس کے سامنے نہ آسمان ٹھہر سکتے ہیں نہ زمین

يَا سَيِّدِي فَكَيْفَ لِي وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ

پھر میرے آقا میں کیا کمزوریوں جبکہ میں تیرا کمزور

الدَّلِيلُ الْحَقِيرُ الْمُسْكِينُ الْمُسْتَكِينُ

عاجز، حقیر، بے چارہ و ناکارہ بندہ ہوں

يَا اَلِهِي وَسَائِي وَمَوْلَايَ

اے میرے معبود اے میرے پروردگار اے میرے آقا اے میرے مولا

لَا اِيَّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَشْكُو وَلِمَا مِنْهَا

کس کس بات کی فریاد کروں ان میں سے کس کس

أَضَجُّ وَأَبْكِي لِأَلِيمِ الْعَذَابِ وَشِدَّتِهِ

چیز پر روؤں پیٹوں تیرے دردناک عذاب اور اس کی شدت پر

أَمْ لَطُولِ الْبَلَاءِ وَمُدَّتِهِ فَلَيْنُ صَيَّرْتَنِي

بلاؤں کے طول اور اس کی سختیوں پر اگر کہیں تو نے مجھے سزاؤں

لِلْعُقُوبَاتِ مَعَ أَعْدَائِكَ وَجَمَعْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ

میں اپنے دشمنوں کا ساتھی بنا دیا اور مجھے ان بلاکٹوں میں

أَهْلِ بِلَائِكَ وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّائِكَ وَأَوْلِيَاءِكَ

بٹھا دیا اور مجھ میں اور اپنے پسندیدہ بندوں میں جدائی ڈال دی

فَهَبْنِي يَا اَلِهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَسَائِي

تو فرض کیا اے میرے معبود، میرے آقا، میرے مولا، میرے پروردگار

صَبْرَتٌ عَلَى عَذَابِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ

کہ میں تیرے عذاب پر صبر کروں مگر تیری بارگاہ سے دور رہنے پر کیسے صبر کر سکتا

وَهَبْنِي يَا إِلَهِي صَبْرْتُ عَلَى حَرِّ نَارِكَ

الہی! مانا کہ تیرے جہنم کی آگ پر بھی صبر کر لیا

فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى كَرَامَتِكَ

مگر تیرے کرم سے محروم نظر ہونے پر کیسے صبر کر سکوں گا

أَمْ كَيْفَ أَسْكُنُ فِي النَّارِ وَرَجَائِي عَفْوِكَ

یا جہنم میں کیسے رہ سکوں گا جبکہ تیری معافی سے پُر امید ہوں

فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ

اے میرے آقا، اے میرے مولا! تیری عزت کی

أُقْسِمُ صَادِقًا لَيْسَ تَرَكْتَنِي نَاطِقًا

سچی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر اس وقت تو نے مجھ میں قوت گویا باقی نہیں دی

لَا أَضِحُّ بَيْنَ أَيْدِيكَ بَيْنَ أَهْلِهَا ضَمِيحَ الْأَمَلِينَ

تو میں جہنمیوں میں رہتے ہوئے تیرے سامنے اس طرح فریاد کروں گا جیسے امیدوار فریاد کرتے ہیں

وَلَا أَصْرُخُ بِإِيَّاكَ صَرَخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ

اور پیچھنے والوں کی طرح چٹاؤں گا

وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ

اور مردہ اولاد لوگوں کی طرح تیرے حضور میں روؤں گا

وَلَا نَادِيَنَّكَ أَيْنَ كُنْتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ

اور پکار کر کہوں گا کہ اے مومنوں کے مولا تو کہاں ہے

يَا غَايَةَ أَمَالِ الْعَارِفِينَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ

اے عارفوں کی تمنائوں کے مرکز! اے فریادیوں کے فریاد رس!

يَا حَبِيبَ قُلُوبِ الصَّادِقِينَ وَيَا إِلَهَ الْعُلَمَاءِ

اے سچوں کے دلی محبوب! اے جہانوں کے معبود!

أَفْتَرَاكَ سُبْحَانَكَ يَا إِلَهِي وَبِحَمْدِكَ

الہی! تیری حمد و ثنا، تو پاک و بلند ہے کیا یہ ملاحظہ فرمائے گا

تَسْمَعُ فِيهَا صَوْتُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ سَجِنَ فِيهَا بِمَخَالَفَتِهِ

کہ اس عذاب میں تیرا ایک مسلمان بندہ پکار رہا ہو اور نافرمانی کی وجہ سے اس جہنم میں قید ہو

وَذَاقَ طَعْمَ عَذَابِهَا بِمَعْصِيَتِهِ

وہاں کے عذاب کا مزہ اپنی گناہ گاری کی وجہ سے چکھ رہا ہو

وَحَبِسَ بَيْنَ أَطْبَاقِهِ بِجُرْمِهِ وَجَرِيرَتِهِ

اس جہنم کے طبقوں میں اپنے جرم و قصور کی وجہ سے محبوس ہو

وَهُوَ يَضْحَكُ إِلَيْكَ ضِحْجِيحَ مُؤَقِّلٍ لِرَحْمَتِكَ

اور وہیں تیری رحمت کے امیدواروں کی طرح چسپخ رہا ہو

وَيُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْحِيدِكَ

اور تیرے موخدوں کی زبان میں پکار رہا ہو

وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ

تیری ربوبیت (پروردگاری) کو وسیلہ بنا رہا ہو

يَا مَوْلَايَ فَكَيْفَ يَبْقَى فِي الْعَذَابِ

اے میرے مولا! اس کے بعد وہ شخص تیرے عذاب میں کیونکر باقی رہے گا

وَهُوَ يَرْجُو مَا سَلَفَ مِنْ حِلْمِكَ

جسے اپنے گناہان گزشتہ کے بارے میں تیری درگزر سے امیدیں ہوں

أَمْ كَيْفَ تَوْلِيَهُ النَّارُ وَهُوَ يَأْمُلُ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ

یا کس طرح جہنم اس شخص کو دکھ دے سکے گا جبکہ وہ تیرے فضل و کرم کا امیدوار ہو

أَمْ كَيْفَ يُحْرِقُهُ لَهَيْبِهَا وَأَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ

یا جہنم کے شعلے اسے کیونکر جلا سکیں گے جبکہ تو اس کی آوازیں سن رہا ہو،

وَتَرَى مَكَانَهُ أَمْ كَيْفَ يَشْتَمِلُ

اس کی منزل کو دیکھ رہا ہو یا اس آدمی پر دوزخ کے شعلے کیسے

عَلَيْهِ نَزَفِيرُهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ

پھا سکیں گے جس کی ناتوانی کا تجھے علم ہو

أَمْ كَيْفَ يَتَقَلَّبُ بَيْنَ أَطْبَاقِهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ

یا وہ شخص جہنم کے طباقوں میں کیسے بھن سکے گا جسکے سچ سے تو واقف ہے

أَمْ كَيْفَ تَرْجُرُهُ زَبَانِيَّتِهَا وَهُوَ ينادِيكَ يَا رَبَّهُ

یا اس کی لپٹیں ایسے شخص کو کیونکر مڑائے سکیں گی جو تجھے "یارب" کہہ کر پکار رہا ہو

أَمْ كَيْفَ يَرْجُو فَضْلَكَ فِي عِتْقِهِ مِنْهَا فَتَرْكُهُ فِيهَا

یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ (گناہگار) تو جہنم سے چھٹکارے کی امید تجھ سے رکھے اور تو اسے پھینکا رہنے دے

هَيَّاتَ مَا ذَلِكَ الظَّرُّ بِكَ

توبہ! توبہ! تجھ سے یہ امید نہیں

وَلَا الْمَعْرُوفِ مِنْ فَضْلِكَ وَلَا مَشِيئَهُ لِمَا عَامَلْتَ

نہ تیری احسان کے باب میں یہ بات کسی کو معلوم ہے نہ تیری بخشش و کرم کی طرح

بِهِ الْمَوْحِدِينَ مِنْ بَرِّكَ وَأِحْسَانِكَ فَيَالْيَقِينِ

کسی نے تیرے موحدوں سے برتاؤ کیسا ہے میں تو یقین

أَقْطَعُ لَوْ لَا مَا حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذِيْبٍ جَاحِدِيكَ

قطع کر رکھتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب میں

وَقَضَيْتَ بِهِ مِنْ إِخْلَادِ مُعَانِدِيكَ

اور دشمنوں کو جاودانی طور پر جہنم میں رکھنے کا فیصلہ نہ فرمایا ہوتا

لَجَعَلْتَ النَّارَ كُلَّهَا بَرْدًا وَسَلَامًا

تو جہنم کی آگ کو سراسر ٹھنکی و سلامتی بنا دیتا

وَمَا كَانَ لِأَحَدٍ فِيهَا مَقْرًا وَلَا مَقَامًا

اور اس میں کسی کو منزل و قیام نہ ہوتا

لَكِنَّكَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ أَقْسَمْتُ أَنْ

لیکن تیرے نام پاکیزہ تو نے قسم کھائی ہے کہ

تَمْلَأُهَا مِنَ الْكُفْرِيِّينَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ الْجَمْعِينَ

اس (جہنم) کو کافر جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا

وَأَنْ تَخْلُدَ فِيهَا الْمُعَانِدِينَ

اور اپنے دشمنوں کو وہاں ہمیشہ رکھے گا

وَأَنْتَ جَلَّ شَأْنًا وَكَ قُلْتَ مُبْتَدِئًا

تیری حمد و ثنا کا درجہ بلند ہے تو نے شروع ہی میں فرما دیا

وَتَطَوَّلْتَ بِالْإِنْعَامِ مُتَكَرِّمًا

اور انعام و عزت افزائی کے طور پر کرم کیا (اور فرمایا)

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ

کیا مومن ویسا ہی ہو سکتا ہے جیسا فاسق؟ نہیں، دونوں برابر نہیں

إِلَهِي وَسَيِّدِي فَاسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي

اے میرے اللہ اے میرے آقا میں تیری اس قدرت کے ذریعے سوال کرتا ہوں

قَدَّرْتَهَا وَبِالْقُضِيَّةِ الَّتِي حَتَمْتَهَا وَحَكَمْتَهَا

جس کا اثر یہ ہے کہ سارے عالم پر تیرا قبضہ ہے اور تیرے ان فیصلوں کا سہارا لیتا ہوں جن کو تجھی

وَغَلَبْتَ مَنْ عَلَيْهِ أَجْرِيَتَهَا أَنْ تَهَبَ لِي

اور مجھ کو قرار دیا ہے اور جس پر اسے جاری فرمایا اس پر تو انانی حاصل فرمائی معبود!

فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَفِي هَذِهِ السَّاعَةِ

اسی رات اسی گھنٹی

كُلَّ جُرْمٍ أَجْرَمْتَهُ وَكُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتَهُ

معاف فرمائے میرے تمام جرم جو میں نے کیے ہر وہ گناہ جس کا گناہ گار ہوں

وَكُلَّ قَبِيحٍ أَسْرَرْتَهُ وَكُلَّ جَهْلٍ عَمِلْتَهُ

ہر وہ بُری بات جسے چھپایا ہر وہ جہالت جس پر عمل کیا

كَتَمْتَهُ أَوْ أَعْلَنْتَهُ أَخْفَيْتَهُ أَوْ أَظْهَرْتَهُ

چھپو شیدہ کیا ہو یا علانیہ چھپایا ہو یا ظاہر کیا ہو

وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتُ بِإِثْبَاتِهَا الْكِرَامَ

ہر وہ بدی جس کے لکھنے کا تو نے اپنے ان محترم فرشتوں کو

الْكَاتِبِينَ الَّذِينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ

حکم دیا ہے جنہیں میرے اعمال کا محافظ قرار دیا ہے

مِنِّي وَجَعَلْتَهُمْ شُهُودًا عَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِي

اور انہیں میرے اعضا کا نگران مقرر فرمایا ہے

وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ

اور ان کے بعد تو ہی میرا محافظ ہے

وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ وَبِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتَهُ

جو انہیں نہیں معلوم تو اس سے بھی واقف ہے پھر اپنی رحمت کے ان باتوں کو مخفی رکھا

وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَهُ وَأَنْ تُوقِرَ حَظِّي

اور اپنے فضل سے پردہ پوشی فرمائی ہے یہ دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ میرا حصہ رکھ

مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَنْزَلْتَهُ أَوْ إِحْسَانٍ فَضَّلْتَهُ

ہر اس خیر میں جو تو نے نازل فرمائی ہو ہر اس احسان میں جو تو نے انعام کیا ہو

اَوْ بِرِّ نَشْرَتِهِ اَوْ رِزْقِ بَسْطَتِهِ

ہر اس اچھائی میں جو تو نے پھیلائی ہو اس رزق میں جسے تو نے فراخ کیا ہو

اَوْ ذَنْبِ تَغْفِرُهُ اَوْ خَطَاةٍ تَسْتُرُهُ

یا گناہ جسے تو معاف کرے یا غلطی جسے تو چھپائے

يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا اِلٰهِي يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ

اے رب اے رب اے رب اے میرے معبود اے میرے آقا و مولا

وَمَالِكَ سِرِّي يَا مَنْ بِيَدِهِ نَاصِيَتِي

اے میری بندگی کے مالک اے وہ جس کے ہاتھ میں میری قسمت ہے

يَا عَلِيْمًا بِضُرِّي وَمَسْكِنِي يَا خَيْرًا اِبْفَقْرِي

اے میرے دکھ اور غربت کو جاننے والے اے میری محتاجی و ناچاری سے

وَفَاقَتِي يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ اَسْأَلُكَ

واقف اے رب اے رب اے رب تجھے تیرے

بِحَقِّكَ وَقُدْسِكَ وَاَعْظَمِ صِفَاتِكَ وَاَسْمَائِكَ

حق اور تیری پاکیزگی کا واسطہ تیری عظیم خوبیوں اور ناموں کا طفیل

اَنْ تَجْعَلَ اَوْقَاتِي مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِذِكْرِكَ

کہ میرے وقت ، رات ہو یا دن ، اپنی یاد سے

مَعْمُورَةً وَبِخِدْمَتِكَ مَوْصُولَةً وَاَعْمَالِي

آباد ، اپنی خدمت سے متصل ، اور میرے اعمال

عِنْدَكَ مَقْبُولَةً حَتَّى تَكُونَ أَعْمَالِي وَأُورَادِي

اپنی بارگاہ میں مقبول فرما یہاں تک کہ میرے تمام اعمال و افعال سب

کُلُّهَا وَرُودًا وَاحِدًا وَحَالِي فِي خِدْمَتِكَ سَرْمَدًا

کے سب ایک انداز کے ہوں اور میری حالت تیری خدمت میں جاودانی ہو جائے

يَا سَيِّدِي يَا مَنْ عَلَيْهِ مُعْوَلِي

اے میرے آفت اے وہ ذات جس پر مجھے بھروسہ ہے

يَا مَنْ إِلَيْهِ شَكْوَتُ أَحْوَالِي يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ

اے وہ ذات جس سے میں اپنے حالات کا شکوہ کرتا ہوں اے رب اے رب اے رب

قَوِّ عَلَيَّ خِدْمَتَكَ جَوَابِي

میرے ہاتھ پیر اپنی اطاعت کے لیے مضبوط

وَأَشْدُدْ عَلَيَّ الْعَزِيمَةَ جَوَابِي

اور میرا دل تعمیل احکام کے لیے استوار فرما

وَهَبْ لِي الْجِدَّ فِي خَشْيَتِكَ

مجھے اپنے خوف میں کوشش کی توفیق دے

وَالدَّوَامَ فِي الْإِتِّصَالِ بِخِدْمَتِكَ

تاکہ تیری خدمت گزاری میں ہمیشگی رکھوں

حَتَّى أَسْرَحَ إِلَيْكَ فِي مَيَادِينِ السَّابِقِينَ

یہاں تک کہ نیک عمل مومنوں کے میدانوں میں تیری بارگاہ تک دوڑ سکوں

وَأَسْرِعَ إِلَيْكَ فِي الْبَارِئِينَ وَأَشْتَقِ إِلَى

اور اطاعت گزار بندوں کے ساتھ آمدورفت رکھ سکوں ، تیری قربت

قُرْبِكَ فِي الْمُسْتَأْقِينَ وَأَدْنُو مِنْكَ دُنُو

میں پہننے والوں سے محبت کروں تیرے پُر غلوں بندوں کی طرح تجھ سے

الْمُخْلِصِينَ وَأَخَافُكَ مَخَافَةَ الْمُوقِنِينَ

نزدیک رہوں ، یقین رکھنے والوں کے خوف کی طرح تجھ سے ڈروں

وَأَجْتَمِعَ فِي جَوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

اور تیرے مومنوں کے ساتھ تیرے حضور میں جمع ہو جاؤں

اللَّهُمَّ وَمَنْ أَسَادَنِي بِسُوءٍ فَأَسَدُهُ

بار الہا ! جو مجھ سے دشمنی کرے اس کی دشمنی اُسے ہے

وَمَنْ كَادَنِي فَكِدَاهُ وَأَجْعَلْنِي مِنْ

جو میرے خلاف کاوش کرے اسے ناکام بنا دے مجھے اپنے بندوں میں سے

أَحْسَنِ عِبِيدِكَ نَصِيبًا عِنْدَكَ وَأَقْرَبَهُمْ

سب سے بڑا خوش نصیب قرار دے ان میں سب سے زیادہ

مَنْزِلَةً مِّنْكَ وَأَخْصِرْهُمْ زُلْفَةً لِّدَيْكَ

اپنی بارگاہ میں قریب جگہ دے ان میں سب سے زیادہ خصوصی درجہ العالیٰ کا حال قرار دے

فَإِنَّهُ لَا يَنْالُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ فَجُدْ لِي بِجُودِكَ

کیونکہ یہ عزت تیرے احسان کے بغیر نہیں ملتی مجھ پر اپنے فضل سے کرم کر

وَاعْطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ وَاحْفَظْنِي بِرَحْمَتِكَ

اپنی بزرگی سے میری طرف توجہ فرما اپنی رحمت سے میری حفاظت فرما

وَاجْعَلْ لِّسَانِي بِذِكْرِكَ لَهْجًا وَقَلْبِي بِحُبِّكَ

میری زبان کو اپنی یاد کا فریضہ اور میرے دل کو اپنی محبت کا شیدا

مُتِّمًا وَمَنْ عَلَيَّ بِمُحْسِنِ اجَابَتِكَ وَاقْلِنِي عَثْرَتِي

بنائے، اپنی بہترین قبولیت سے مجھے سرفراز فرما اور میری کوتاہیاں بخش دے

وَاعْفِرْ زَلَّتِي فَإِنَّكَ قَضَيْتَ عَلَيَّ عِبَادَكَ

میری لغزشوں کو معاف فرما کیونکہ تو نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا

بِعِبَادَتِكَ وَأَمْرَتَهُمْ بِدُعَائِكَ وَضَمِنْتَ لَهُمُ الْإِجَابَةَ

پابند، اور اپنی دُعا کا محکوم بنا کر ان سے قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے

فَالِيكَ يَا رَبِّ نَصَبْتُ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ

اے پروردگار! میں نے اپنا رخ تیری طرف کر دیا۔ پروردگار! میں نے تیرے سامنے

مَدَدْتُ يَدِي فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي

اپنے ہاتھ پھیلا دیے اپنی عزت کا حدتہ میری دُعا قبول فرما

وَبَلِّغْنِي مَنَائِي وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي

مجھے میری تمنائوں تک پہنچا دے اور اپنے فضل سے میری امید نہ توڑ

وَكَفِّنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ مِنْ أَعْدَائِي

ان لوگوں اور جنوں کی دشمنی کے شر سے مجھے محفوظ رکھ

يَا سَرِيعَ الرِّضَا اغْفِرْ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ إِلَّا الدُّعَاءُ

اے بہت جلد راضی ہو جانے والے اس شخص کو بخش دے جو دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتا

فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِّمَا تَشَاءُ يَا مَنْ اسْمُهُ دَوَاءٌ

بلاشبہ تو جو چاہے کر سکتے اے وہ ذات جس کا نام دوا

وَذِكْرُهُ شِفَاءٌ وَطَاعَتُهُ غِنَىٰ أَرْحَمَ مِنْ رَأْسِ

اور ذکر شفا اور جس کی اطاعت میں بے نیازی ملتی ہے اس شخص پر رحم فرما

مَالِهِ الرَّجَاءُ وَسِلَاحُهُ الْبُكَاءُ يَا سَابِغَ النِّعَمِ

جس کی پونجی "امید" اور جس کا ہتھیار "رونا" ہے اے میٹھا نعمتیں عطا کرنے والے

يَا دَافِعَ النِّقَمِ يَا نُورَ الْمُسْتَوْحِشِينَ فِي الظُّلَمِ

اے غضب کو دور رکھنے والے اے اندھیروں میں گھبرانے والوں کے لیے روشنی

يَا عَالِمًا لَا يَعْلَمُ صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ

اے بتائے بغیر سب کچھ جاننے والے رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

وَأَلِ مُحَمَّدٍ وَأَفْعَلُ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ

اور آل محمد پر اور مجھ پر کرم فرما جس کا تو اہل ہے

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْأَيَّمَةِ الْمَيَامِينِ

اور رحمت نازل فرمائی اللہ نے اپنے رسول اور مبارک ائمہ

مَنْ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

ابن بیت پر اور سلام بھیجے بے شمار سلام

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي كُلِّ لَحْزَةٍ وَنَفْسٍ بَعْدَ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ ط

حدیث کساء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ خدائے بخشنندہ و مہربان

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ

بیان کیا جناب جابر ابن عبد اللہ انصاری رضی عنہ کے

عَنْ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا السَّلَامُ

روایت بیان کی گئی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا

بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ:

بنت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے - کہا

سَمِعْتُ فَاطِمَةَ أَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ أَبِي

میں نے حضرت فاطمہ کو فرماتے سنا کہ ایک روز میرے پدر بزرگوار

رَسُولُ اللَّهِ فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ فَقَالَ: السَّلَامُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے اور فرمایا : سلامتی ہو

عَلَيْكَ يَا فَاطِمَةُ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ قَالَ

تم پر لے فاطمہ ! میں نے کہا آپ پر بھی سلامتی ہو لے بابا: فرماتے لے

إِنِّي أجدُ في بَدَنِي ضَعْفًا فَقُلْتُ لَه

میں اپنے جسم میں ضعف پاتا ہوں میں نے کہا:

أَعْبُدُكَ بِاللَّهِ يَا أَبَتَاهُ مِنَ الضُّعْفِ فَقَالَ

میں آپ کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں اے بابا ضعف سے آنحضرتؐ فرمایا

يَا فَاطِمَةُ إِنِّي بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِيِّ فَغَطَّيْنِي

اے فاطمہ! میرے لیے چادرِ یمانی لاؤ اور مجھے اڑھا دو

بِهِ فَاتَّيْتُهُ بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِيِّ فَغَطَّيْتُهُ بِهِ

پس میں چادرِ یمانی لائی اور میں نے آنحضرتؐ کو اڑھا دی

وَصَرْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِذَا وَجْهَهُ يَتَلَاكُؤُ

اور میں آنجنابؐ کو دیکھ رہی تھی کہ چہرہ حضرتؐ کا نورانی اور روشن ہو کر چمکنے لگا

كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةٍ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ فَمَا

مثلاً چودھویں رات کے چاند کے

كَانَتْ إِلا سَاعَةً وَإِذَا أَبُو لَدَى الْحَسَنِ قَدْ

پھر ایک ساعت گزری تھی کہ میرا فرزند حسنؑ آیا

أَقْبَلَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّاهُ فَقُلْتُ

اور کہا: سلام ہو آپ پر میرا اے منادِ گرامی! پس کہا میں نے

وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا قَرَّةَ عَيْنِي وَثَمَرَةَ فؤَادِي

اور تم پر بھی میرا سلام ہو اے خنکی چشم اور میرے میوۂ دل

فَقَالَ يَا أُمَّهُ ارْنِي أَشْرُعِنْدَكَ رَائِحَةً

پس حسی نے مجھ سے کہا اے اماں جان میں سونگھ رہا ہوں آپ کے پاس ایسی خوشبو

طَيِّبَةً كَأَنَّهَا رَائِحَةُ جَدِّي سَأَسْأَلُ اللَّهَ

کہ گھنیا وہ خوشبو میرے نانا پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے

فَقُلْتُ نَعَمْ إِنَّ جَدَّكَ تَحْتَ الْكِسَاءِ

میں نے جواب دیا: ہاں تحقیق کہ تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں زیر چادر

فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ نَحْوَ الْكِسَاءِ وَقَالَ السَّلَامُ

پس حسن چادر کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا: سلام ہو

عَلَيْكَ يَا جَدًّا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْذِنُ لِي

آپ پر اے میرے نانا جان اے رسول خدا! کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں

أَنْ أَدْخُلَ مَعَكَ تَحْتَ الْكِسَاءِ وَتَالَ

کہ میں داخل ہوں آپ کے پاس چادر میں؟ حضرت رسول خدا نے فرمایا

وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا صَاحِبَ حَوْضِي

تم پر بھی سلام ہو اے میرے بیٹے اور میرے حوض (کوثر) کے مالک

قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ مَعَهُ تَحْتَ الْكِسَاءِ

میں تم کو اجازت دیتا ہوں پس امام حسن آنحضرت کے پاس چادر میں داخل ہوئے

فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاعَةً وَإِذَا بَوْلَدِي الْحُسَيْنِ

ابھی ایک ساعت گزری تھی کہ میرا بیٹا حسین آیا

قَدْ أَقْبَلَ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُمَّاهُ فَقُلْتُ

اور عرض کیا سلام ہو آپ پر لے مادرِ گرامی! پس کہا میں نے

وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا قَرَّةَ عَيْنِي وَ

اور تم پر بھی میرا سلام ہو لے میرے فرزند لے حنکے چشم اور

شَمْرَةَ فُوَادِي فَقَالَ لِي يَا أُمَّاهُ إِنِّي أَشْمُ

میرے میوہ دل پس عرض کیا امام حسینؑ نے لے اماں جان میں آپ کے

عِنْدَكَ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ كَأَنَّهَا رَائِحَةُ جَدِّي

پاس ایسی خوشبو سونگھ رہا ہوں کہ گویا وہ خوشبو میرے نانا جان

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقُلْتُ نَعَمْ

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے پس میں نے جواب دیا ہاں

إِنَّ جَدَّكَ وَأَخَاكَ تَحْتَ الْكِسَاءِ فَذَنِي

(لے میرے فرزند) تمہارے نانا جان اور تمہارے برادرِ محترم دونوں زیرِ چادر آرام کر رہے ہیں

الْحُسَيْنِ وَنَحْوِ الْكِسَاءِ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ

پس حسین علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور عرض کیا: سلام ہو آپ پر

يَا جَدَّاهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اخْتَارَهُ اللَّهُ

لے نانا جان سلام ہو آپ پر لے وہ بزرگ جن کو خدا نے منتخب کیا ہے

أَتَاذُنِي لِي أَنْ أَكُونَ مَعَكُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ

کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ دونوں بزرگوں کے لباسِ زیرِ چادر داخل ہوں

فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا شَافِعَ

آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے فرزند اے میری امت کی

أُمَّتِي قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ مَعَهُمَا تَحْتَ

شفاعت کرنے والے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں پس امام حسینؑ دونوں بزرگوں کے

الْكِسَاءِ فَأَقْبَلَ عِنْدَ ذَلِكَ أَبُوالْحَسَنِ

پاس زیر چادر داخل ہوئے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت ابوالحسن

عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ

علی ابن ابیطالب علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا: سلام ہو تم پر

يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ

اے رسول خدا کی بیٹی میں نے جواب دیا آپ پر بھی سلام ہو

يَا أَبَا الْحَسَنِ وَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ

اے ابوالحسن اور اے امیر المؤمنین امیر المؤمنین نے فرمایا

يَا فَاطِمَةَ إِنِّي أَشَمُّ عِنْدَكَ رَائِحَةً طَيِّبَةً

اے فاطمہ میں سونگھ رہا ہوں آپ کے پاس ایسی خوشبو

كَأَنَّهَا رَائِحَةُ أَخِي وَأَبْنِ عَمِّي رَسُولِ اللَّهِ

گویا وہ خوشبو میرے بھائی اور میرے ابن عم جناب رسول خدا کی ہے

فَقُلْتُ نَعْمَ هَا هُوَ مَعَ وَلَدِيكَ تَحْتَ

میں نے کہا: آپ آگاہ ہوں وہ جناب مع آپ کے دونوں فرزندوں کے آرام کر

الْكِسَاءِ فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ تَحَوُّالْكِسَاءِ وَقَالَ

لحم ہیں چادر کئے نیچے پس حضرت علیؑ متوجہ ہوئے چادر کی طرف اور عرض کیا :

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَأْذِنُ لِي

آپ پر اے رسول خدا سلام ہو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں

أَنْ أَكُونَ مَعَكُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ قَالَ لَهُ

کہ میں بھی آپ کے پاس زیر چادر حاضر ہو جاؤں فرمایا رسول اللہ نے

وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَخِي وَيَا وَصِيَّيْ وَخَلِيفَتِي

تم پر بھی سلام ہو اے میرے بھائی اور میرے وصی اور میرے خلیفہ

وَصَاحِبِ لِي وَآئِي قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ

اور میرے علم دار میں تمہیں چادر کے نیچے داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ پس

عَلِيٌّ تَحْتَ الْكِسَاءِ ثُمَّ أَتَيْتُ نَحْوَ الْكِسَاءِ

حضرت علیؑ چادر میں داخل ہوئے۔ بعد اسکے میں خود اس چادر کی طرف متوجہ ہوئی

وَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اور عرض کیا میں نے : سلام ہو آپ پر اے بابا جان اے رسول خدا !

أَتَأْذِنُ لِي أَنْ أَكُونَ مَعَكُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ

کیا آپ اجازت دیتے ہیں مجھے کہ میں بھی اس چادر میں آپ کے ساتھ داخل ہو جاؤں

قَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا بِنْتِي وَيَا بَضْعَتِي

رسول اللہ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو اے میری بیٹی اور میری پارہ جگر

قَدْ أَذِنْتُ لَكَ فَدْخَلْتَ تَحْتَ الْكِسَاءِ

میں تمہیں چادر میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں۔ پس میں آنحضرتؐ کے پاس زیر چادر

فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ اخذَ ابْنُ

داخل ہوئی۔ جب ہم سب اہلبیتؑ چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو میرے والدِ محترم

رَسُولُ اللَّهِ بِطَرَفِي الْكِسَاءِ وَأَوْمَعِي بِيَدِهِ

رسول خدا (صلی اللہ علیہ وآلہ) نے چادر کے دونوں کونے تھامے اور اپنے ہاتھ کو

الْيَمْنِي رَأَى السَّمَاءَ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ

آسمان کی طرف بلند کر کے گویا ہوئے: بار الہا! یہی ہیں فقط

أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي وَحَامَتِي لِحَبْلِهِمْ

میرے اہلبیتؑ اور میرے مخصوصین اور میرے حامی و مددگار جن کا گوشت

لِحَبِيٍّ وَدَمُهُمْ دَمِي يُؤَلِّمُنِي مَا يُؤَلِّمُهُمْ

میرا گوشت اور جن کا خون میرا خون ہے جنہوں نے انکو ازیت دی انہوں نے مجھے ازیت

وَيَحْزِنُنِي مَا يَحْزِنُهُمْ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ

دی جنہوں نے انہیں غمگین کیا انہوں نے مجھے غمگین کیا جس نے ان سے جنگ کی اس نے

حَارَبَهُمْ وَسَلِمٌ لِمَنْ سَأَلَهُمْ وَعَدُوٌّ

مجھ سے جنگ کی جس نے ان سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی جس نے ان سے دشمنی

لِمَنْ عَادَاهُمْ وَمُحِبٌّ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ

رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی جس نے ان کو دوست رکھا اس نے مجھ کو دوست رکھا

إِنَّهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ فَاجْعَلْ صَلَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ

غرض یہ سب مجھ سے ہیں اور میں ان سب سے پس خداوند! تو ان پر اور مجھ پر درود، برکتیں

وَرَحْمَتِكَ وَغُفْرَانِكَ وَرِضْوَانِكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ

اور رحمت نازل فرما اور ان کو اور مجھ کو اپنے دامنِ کرم میں جگہ دے تو ہم سے راضی رہ

وَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا

اور ان سے ہر رجس آلودگی کو دور کر اور ان کو پاک رکھ اتنا کہ جتنا پاک رکھنے کا حق ہے

فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَا مَلَأْكَتِي وَيَا سَكَّانَ

پس خدائے عزوجل نے فرمایا: اے میرے ملائکہ اور رہنے والے

سَمَوَاتِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَةً

میرے آسمانوں کے نہیں پیدا کیا میں نے آسمان کو جو بنا یا گیا

وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَّةً وَلَا قَمَرًا مَنِيرًا وَلَا شَمْسًا

اور نہ زمین کو جو بچھائی گئی اور نہ مہتاب نورانی کو اور نہ آفتاب

مُضِيْعَةً وَلَا فَلَكَائِدُورًا وَلَا بَحْرًا يَجْرِي

روشن کو اور نہ اس فلک کو جو دورہ کرتا ہے اور نہ دریائے جاری کو

وَلَا فَلَكَائِسْرِي إِلَّا فِي مَحَبَّةٍ هَوَّلَاءِ

اور نہ کشتی کو جو دریا میں چلتی ہے مگر محبت میں ان پانچوں بزرگوں کی

الْخَمْسَةِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءِ فَقَالَ

جو زبیر چادر ہیں پس عرض کیا

الْأَمِينُ جِبْرَائِيلُ يَا رَبِّ وَمَنْ تَحْتِ الْكِسَاءِ

جبرائیل امین علیہ السلام نے اے پروردگار عالم وہ کون بزرگوار ہیں جو زیر چادر ہیں

فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ هُمْ أَهْلُ بَيْتِ النَّبُوَّةِ وَ

خدا نے صاحب عزت و جلال نے فرمایا: وہ اہل بیت نبوت اور

مَعْدِنُ الرِّسَالَةِ هُمْ فَاطِمَةُ وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا

معدن رسالت ہیں وہ فاطمہ زہرا ہیں ان کے پدر بزرگوار ہیں انکے شوہر زہرا

وَبَنُوهَا فَقَالَ جِبْرَائِيلُ يَا رَبِّ أَتَأْذِنُ

ہیں اور دونوں فرزند ہیں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار مجھے اجازت

لِي أَنْ أَهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ لِأَكُونُ مَعَهُمْ

دے کہ میں زمین پر جا کر ان حضرات کے ساتھ چھٹا شخص زیر چادر ہو

سَادِسًا فَقَالَ اللَّهُ نَعَمْ قَدْ أَذِنْتُ لَكَ

جاؤں فرمایا خدا نے تم کو اجازت دی

فَهَبَطَ الْأَمِينُ جِبْرَائِيلُ وَقَالَ السَّلَامُ

پس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا: سلام ہو

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى يَقْرَأُكَ

آپ پر یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وآلہ خدا نے علی و اعلیٰ آپ کو سلام

السَّلَامُ وَيَخُصُّكَ بِالتَّحِيَّةِ وَالْإِكْرَامِ

فرماتا ہے اور خاص فرماتا ہے آپ کو تحیہ و اکرام کے ساتھ

وَيَقُولُ لَكَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا

اور آپ سے فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلال کی میں ہرگز

خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَةً وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَّةً

پیدا نہ کرتا آسمان کو جو بنایا گیا ہے اور نہ زمین کو جو بچھائی گئی ہے

وَلَا قَمَرًا مَنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيئَةً وَلَا

اور نہ مہتاب نورانی کو اور نہ آفتاب روشن کو اور نہ

فَلَكَائِدُورًا وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلُكًا

فلک کو جو دورہ کرتا ہے اور نہ دریائے جاری کو اور نہ کشتی کو جو

يَسْرِي إِلَّا لِاجْلِكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ وَقَدْ أِذِنَ

دریا میں چلتی ہے مگر آپ حضرات کے سبب اور آپ کی محبت کے باعث اور اجازت

لِي أَنْ أَدْخُلَ مَعَكُمْ فَهَلْ تَأْذِنُ لِي

دی ہے مجھے خدانے کہ میں آپ کے ساتھ زیر چادر داخل ہوں، پس کیا آپ بھی مجھ کو

يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَلَيْكَ

اجازت دیتے ہیں اے رسول خدا فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: تم پر بھی

السَّلَامُ يَا أَمِينَ وَحِيَّ اللَّهُ إِنَّهُ نَعْمَ قَدْ

سلام ہو اے اللہ کی وحی کے امین! میں تم کو

أَذِنْتُ لَكَ فَدَخَلَ جِبْرَائِيلُ مَعَنَا تَحْتَ

اجازت دیتا ہوں پس حضرت جبرائیل علیہ السلام چادر کے نیچے داخل ہوئے

الْكِسَاءِ فَقَالَ لِأَبِي إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْحَى

اور میرے بابا جان سے عرض کیا کہ خدائے عزوجل نے وحی فرمائی ہے

لِيَكُمُ يَقُولُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ

آپ حضرات کی طرف وہ فرماتا ہے: سوائے اس کے نہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ دور

عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ

رکھے آپ حضرات اہل بیت علیہم السلام سے نجاست کو اور آپ کو پاک رکھے

تَطْهِيرًا فَقَالَ عَلِيُّ لِأَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ پس عرض کیا حضرت علیؑ نے یا رسول اللہ!

أَخْبِرْنِي مَا لِي جُلُوسِنَا هَذَا تَحْتَ الْكِسَاءِ

فرمائیے مجھ سے اس امر کو جو ہم سب کے بیٹھنے سے اس چادر میں

مِنَ الْفَضْلِ عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ وَالَّذِي

خدائے تعالیٰ کے نزدیک فضیلت حاصل ہے پس فرمایا نبی کریمؐ نے قسم اس خدا کی

بِعَشْرِي بِالْحَقِّ نَبِيًّا وَاصْطَفَانِي بِالرِّسَالَةِ

جس نے مبعوث کیا مجھے برحق نبی بنا کر نیز برگزیدہ فرمایا مجھ کو رسالت کے ساتھ اور

نَجِيًّا مَا ذَكَرَ خَبَرْنَا هَذَا فِي مَحْفَلٍ مِّنْ

نجابت و ہندہ قرار دیا جہاں ذکر کی جائے گی یہ حدیث ہماری کسی محفل میں

مَحَافِلِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَفِيهِ جَمْعٌ مِّنْ

محفلوں سے اہل زمین کی دران حالیکہ اس محفل میں جمع ہو ایک جماعت

شِيعَتِنَا وَمُحِبِّينَا اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ

ہمارے شیعوں اور دوستوں کی ان پر نازل ہوگی رحمتِ خدا کی

وَحَقَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ

اور ملائکہ ان کو گھیر لیں گے اور ان کے لئے طلبِ مغفرت کریں گے

اِلَىٰ اَنْ يَّتَفَرَّقُوْا فَقَالَ عَلِيٌّ ۚ اِذَا

یہا تک کہ وہ سب متفرق ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت علیؑ نے فرمایا پھر تو

وَاللّٰهِ فُرْنَا وَفَا زِ شِيعَتِنَا وَرَبِّ الْكُعْبَةِ

خدا کی قسم ہم کامیاب کامران ہوئے اور ہمارے شیعہ بھی ربِّ خانہ کعبہ

فَقَالَ النَّبِيُّ ثَانِيًا: يَا عَلِيُّ وَالَّذِي بَعَثَنِي

پس فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے: اے علی! قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے

بِالْحَقِّ نَبِيًّا وَاَصْطَفَانِيْ بِالرِّسَالَةِ نَجِيًّا

بحق نبی مبعوث کیا اور مجھ کو رسالت کے ساتھ برگزیدہ فرمایا

مَا ذُكِرَ خَبْرُنَا هَذَا فِي مَحْفَلٍ مِّنْ مَّحَافِلٍ

جب بیان کی جائے گی یہ حدیث کسی محفل میں اہل زمین کی محفلوں

اَهْلِ الْاَرْضِ وَفِيهِ جَمْعٌ مِّنْ شِيعَتِنَا

میں سے جہاں کہ جمع ہوں ہمارے شیعہ

وَمُحِبِّينَا وَفِيْهِمْ مَّهْمُوْمٌ اِلَّا وَفَرَجٌ

اور ہمارے دوست پس ان میں جو بخیہ اور ملول ہوگا

اللَّهُ هَمَّهُ وَلَا مَغْمُومٌ إِلَّا وَكَشَفَ اللَّهُ

خداوند عالم ضرور اس کے رنج و الم کو دور کرے گا

غَمَّهُ وَلَا طَالِبٌ حَاجَةٌ إِلَّا وَقَضَى اللَّهُ

اور جو کوئی طلب کرنے والا حاجت کا ہوگا حق تعالیٰ اس کی حاجت کو

حَاجَتَهُ فَقَالَ عَلِيُّؑ : إِذَا وَاللَّهِ فُرْنَا

ضرور پوری کرے گا یہ سن کر حضرت علیؑ نے فرمایا: قسم بخدا ہم اہلبیتؑ

وَسَعِدْنَا وَكَذَلِكَ شِيعَتُنَا فَازُوا وَسَعِدُوا

فائز اور سعید ہوئے اور اسی طرح ہمارے شیعہ فائز اور سعید ہوئے

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَرَبِّ الكَعْبَةِ ۝

دنیا اور آخرت میں کعبہ کے پروردگار کے کرم سے

أَمَّنُ يُجِيبُ كَأَمَلٍ

حسب ذیل آیت مصیبت کے دور کرنے میں زود اثر ہے۔

ایک جلسہ میں ۱۲ ہزار مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی نہ پڑھ سکے تو

متعدد افراد مل کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کے پڑھنے کے بعد دو رکعت

نماز ادا کر کے حدیث کسا پڑھی جائے۔

أَمَّنُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

ایا اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جو بیکار جانے پر بیکار و مضطر کی بیکار سنتا ہے اور اسکا دکھ دور کر دیتا ہے

مُشْتَرِكُ دُعَائِينَ

چھ مبارک آیتوں کی تفصیل

کتابِ دلائل سے منقول ہے کہ محمد بن حسن الشریف کو کچھ رنج و غم رونما ہوئے اور بادشاہ سے کچھ خطرہ پیدا ہوا۔ ایک رات انہوں نے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور ان سے اپنی حاجت بیان کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا: یہ چھ آیتیں ہر مشکل کے وقت پڑھو۔ خدا تمہیں عزت دے گا اور تمہارے تمام کاروبار دنیا و آخرت میں مدد کرے گا۔ قرضدار پڑھے تو قرض ادا ہو جائے، قیدی پڑھے تو رہائی پا جائے۔

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ

پہلی آیت

وَهُمْ يَسْتَجِيبُونَ لَهَا بِقَوْلٍ حَقٍّ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ○

تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ جانے والے ہیں

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ

ان لوگوں پر ان کے پروردگار کی عنایتیں اور رحمتیں ہیں

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ○

اور وہی لوگ ہدایت پا چکے ہیں

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ

وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا

دوسری آیت

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

کہ دشمن تمہارے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کر چکے ہیں لہذا ان سے ڈرو تو (خوفزدہ

فرزادہم ايمانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ

ہونے کی بجائے) ان کا ایمان اور زیادہ ہوگا اور کہنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہت

الْوَكِيلُ ۝ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ آلِهِمْ

پہنچا کارساز ہے یہ لوگ اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ واپس آئے

لَمْ يَمَسَّ لَهُمْ سُوءٌ وَأَتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ

انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور وہ خدا کی خوشنودی کے پابند رہے

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ۝

اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ (آل عمران)

وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا

اور ذوالنون (یونسؑ) جب غصہ میں آکر چلے تو

تیسری آیت

فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ

انہوں نے سمجھا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں گے تو انہوں نے اندھیروں میں پکارا

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ

کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بیشک میں

مِنَ الظَّالِمِينَ ○ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ

کو تباہی کرنے والوں میں تھا پس ہم نے اس کی دُعا سنی اور اسے نجات دے دی

مِنَ الغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ○

غم سے اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں

چوتھی آیت

وَإِيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي

اور ایوبؑ جب انھوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ

مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ○

مجھے دکھ پہنچ رہا ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ

تو ہم نے اُن کی دُعا قبول کی اور جو دکھ انھیں تھا وہ دور کر دیا اور ہم نے عطا کیے ان کو

أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

اُن کے گھروالے اور اتنے ہی اور ان کے ساتھ رحمت ہماری طرف سے

وَذِكْرَى لِّلْعَابِدِينَ ○

اور نصیحت ہے عبادت کرنے والوں کو

پانچویں آیت

وَإِفْوَضُ امْرَأَتِي إِلَى اللَّهِ ط

اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں

إِنَّ اللَّهَ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ○ فَوَقَّهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ

بلاشبہ اللہ بندوں کی تدبیروں

بھرا اللہ نے ان (دشمنوں) کی تدبیروں

مَا مَكَرُوا وَوَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ

کے نقصان اسے بچالیا اور آل فرعون کو سخت عذاب نے گھیر لیا

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا

چھٹی آیت

اور وہ لوگ جب کوئی بُرا کام کر بیٹھتے

فَأَحْشَهُ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ

ہیں یا اپنے اوپر ظلم کر گزرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے

فَاسْتَغْفِرُوا وَإِلَٰذِنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ

اور اپنے گناہوں سے مغفرت چاہتے ہیں اور اللہ کے سوا گناہ کون

إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ

بخش سکتا ہے اور جان بوجھ کر اپنے کیے ہوئے گناہ پر اصرار نہیں کرتے

يَعْلَمُونَ ۝ أُولَٰئِكَ جَزَاءُ هُم مَّغْفِرَةٌ مِّن

ان لوگوں کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے

رَبِّهِمْ وَجَدَّتْ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

مغفرت ہے اور وہ باغات جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی

خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝

وہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور عمل کرنے والوں کا عوض بہت اچھا ہے۔

چھ مزید آیات شریفہ

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص روزانہ صبح سویرے یہ چھ آیتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اسے ہر شے سے محفوظ رکھے گا۔ خواہ وہ خود اپنی جان کے درپے ہو۔ وہ آیات شریفہ یہ ہیں۔

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا

پہلی آیت

کہہ دو ہم کو ہرگز نہ پہنچے گا مگر وہی

كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ

جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہی ہمارا مالک ہے اور مومن تو اللہ پر ہی

فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

بھروسہ کرتے ہیں

وَأَنْ يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ

دوسری آیت

اور اگر اللہ کی طرز سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے

فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَأَنْ يُرِدَكَ بِخَيْرٍ

تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا اس کے سوا اور اگر وہ تم سے بھلائی کا ارادہ کرے

فَلَا سَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ

تو اس کے فضل کو کوئی بھی پٹا نہیں سکتا وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فائدہ

عِبَادِهِ ۞ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞

پہنچائے اور وہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ

اور زمین پر کوئی چلنے والا (جاندار) ایسا نہیں

تیسری آیت

الَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا

جس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے وہ ہر جاندار کا مکان قیام

وَمُسْتَوْدَعَهَا ۞ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۞

اور اسکی آرامگاہ جانتا ہے ہر چیز روشن کتاب میں موجود ہے

وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ

اور کتنے ہی زمین پر چلنے والے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے

چوتھی آیت

رِزْقَهَا ۞ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۞ وَهُوَ

نہیں پھرتے اللہ انہیں روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی اور وہ بہت

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞

سننے والا بہت جانتے والا ہے

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ

اللہ تعالیٰ جو رحم و کرم لوگوں کے لیے عام

پانچویں آیت

مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۞ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا

کدے لے کوئی روک نہیں سکتا اور جو انعام وہ روک لے

مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ ۞ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

تو پھر اسے اس کے سوا کوئی بھیجنے والا نہیں اور وہی قوت و حکمت والا ہے

چھٹی آیت

قُلْ اَفْرءِ يَتِمُّ مَا تَدْعُوْنَ

کہہ دو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ جنہیں

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِي اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ

تم پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو وہ (جھوٹے

هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهٖ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ

دیتا) اس کے نقصان کو دور کر سکیں گے یا وہ (اللہ) مجھ پر رحم کرنا چاہے

هَلْ هُنَّ مُّسِيْكَاتُ رَحْمَتِهٖ ۞ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ

تو کیا وہ (دیتا) اس کی غنایتوں کو روک سکیں گے کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے

عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ۝ حَسْبِيَ اللّٰهُ

اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے

لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہ

الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۞ وَاَمْتَنِعْ بِحَوْلِ اللّٰهِ

عرش عظیم کا مالک ہے اور میں اللہ کی قوت و طاقت

وَقُوَّتِهٖ مِنْ حَوْلِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ وَاَسْتَشْفِعُ

کے ذریعے ان دشمنوں کی قوت و طاقت کے ذریعے پتجا ہوں اور درخواست کرتا ہوں

بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَأَعُوذُ

شکافتہ کرنے والے پروردگار سے کہ وہ ہر مخلوق کے شر سے بچائے اور میں

بِمَا شَاءَ اللَّهُ لِأَحْوَالٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

”ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم“ کی برکت سے

الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ○

ہر برائی سے بچنا چاہتا ہوں

وَعَائِ حِرْزِ

روایت میں آیا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ و زانہ یہ دعا پڑھے تو تمام دنیا دشمنی کرے

کوئی آسیب و ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ بدگوئی کرنے والوں کی زبان بندی ہوگی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رحمن و رحیم اللہ کے نام سے

اللَّهُمَّ شَدِّتْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ

یا اللہ! ان کا مجمع منتشر کر دے ان کا اتحاد پارہ پارہ کر دے

وَقَلِّبْ تَدْبِيرَهُمْ وَبَدِّلْ أَحْوَالَهُمْ

ان کی تدبیریں اُلٹ دے ان کی حالت غیر کر دے

وَقَرِّبْ أَجَالَهُمْ وَأَشْغَلْهُمْ بِأَبْدَانِهِمْ

ان کی موت قریب کر دے انھیں ان کے تن بدن میں اُلجھا دے

وَخَرَّبَ بُنْيَانَهُمْ وَسَوَّدَ وُجُوهُهُمْ

ان کی عمارتیں برباد کر دے ان کے منہ کالے کر دے

وَبَيَّضَ عْيُونَهُمْ وَنَكَّسَ أَعْلَامَهُمْ

ان کی آنکھیں سفید (بے نور) کر دے ان کے جھنڈے رگڑا دے

وَأَغْرَقَهُمْ كَأَغْرَاقِ فِرْعَوْنَ وَأَهْلِكَهُمْ

انہیں فرعون کی طرح غرق کر دے انہیں

كَأَهْلَاكِ شَدَادٍ وَخَذِبِ أَفْوَاهِهِمْ

شداد کی طرح ہلاک کر دے ان کے منہ یوں پکڑ لے جس طرح

أَخَذَ عَزِيزٌ مُّقْتَدِرٌ يَا جَبَّارُ جَبْرٌ عَلَيْهِمْ

باقتدار اور قوت والا گرفت میں لیتا ہے لے جبار! ان پر سختی فرما

يَخَافُونَ فِي بَعْثِهِمْ يَخَافُونَ كُلَّ كَلَامِكَ

وہ میرے عہد سے ڈریں وہ تیرے ہر کلام سے ڈریں

وَعَقَّدْتُكُمْ وَقَيْدْتُكُمْ بِكُلِّ كِتَابٍ

اور میں نے تمہیں باندھ دیا میں نے تم کو قید کر دیا اللہ عزوجل کی

أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

طریق نبیوں اور رسولوں پر نازل کردہ ہر کتاب کے ذریعے

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

تجھے پوری رحمت کا واسطہ لے سب رحم کرنے والوں سے تجھے رحم کرنے والے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

مُنَاجَاةٌ

الہی! بے عزتِ آن پہنچتے

کہ ہستند فخرِ زمین و زمن

خداوند! ان پہنچتے کی عزت کا صدقہ جو زمین و زمان کے لیے بخشے ہیں

بجق تو اے داورِ آب و خاک

بداں چاروہ نامِ معصومِ پاک

اے پانی اور زمین کے مالک! ان چودہ معصوموں کے پاک ناموں کے حق سے

بنورِ محمدؐ چراغِ رسل

سیرِ سراں سیرِ باغِ سبل

رسولوں کے چراغ اور راہِ حق کے سرداروں کے سردار محمد مصطفیٰ کے نور کا واسطہ

بہ گلدستہٴ روضۃٴ انبیا

بہ سُر و خرامیۃٴ لافتی

چمنِ رانما و لیت کم اللہ کے گلدستے اور ”لافتیِ الاعلیٰ“ کے سُر و خراماں

عَلِیٌّ و لٰی شَیْرَہٗ پَرُوْرَدِگَا

پہدارِ دینِ شاہِ دلِ سوار

اللہ کے شیر، شاہِ دلِ سوار رسول اللہ کے سپہ سالار عیسیٰ دلی کا صدقہ

بہ خاتونِ جنت کہ خیر القساہت

کہ جنتِ محبتِ ان اُو ر اُو است

خاتونِ جنت کا صدقہ جو عورتوں میں سب سے بہتر ہیں اور ان کے دوستوں کو جنت مباح ہے

کہ خلقِ حَسَنٌ افتخارِ زَمَن	کہ خلقش حَسَنٌ بُود و نامش حَسَنٌ
بہ سجادہٴ زینتِ العابدین	یہ باقتِ شناسائے علمِ ایتقین
عابدوں کی زینتِ جانماز کا صدقہ ، علمِ ایتقین کے جاننے والے امامِ محمد باقر کا صدقہ	بہ جعفرِ گلِ روضہٴ اصطفیٰ
چمنِ انتخاب کے گلاب جن کے وجود سے صبحِ صادق نے نور و صفایابی ، جعفر صادق کا صدقہ	بہ موسیٰ کاظمؑ بحالاتِ اُو
امامِ موسیٰ کاظمؑ اور ان کے حالات ، ان کے تقربِ اذراں کی پاکیزہ گفتگو کا صدقہ	بہ سلطانِ علی ابنِ موسیٰ رضاؑ
سلطانِ عربِ عجم ، علی ابنِ موسیٰ رضاؑ ، خراسان کے شہیدِ زہرِ ظلم کا صدقہ	بہ شمعِ شبستانِ اہلِ یقین
اہلِ یقین (مومنین) کے ایوانِ عبادت کی شمع ، متقیوں کے قائدِ امامِ علی نقی کا صدقہ	بہ بزرگِ محمدؑ کہ نامش تقی است
امامِ محمد کے زہد کا صدقہ جن کا نام تقی مشہور ہوا ، وہ اپنے آباءِ اجداد کی طرح دین کے متقی تھے	بہ بانِ گلبنِ روضہٴ سرفری
بانِ سرورِ دو عالم کے نونہال جو بوجہِ حسنِ عسکری ہیں ، ان کا صدقہ	کہ آبد بوجہِ حَسَنِ عَسْکَرِی

بہ ہمدی ہادی امام انام	عَلَيْهِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ السَّلَام
امام بنی آدم حضرت ہمدی ہادی کا صدقہ ، آپ پر درود و سلام ہوں	
کہ در دین دنیا مرا چند کار	بر آری بفضل خود کے کردگار
دین و دنیا میں میری چند حاجات ہیں اے پروردگار اپنے فضل و کرم سے پوری کر دے	
بر آری خداوند اسرارِ من	بداں چارہ چارہ کارِ من
اے میرے دل کی باتوں کو جاننے والے ، چودہ معصوموں کا صدقہ میرے چودہ کام کر دے	
یکے حاجتِ منمانی بکس	بر آرنده آں تو باشی و بس
ایک تو مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا ، میری حاجت بس تو ہی پوری کرنا	
دوم روزیم راز جائے رساں	کہ منت نباید کشید از کساں
دوسرے مجھے دن روزی دین کہ میں کسی انسان کا احسان مند نہ ہوں	
سوم چوں بمرگم اشارت دہی	بمن لا تخافوا بشارت دہی
تیسرے جب مجھے موت کا حکم ہو تو لا تخافوا (ڈرو نہیں) کی بشارت دینا	
چہارم چہ نام سپاری بخاک	کہ زالودگی دامنم گشتہ پاک
چوتھے جب مجھے قبر میں دفن کیا جائے تو آلودگی اور گناہوں سے میرا دامن پاک ہو	
پنجم چو تن بگسلاند کفن	رساںم تنم را بداں پنجتن
پانچویں جب میرا جسم کفن میں لپیٹا جائے تو مجھے پنجتن کے حضور میں پہنچانا	
ششم آں کہ روم ز شرم گناہ	بمیدان محشر نسازی سیاہ
ششم گناہوں کی شرمندگی سے مجھے میدانِ محشر میں رو سیاہ نہ کرنا	

بہ ہفتہ بہ نیکوتری حال من	بسجی ترازوئے اعمال من
ساتویں، میرے حال اور میرے اعمال کو ترازو میں ذرا نرمی سے تولنا	
بہ ہشتم بہنگام بیس فرغ	زباں را نسید کشودن جزع
آٹھویں، خوف و خطر کے وقت میری زبان جزع فرغ میں نہ کھلے	
نہم آنکہ آن نامہ ہائے درشت	بدست چیم ناید از سوائے پشت
نویں، میرا خراب نامہ اعمال پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نہ دینا	
دہم آن کہ در سیر بالائے پل	بگردن نباشد مرا بند و غل
دسویں، جب پل صراط پر چلنا ہو تو میری گردن میں طوق و زنجیر نہ ہو	
دو ویک چو آتش زبا نہ کشد	مرا لطف تو بر کرانہ کشد
گیارہویں، جب جہنمی آگ شعلہ فشاں ہو تو تیرا لطف احسان مجھے اس سے دور رکھے	
دو و دوست درہا و خرم بہشت	نہ بند و بر من باعمال نہشت
بارھویں دعا یہ ہے کہ جنت کے دروازے میری بد اعمالی کی وجہ سے مجھ پر بند نہ کیجے جائیں	
دو و سہ چو سرعت بود در حساب	کنی بر من آساں سوال و جواب
تیرھویں یہ کہ جب حساب میں جلدی ہو رہی ہو اس وقت میرے سوال جواب میں آسانی کرنا	
دو و چار می آنکہ بے ماجرا	بہ بخشش بدال چارہ تن مرا
چودھویں یہ کہ قیامت کے دن چودہ معصوموں کے صدقہ میں مجھے حساب لیے بغیر معاف کر دے	
چو بر اسپ چوبیں سوارم کنند	حوالہ بچناک مزارم کنند
جب مجھے تابوت میں رکھ کر لائیں اور قبر زمین کے حوالے کر دیں	

چو منکر نظر سوائے عالم کند	ز حال گزشتہ سوالم کند
جب منکر تکمیر میری حالت کو دیکھیں اور میرے گزشتہ اعمال کے بارے میں سوال کریں	
درآں دم بیام دهی پنجتن	نبی و علی و حسین و حسن
اس وقت مجھے پنجتن کی یاد آئے اور نبی و علی، حسن و حسین،	
دگر مادر معشر المؤمنین	پناہ بزرگان دنیا و دین
(پانچویں) مومنین کی والدہ حضرت فاطمہؑ جو دین و دنیا کے اماموں کی پناہ گاہ ہیں	
بہ آب عنایت گناہم بشوئے	مریزاں سیدہ کاسہ را آبروئے
اپنی بارش عنایت سے میرے گناہ دھوئے اور اس گد سیدہ کی آبرو ضائع نہ کرنا	
کنوں آدم کیسہ پرداختہ	ہمہ سود و سرمایہ در باختہ
اب میں خالی جیب، تمام سرمایہ برباد کر کے حاضر ہو رہا ہوں	
ہزاراں درود و ہزاراں سلام	زما بر محمد علیہ السلام
میری طرف سے ہزاروں درود اور ہزاروں سلام ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر	
ہزاراں درود و ہزاراں ہزار	زما باد بر صاحب ذوالفقار
ہزاروں لاکھوں درود ہوں حضرت صاحب ذوالفقار علیہ السلام پر	
ہزاراں درود و ہزاراں دگر	زما باد بر دخت خیر البشر
ہزار درہنہ دار درود ہوں حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام دختر خیر البشر پر	
الہی! الہی! خطا کردہ ایم	تو بر ما گیر آنچہ ما کردہ ایم
یا اللہ! میں خطا کار ہوں، میرے اعمال بد پر گرفت نہ کرنا	

گنہ گارم و عذرخواہم توئی | چہ حاجت پسرش گواہم توئی

گنہ گار ہوں اور تجھ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھ سے باز پرس کی ضرورت ہی کیا ہے تو خود میرا گواہ ہے

گنہ گار نیچارہ ابن حسام | ز لطف تو امید دارد تمام

یہ بے چارہ ابن حسام فقط تیرے لطف کا امیدوار ہے

گنہ گار نیچارہ خادم حسین | ندارد شفیع بغیر از حسین

گنہ گار اور لاچار خادم حسین کا امام حسین کے علاوہ کوئی شفیع نہیں ہے

نام کتاب : ذریعۃ النجات

مترجمین : سید مرتضیٰ حسین و شیخ شوکت علی نسیم

ناشر : زیڈ پی ایم (پرائیویٹ) لمیٹڈ

طبع : ٹار آرٹ پریس (پرائیویٹ) لمیٹڈ لاہور

کتابت : کاظم حسینی

اشاعت : بارششم 2006ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بے نام خداوند بخشنده مهربان -

يَا سَيِّدُ يَا سَنَدُنَا يَا صَدُ يَا مَنْ لَهُ

اے آقا اے تکیہ و پناہ ما اے بے نیاز اے کے کے

الْمُسْتَنْدُ اجْعَلْ لِي فَرْجًا وَمَخْرَجًا مِمَّا

مخصوص او است تکیہ کردن و پناہ اور دن تیار ہو برائے من کشائے درباری

أَنَا وَاكْفِنِي فِيهِ وَأَعُوذُ بِكَ بِسْمِ

و نجات از آنچه کہ من در اتم و پناہ سے برم بے تو

اللَّهِ التَّامَّاتِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ

اے خدا اے پروردگار اے آفریدگار

يَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا خَالِقُ

اے بخشنده اے بخشنده اے بخشنده اے مهربان اے آفرینده

يَا رَازِقُ يَا بَارِئُ يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ

اے روزی رسان یا خلق کنندہ اے ابتدا دے انتہا اے آشکار و

يَا بَاطِنُ يَا مَالِكُ يَا قَادِرُ يَا وَاهِبُ

اے پنهان اے فرمانروا اے توانا اے بخشش گر

يَا وَهَّابُ يَا تَوَّابُ يَا حَكِيمُ يَا سَمِيعُ

اے بخشنده اے توبہ پذیر اے دانا اے شنوا

يَا بَصِيرُ يَا غَفُورُ يَا رَحِيمُ يَا غَافِرُ يَا شَكُورُ

اے بینا اے امرزندہ و پوشاندہ گناہ اے مہربان اے امرزندہ اے پاداش دہندہ

يَا عَالِمُ يَا عَادِلُ يَا كَرِيمُ يَا رَحِيمُ يَا وَدُودُ

روزی رسان اے دانا اے عادل اے بزرگوار اے مہربان اے بسیار دوست داشتنی

يَا غَفُورُ يَا رَوْفُ يَا وَثْرُ يَا مُغِيثُ يَا مُجِيبُ

اے امرزندہ و پوشاندہ گناہ اے مہربان اے یگانہ اے فریادرس اے اجابت کنندہ

يَا حَبِيبُ يَا مُنِيبُ يَا رَقِيبُ يَا مُعِيدُ يَا حَافِظُ

اے دوست داشتنی اے منیب اے نگہبان نگہداری کنندہ اے کاروان دانا اے حفظ کنندہ

يَا قَابِضُ يَا حَيُّ يَا مَالِكُ يَا بَاعِثُ يَا وَارِثُ

اے چیرہ شونده اے زندہ اے فرمانروا اے برانگیزندہ اے وارث خلافت

يَا رَحِيمُ يَا رَاحِمُ يَا فَاتِحُ يَا فَارِجُ يَا فَاحِرُ

اے مہربان اے رحم کنندہ اے پیروزمند اے کشائندہ اے نیک داورشمند

يَا مُعِزُّ يَا مُذِلُّ يَا مُعِينُ يَا مُبِينُ يَا جَدِيلُ

اے عزت دہندہ اے ذلیل کنندہ اے یاری دہندہ اے آشکارا اے شکوہ مند

يَا جَبِيلُ يَا كَفِيلُ يَا وَكِيلُ يَا دَلِيلُ يَا حَيُّ

اے زیبا اے کفالت کنندہ اے وکیل اے رہنما اے زندہ

يَا قَيُّوْمُ يَا جَبَّارُ يَا غَفَّارُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ

اے پایندہ اے مسلط اے امرزندہ اے بسیار مہربان اے منت دہندہ

يَا دَيَّانُ يَا غُفْرَانَ يَا بُرْهَانَ يَا سُبْحَانَ يَا

اے قرض دہندہ اے بخشنده اے نشانہ و دلیل اے شگفتہ انگیز اے

مُسْتَعَانَ يَا سُلْطَانَ يَا آمِينَ يَا مُؤْمِنُ

ملک دہندہ اے پادشاہ اے مطمئن و امین اے مومن

يَا مُتَكَبِّرُ يَا شَكُورُ يَا عَزِيزُ يَا عَلِيُّ يَا وَفِيُّ

اے مسط و جبیرہ اے پاداش روزی دہندہ اے عزیز و گرامی اے بلند مرتبہ اے پاک و

يَا زَكِيُّ يَا قَوِيُّ يَا غَنِيُّ يَا مُحِقُّ يَا مُعْطِيُّ

منزہ اے قدرت مند اے بے نیاز اے حق (حقیقت گر) اے عطا کنندہ

يَا آخِرُ يَا أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ يَا خَيْرَ

بخشنده اے انتہا اے بہترین افرینندہ اے اے برترین

الرَّازِقِينَ يَا خَيْرَ الْغَافِرِينَ يَا خَيْرَ

روزی دہندہ اے والا ترین امر زندگان اے برترین

الْمُحْسِنِينَ يَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ يَا أَرْحَمَ

نیکی کاران اے والا ترین ملک کنندگان اے مہربان ترین

الرَّاحِمِينَ يَا نُورَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

مہربانان اے روشنائی آسمانها و زمین

يَا هَادِيَ الْمَضِلِّينَ يَا دَلِيلَ الْمُتَحِيرِينَ

اے ہدایت کنندہ گمراہان اے رہنمائی سرگردانان

يَا خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ يَا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

اے آفرینندہ ہر چیز اے آفرینندہ آسمانها و زمین

يَا هَادِيَ الْمَضِلِّينَ يَا مُفْتِحَ الْأَبْوَابِ يَا

اے ہدایت کنندہ گمراہان اے کشائندہ درہما اے

مُسَبِّبِ الْأَسْبَابِ يَا رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ يَا

باعثِ انجَامِ کارہا اے بالا بزنده رتبہ و منزلت اے

مُجِيبِ الدَّعَوَاتِ يَا وَليَّ الْحَسَنَاتِ يَا غَافِرُ

اجابت کنندہ دعایا اے دوستدار نیکی ہا اے امرزندہ

الْخَطِيئَاتِ يَا مُحْيِي الْأَمْوَاتِ يَا ضَاعِفُ

لغزشها و خطا ہا اے زندہ کنندہ مُردگان اے دو جہاں کنندہ

الْحَسَنَاتِ يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ اللَّهُمَّ احْفَظْ

نیکی ہا اے دفع کنندہ ہلا ہا خداوند اے حفظ کن

صَاحِبَ هَذَا الدُّعَاءِ مِنَ الطَّاعُونَ وَالزَّلْزَلَةِ

صاحب این دعا را از طاعون و زلزله

وَالْفُجَاءَةِ وَالْوَبَاءِ وَمِنْ شَرِّ السُّلْطَانِ الْجَابِرِ

و مرگ ناگہانی و وباء و سل و از شر پادشاہ ستمگر

وَشَرِّ الْعَيْنِ السُّوِّءِ وَمِنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ وَمِنْ

و شر چشم بد و از شر دشمنان و از

شَرِّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ

شر جن و انس بہ حق کہے کہ نیست خدائی جز او زندہ

الْقَيُّومُ بِحَقِّ كَهَيْعَتِمْ وَبِحَقِّ حَمِصَتِهِمْ وَ

پائندہ بہ حق کیسےص و بہ حق جمعہص و

بِحَقِّ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَبِحَقِّ عَلِيِّ الْمُرْتَضَى

بہ حق محمد برگزیدہ خداوند و بہ حق علی مرتضیٰ

وَالْأئِمَّةِ الْهُدَى وَبِحَقِّ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ

د پیشوایان ہدایت و بہ حق کتابہا و شرایح آسمانی و قلم

وَالْكُرْسِيِّ وَالْعَرْشِ وَبِحَقِّ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ

و قدرت الہی و عرش و بہ حق پس کفایت مے کند انہما را خداوند

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُمَّ احْفَظْ صَاحِبَ

و او شنوا و دانا است بار خدایا حفظ کن صاحب این

هَذَا الدُّعَاءِ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ وَمِنْ

این دعا را و از شر ہمہ موجودات شرور و از

شَرِّ طَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ وَالِدِ

شر پیش آمدہے ناگوار شبانہ و روزانہ و از شر ہمہ موجودات

وَمَا وَلَدٍ وَمِنْ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَيَخْرُجُ

شور و از شر ہر جنبندہ اے داخل مے شود در زمین و خارج مے شود

مِنْهَا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ احْفَظْ

از آن و او امر زندہ مسدہاں است بار خدایا حفظ کن

صَاحِبَ هَذَا الدُّعَاءِ مِنْ شَرِّ الْأَعْدَاءِ وَ

صاحب این دُعَا یا از شر دشمنان و

مِنْ شَرِّ جَمِيعِ الْمِحْنَةِ وَالذَّاءِ وَمِنْ شَرِّ

از شر تمام محنت و بیماری و از شر

النَّفْسِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا

دستگان در گره یا منظور از شر ساحران و از شر حسود

حَسَدًا يَا رَبُّ بَعْدَ عِزَّتِكَ وَالْقَهْرُ بِلُطْفِكَ

زمانی کہ حسد کند اے پروردگار بہ بزرگی عزت و عظمت خود و چیرہ شدن بہ لطف خود

وَالرَّحْمَةِ رَحْمَتِكَ يَا وَاهِبُ الْعَطَايَا

و ترحم رحمت تو اے بخشندہ ہستی یا

يَا دَافِعَ الْبَلَاءِ يَا غَافِرَ الْخَطَايَا يَا سَتَّارَ

اے دفع کنندہ بلا یا اے امر زندہ لغزشہا اے پوشائندہ

الْعُيُوبِ يَا نُورَ الْغُيُوبِ يَا نُورَ الْقُلُوبِ

عیب یا اے روشنائی تاریکی یا دہنائی ہالے روشنائی دل یا

يَا حَبِيبَ الْقُلُوبِ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ

اے دوست ہو یاورد دل یا اے برآورندہ نیاز ہا

يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اے بخشنده و آفریننده دنیا و آخرت اے مهربان ترین مهربانان

وَبِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَصِيرُ الْأُمُورَ اللَّهُمَّ

د ب ح ق بار خدایا

اسْتَوْدِعْكَ نَفْسِي وَرُوحِي وَمَالِي وَأَوْلَادِي

بہ تو نے سپام نفسم و روحم و درائی خود و فرزندانم

وَجَمِيعَ مَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا

و تمام چیزہائے کہ نعمت دادی بر من در دین و دنیا

وَالْآخِرَةِ إِنَّهُ لَا يُضِيْعُ صَانِيكَ يَصُونُكَ

و آخرت بہ درستی کہ ضایع نئے شود صیانت از صیانت تو

وَمَحْفُوظُكَ وَمَا مَوْلُوكَ وَلَا يُجِيرُنِي

و حفظ تو و خواستہ تو و مرا احدی از تو بجزیر نیست

أَحَدٌ مِنْكَ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ

و نمی یابم غیر از او

مُلْتَحِدًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنْيَا

مُلْتَحِدًا بار خدایا پروردگارا بہ ماہدہ در دنیا

حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا

نیکی و در آخرت نیکی و دور کن

عَذَابَ النَّارِ وَعَذَابَ الْقَبْرِ بِرَحْمَتِكَ

مارا از عذاب آتش و عذاب قبر بہ رحمت خود

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ

اے مہربان ترین مہربانان و درود فرستاد خداوند

عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِلَيْهِ أَجْمَعِينَ الظَّاهِرِينَ

بر محمد و آل او کہ ہمگی پاکیزہ گائیند

وَالْأئِمَّةِ الْبَعْضُومِيْنَ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ

و پیشوایان معصوم و سلام داد سلام

كَثِيرًا كَثِيرًا

بسیار زیاد

دُعَاةُ اِمَامِ زَمَانٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

اَللّٰهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةَ ابْنِ
 الْحَسَنِ صَلَواتِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى
 اَبائِهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَفِي
 كُلِّ سَاعَةٍ وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَ
 ناصِرًا وَدَلِيلاً وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ
 اَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا
 طَوِيلاً ط اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ
 فَرَجَهُمْ

حالِ غم

حالِ غم سنائیں گے جب امام آئیں گے
 محفلیں سجائیں گے بام و در سجائیں گے
 جب امام آئیں گے

جن کو شک ہے اللہ کے عدل اور عدالت پر
 منصبِ نبوت پر سیدہ کی عصمت پر
 جن کو شک ہے بارہ پر بارہوں کی غیبت پر
 جب امام آئیں گے
 مرحلہ قیامت کا ہے ظہور پر موقوف
 اندادِ روز و جزا ہے ظہور پر موقوف
 انتقامِ کرب و بلا ہے ظہور پر موقوف
 جب امام آئیں گے

ال اہل جو کہتے ہو آگے تو کیا ہو گا؟
 کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا؟
 سبطِ جعفر اپنا سر گل یہی ہے سرمایہ

ہم یہی سنائیں گے
 جب امام آئیں گے

